

آنحضرتؐ کے پسندیدہ کھانوں اور غذاؤں کی افادیت اور میڈیکل تجزیہ

حضور اکرم ﷺ کی

پسندیدہ غذاؤں سے علاج

جدید سائنس

www.KitaboSunnat.com

حکیم محمد ادریس لہستانی

فاضل طب والجراحات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
قُلْ أَطِيعُوا اللّٰهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

مجلس التحقیق الاسلامی اربنہ
معدت البریری

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

معزز قارئین توجہ فرمائیں

- کتاب و سنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب... عام قاری کے مطالعے کیلئے ہیں۔
- مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کیلئے ان کتب کو ڈاؤن لوڈ (Download) کرنے کی اجازت ہے۔

تنبیہ

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعمال کرنے کی ممانعت ہے
کیونکہ یہ شرعی، اخلاقی اور قانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی
کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے
درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

✉ KitaboSunnat@gmail.com

🌐 www.KitaboSunnat.com


آنحضرت کے پسندیدہ کھانوں اور غذاؤں کی افادیت اور میڈیکل تجزیہ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

پسندیدہ غذاؤں کے علاج

جدید سائنس

25217



حکیم محمد ادریس لدھیانوی

فاضل طب و الجراحت

www.KitaboSunnat.com

مکتبہ دارالہکیت

32 میلان روڈ، چوک اے جی آفس لاہور

☎: 042-7239138

E-Mail: makkiderulkitab @ hotmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

- کتاب : حضور اکرمؐ کی پسندیدہ غذاؤں سے علاج اور جدید سائنس
- مصنف : حکیم محمد ادریس لدھیانوی
- اشاعت : جون 2003ء
- مطبع : حاجی حنیف اینڈ سنز لاہور
- برائے : مکی دارالکتب، چوک، اے جی، آفس لاہور
- قیمت : 130/- روپے
- اہتمام : محمد عباس شاد

Ph: 7239138

E-mail: makkidarulkutab@hotmail.com

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
11	﴿ علاج نبوی اور موجودہ دور کے طبی مسائل اور مشکلات ﴾	1
17	﴿ صحت بگاڑنے والی غذاؤں کی تعلیمات نبوی کی روشنی میں ﴾	2
23	﴿ حضور اکرم ﷺ کے کھانے کے معمولات ﴾	3
24	حضور ﷺ کی متروک غذاؤں	4
25	حضور ﷺ کی ناپسندیدہ غذاؤں	5
25	مضر غذاؤں کی اصلاح	6
26	آگے کا دودھ اور گھی	7
27	کھجور اور کنگری	8
28	تربوز اور کھجور	9
29	کھجور اور مکھن	10
30	گوشت مرغوب ترین غذا	11
30	حضور ﷺ کا مرغوب گوشت	12
31	مرغوب گوشت	13
33	بھنا ہوا گوشت	14
34	پرندوں کا گوشت	15
37	﴿ امراض قلب، زہر اور جادو کا غذائی علاج ﴾	16
37	قرآن حکیم میں کھجور کا ذکر	17
41	احادیث میں کھجور کا ذکر	18

50	قوتِ باہ میں اضافہ	19
50	کھجور کے درخت کا تاریخی پس منظر	20
51	کھجور کی طبی خصوصیات	21
52	کھجور کی کیمیائی ماہیت	22
54	کھجور کے طبی فوائد	23
57	﴿پیٹ میں درد کا غذائی علاج﴾	24
59	﴿عرق النساء کی تکلیف کا غذائی علاج﴾	25
61	﴿پیٹ کے جملہ امراض کا کامیاب علاج﴾	26
61	شہد کا قرآنِ عظیم میں ذکر	27
62	احادیثِ نبوی میں ذکر	28
73	شہد کے چند فوائد	29
73	نیلے داغ دھبے	30
74	وبائی امراض	31
74	پرانے زخم	32
74	زہر خوردنی کا علاج	33
75	زہریلے جانوروں کے کانٹے کا علاج	34
75	بچھو کانٹے کا علاج	35
75	کلہاڑی، برچھی یا تلوار کا زخم	36
76	آگ سے جلنا	37

77	﴿بواسیر اور دردِ نفیس کا غذائی علاج﴾	38
81	﴿غصہ دور کرنے کا غذائی علاج﴾	39
97	﴿رج و حزن اور اداسی دور کرنے کا غذائی نسخہ﴾	40
99	﴿جسمانی امراض کا جادو اثر غذائی علاج﴾	41
105	لبس کا انسانی جسم پر اثر	42
106	احتیاط و نقصانات	43
106	لبس کی بو پر نہ جائیں	44
109	﴿بھوک لگانے اور نظام ہضم کو درست رکھنے کا غذائی علاج﴾	45
113	﴿مقوی دماغ غذائی ٹانک﴾	46
115	نسخہ اخروٹ یعنی لذوقیام شباب	47
117	﴿معدہ کی جلن اور دیگر بیماریوں کا غذائی علاج﴾	48
121	﴿جسمانی قوت کے لئے زبردست غذائی علاج﴾	49
121	دودھ کا قرآن حکیم میں ذکر	50
123	دودھ کا احادیث نبوی ﷺ میں ذکر	51
130	دودھ سے بنی ہوئی اشیاء	52
131	﴿خطرناک بیماریوں کا غذائی علاج﴾	53
134	پھل اور سبزیوں کے ذریعے وزن میں کمی	54
135	سبزیوں کے استعمال سے بھوک نہ لگنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے	55
137	سبزیوں کے استعمال سے قبض کا خاتمہ	56

141	چند ایک سبزیوں کی تفصیلات	57
147	﴿ کمزوری کے خاتمہ اور قوت باہ کا غذائی علاج ﴾	58
149	بال بڑھانے کے لئے	59
150	جوڑوں کے لئے	60
150	خشکی کے لئے	61
150	چقدر کا تیل	62
150	سر درد کے لئے	63
150	سیاہ دانگوں اور چھائیوں کے لئے	64
151	دانت کے درد کے لئے	65
151	گھنے بالوں کے لئے	66
151	گھٹیا کے ورم کے لئے	67
151	جوڑوں کے درد کے لئے تیل	68
152	چقدر کا گوشت	69
152	چقدر قیمہ	70
152	چقدر کی سلاد	71
152	چقدر کا لذیذ حلوہ	72
153	﴿ دل و دماغ کی تقویت کا غذائی علاج ﴾	73
161	کدو کا مربہ	74
162	کدو پاک	75

162	شربت کدو	76
162	کدو کا اچار	77
163	گھنے کارائنتہ	78
163	سبزی کدو	79
164	کدو کی افادیت	80
167	﴿شکمی رطوبت کا غذائی علاج﴾	81
171	﴿خون صاف کرنے کا غذائی علاج﴾	82
173	انگور کے کیمیائی اجزاء	83
175	﴿تبخیر معدہ سے نجات کا غذائی علاج﴾	84
175	کھجور پر غذا اور قدرتی اسپرین	85
177	کھجور اور بیماریوں کا تعلق	86
178	کھجور کے دوسری غذائی اشیاء کے ساتھ فوائد	87
178	کھجور سے بنی اشیاء	88
179	﴿دماغ کی خشکی اور خارش کا غذائی علاج﴾	89
180	خربوزے کا مزاج اور کیمیائی اجزاء	90
180	خربوزہ کھانے کے اوقات	91
181	گوشت گلانے کا آسان نسخہ	92
181	حسن و خوبصورتی	93
181	خربوزے کے ادویاتی کرشمے	94

182	عورتیں، جوان لڑکیاں اور خربوزہ	95
182	درِ گردہ کا خربوزے سے فوری اور شافی علاج	96
183	خربوزے کا لپ	97
183	خربوزے کے عام خواص	98
184	خربوزے کے بیج	99
187	﴿خون صاف کرنے کا غذائی علاج﴾	100
188	احادیث نبوی ﷺ میں ذکر	101
195	﴿دل و دماغ کی کمزوری ختم کرنے کا غذائی علاج﴾	102
197	﴿بدن کی کمزوری دور کرنے کا غذائی علاج﴾	103
204	بکرے کا گوشت	104
204	مرغی کا گوشت	105
204	بھیڑ کا گوشت	106
205	خزگوش کا گوشت	107
205	مرغابی کا گوشت	108
205	گائے کا گوشت	109
205	مچھلی کا گوشت	110
206	گوشت خوری میں بے اعتدالی	111
213	﴿کھانا ہضم کرنے کا غذائی علاج﴾	112
219	﴿نامردی اور قوت باہ کا غذائی علاج﴾	113

221	پروٹین	114
222	وٹامنز	115
222	معدنیات (منرلز)	116
222	چکنائی (فیٹ)	117
233	﴿بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کی اقدیت اور تعلیمات نبوی ﷺ﴾	118
234	ماؤں کے لئے ایک مشورہ	119
234	کونسی مائیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں	120
235	پیدا ہونے والے کے لئے تیاری	121
236	بچے کو دودھ دینا کب شروع کیا جائے؟	122
237	بچے کو کس عمر تک دودھ پلایا جا سکتا ہے؟	123
238	ماں کے دودھ کی فطری صفات	124
240	ماں کے دودھ میں وقفے اور درکار عرصہ	125
242	دودھ بنانے کا ماں پر اثر	126
243	﴿ستر بیماریوں سے شفاء کا غذائی علاج﴾	127
249	﴿برص قونج، سے نجات کا غذائی علاج﴾	128
252	احادیث نبوی	129
257	﴿پرانی کھانسی، طلق میں سوزش اور درم میں غذائی علاج﴾	130

25217

علاج نبوی اور موجودہ دور کے طبی مسائل اور مشکلات

سرور کائنات حضرت محمد ﷺ کے طریقہ علاج و معالجہ کو علاج نبوی ﷺ کہا جاتا ہے۔ موجودہ زمانہ جس میں اخلاقی، روحانی اور معاشرتی اقدار و انسانی کردار صرف لفظوں تک محدود ہو گئے ہوں، آلودگی میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہو منشیات پھین رہی ہیں ہماری، خوراک کا ہر جز آمیزش اور ملاوٹ کی زد میں درجن سے زائد بیماریوں کے جراثیم کا مرکب ہو، کینسر، ایڈز اور طاعون جیسے خوفناک، پیچیدہ اور لا علاج امراض قیمتی انسانی جانوں کا تعاقب کیے ہوئے ہوں، ایسے حالات میں صرف دوا کا سہارا لینا اور ”علاج نبوی ﷺ“ کو یکسر نظر انداز کر دینا سراسر بے وقوفی ہے۔ موجودہ دور کی گھمبیر صورت حال اہل دانش کے لئے بہت بڑا چیلنج اور لمحہ فکر یہ ہے۔ ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی صورت حال کیوں پیش آئی اور اس کے تدارک اور خاتمہ کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں؟

میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ اسوہ حسنہ سے دوری اور علاج نبوی ﷺ کو مکمل نظر انداز کر دینا ہے۔ جب تک مسلمانوں نے علاج نبوی ﷺ اور اسوہ حسنہ کو اپنا لئے رکھا کینسر، ایڈز اور طاعون جیسی مہلک بیماریوں سے نہ صرف محفوظ رہے بلکہ خوشحال زندگی بسر کی اور اس طرح کی کسی بیماری کا نام تک نہ سنا۔ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ زمانہ قدیم میں بیماریاں نہ ہونے کے برابر تھیں اور علاج نبوی ﷺ سے ان کا علاج بغیر

کسی پریشانی کے ہو جاتا تھا۔ موجودہ دور کی طرح غربت یا اس طرح کی کوئی اور پریشانی سنگ راہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ علاج نبوی ﷺ نہایت سستا اور مفید علاج تھا۔

علاج نبوی ﷺ جس قدر اہم ہے اسی قدر آسان اور ارزاں بھی ہے۔ آج کل اگر کسی ایک بیماری سے چھٹکارا پانے کے لئے کوئی اینٹی بائیونک (Antibiotic) استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس بیماری سے چھٹکارا پانا تو درکنار میسوں اور بیماریاں جنم لے لیتی ہیں اور یوں انسان بیماریوں کے جال میں اس مکھی کی طرح پھنس جاتا ہے جو مکڑے کے جال میں پھنسی اپنی زندگی کے آخری سانس لے ہی ہو۔ لہذا کوشش یہ ہونی چاہئے کہ جس قدر ممکن ہو علاج نبوی ﷺ کے طریقے اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس فطری طریقہ علاج کی ترغیب دیں۔

جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو تندرستی اور صحت کے لئے ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس چکر لگاتے پھرتے ہیں۔ غرضیکہ ہر قسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں لیکن اپنے اللہ اور رسول ﷺ کے بتائے ہوئے طریقوں اور علاج کی طرف توجہ نہیں دیتے جبکہ صحت اور تندرستی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے دوسرے شعبوں کی طرح صحت و تندرستی اور علاج معالجہ کے شعبے میں بھی ہمیں زریں اصول اور تدابیر بتائی ہیں۔ لیکن یہ ہماری بد قسمتی ہے کہ ہم پوری طرح ان سے واقف نہیں ہوئے۔ اب تو اس موضوع پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور علاج نبوی ﷺ سے فیض حاصل کرنے والوں کی تشنگی کافی حد تک بجھائی جا چکی ہے اور انسان جس وقت اور جب چاہے استفادہ کر سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے انسان کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اور اس کی بندگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک انسان پوری طرح صحت مند اور تندرست نہ ہو اور

تندرستی کا حصول اس پر موقوف ہے کہ آدمی اپنی جسمانی صحت کا پوری طرح خیال رکھے عموماً تندرستی اور صحت کے لئے چار طریقے رائج ہیں: (۱) دعا (۲) دوا (۳) عمل (۴) پرہیز۔

لیکن جسمانی امراض کے بعض معالج مثلاً: جالینوس وغیرہ جو صرف تجربہ پر ہی زور دیتے تھے مرض کے لئے صرف دعا کو کافی نہیں سمجھتے تھے اور مسلمانوں کے متعلق کہتے تھے کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں ازالہ مرض میں صرف دعا کے قائل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ دعا کا تعلق زبان سے ہے اور جسمانی امراض پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ان کی محض خام خیالی ہے وہ اس لئے کہ بات کی تاثیر اور اہمیت سے ہر شخص واقف ہے۔ جیسا کہ ایک عرب شاعر کا خیال ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ مثلاً: اگر ایک شخص کسی دوسرے شخص کو برا کہے تو مخاطب کا دل زخمی ہوگا اسی طرح اچھی بات کا اثر بھی ظاہر سے گزر کر انسان کے دل تک پہنچتا ہے۔ جب ایک معمولی انسان کی بات میں اس قدر اثر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے کلام میں اثر کیوں نہ ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص دعا کا قائل نہ ہو تو ظاہر ہے یہ اس کی جہالت اور حماقت ہے۔ اس لئے کہ وہ بدکلامی اور بری بات کی تاثیر کا تو قائل ہو اور اس لئے الہی اور کلام الہی کی تاثیر کا قائل نہ ہو۔

یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو دو چیزوں جسم اور روح سے تخلیق کیا ہے اور رحمت العالمین حضرت محمد ﷺ کو امراض روحانی کے علاج کے ساتھ جسمانی امراض کا علاج بھی بتایا، چونکہ اگر آپ ﷺ کو جسمانی امراض کا علاج نہ سکھایا ہوتا تو دشمنان اسلام آپ ﷺ کے سامنے اور آپ ﷺ کے بعد علمائے امت کے سامنے اعتراض کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو تمام دنیا کیلئے رحمت کس طرح بنا کر بھیجا؟ کیونکہ آدمی کا جسم بھی دنیا میں شامل ہے اور آپ ﷺ کو جسم کی اصلاح کے گر معلوم نہیں تو جسم کے لئے کسی طرح بھی آپ رحمت نہیں ہو سکتے۔ اس اعتراض کا ہر شخص کے لئے جواب دینا مشکل ہو جاتا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد ﷺ

کو جسم و روح دونوں کا علاج سکھایا۔ یہ ضرور سمجھ لینا چاہئے کہ حکمائے جسمانی فقط دوا سے علاج کرتے ہیں اور علاج نبوی ﷺ میں دعا اور دوا دونوں سے علاج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ تجربہ شاہد ہے کہ بہت سے امراض ایسے ہیں جو دوا سے نہیں جاتے، جیسے جادو، آسیب، نظر لگنا وغیرہ۔ یہ بیماریاں اللہ کے پاک نام اور دعاؤں سے ہی جاتی ہیں بلکہ بہت سے اعمال سے ہی جو انسان اگر پیشگی کر لے تو اس قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔

علاج نبوی ﷺ کا تعلق وحی سے ہے اور عام دنیاوی طریقہ علاج کا انحصار تجربہ پر ہے۔ بعض لوگوں نے تجربے کو یقین کے قریب بتایا ہے لیکن تجربہ مرتبہ وحی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لئے جو شخص اپنے جسم کا علاج نبوی ﷺ سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے دل میں علاج نبوی ﷺ کے متعلق اعتقاد و یقین کو مستحکم کر لے، کیونکہ اس کے بغیر علاج نبوی ﷺ سے فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ اعتقاد و یقین جس قدر مضبوط اور مستحکم ہوں گے اسی قدر زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔

اگر کوئی شخص اس میں اپنی عقل، فہم و فراست کو دخل دے گا تو وہ ان فوائد سے محروم رہے گا کیونکہ انبیاء علیہم السلام روحانی معالج ہیں جیسے ان کا روحانی علاج عقل میں نہیں سما سکتا ویسے ہی جسمانی علاج بھی عقل کے موافق نہیں بن سکتا اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ جسمانی بیماریوں کا علاج دوا سے بھی کریں اور دعا سے بھی تاکہ صرف دوا پر ہی بھروسہ نہ ہو جائے، دوا بھی تدبیر کے درجہ میں ضروری ہے لیکن شفاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اور جو شخص صرف دوا کو ہی بالذات شفاء دینے والی سمجھے تو وہ مشرک ہے۔ حضرت اسامہ بن شریکؓ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں ان کے مطابق دوائیں بھی پیدا کی ہیں۔

یہ بات واضح ہے کہ جسمانی امراض کا علاج چار طریقوں سے کیا جاتا ہے دوا سے، دعا سے، کسی مخصوص عمل کے کرنے سے اور کسی عمل کو چھوڑنے سے، اگر آج بھی ہم سیرت طیبہ اور علاج نبوی ﷺ کو اپنالیں تو میں پورے یقین و ثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ

نہ صرف ہمیں اپنی کھوئی ہوئی قدریں اور ثقافت واپس ملے گی بلکہ ان خطرناک قسم کی بیماریوں سے بھی نجات پائیں گے۔ اگر غور کیا جائے تو علاج نبوی ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے اور ہمارے معاشرے کا ہر وہ آدمی کتنا بد نصیب ہے جو اس گراں قدر نعمت سے مستفید نہیں ہوتا۔ علاج نبوی ﷺ سے بے شمار بیماریوں کا علاج ممکن ہے بلکہ زمانہ قدیم میں طریقہ علاج نبوی ﷺ ہی تھا۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہؓ پیٹ کے دزدکی وجہ سے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے کہ رسول اکرم ﷺ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا تم بیمار ہو؟ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا: ”ہاں یا رسول اللہ۔ آپ ﷺ نے“ فرمایا: ”اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھنا شروع کر دو“ کیونکہ نماز میں شفاء ہے۔“ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ یہ اس لئے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد میں شفاء ہے۔ حکماء نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً: اس کو نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے، معدہ صاف ہوتا ہے، فضلات رفع ہوتے ہیں، معدہ کو اعتدال پر لاتا ہے۔ دماغ کو قوت بخشتا ہے، خراب رطوبت کو دور کرتا ہے۔ قوت باہ میں اضافہ کرتا ہے، مثانہ کے لئے مفید ٹانک ہے۔ فالج، لقوہ کے لئے مفید ہے، بھوک لگاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک دودھ اور شہد ہزاروں بوٹیوں کا عرق ہیں۔ اگر تمام جہان کے علماء اور حکماء مل کر اس کا عرق تیار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے بندوں کے لئے اس قسم کے عمدہ اور کثیر الفوائد عرق پیدا کئے ہیں

اسی طرح علاج نبوی ﷺ میں ایسے ایسے آسان اور فائدہ مند علاج ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جن کا تفصیلی ذکر یہاں پر ممکن نہیں۔ ان کے علاوہ علاج نبوی ﷺ سے تمام بڑی اور خطرناک بیماریوں کے علاج کے علاوہ عام بیماریوں کا علاج

نہایت آسان اور بغیر کسی پریشانی کے ممکن ہے۔ لیکن ہم یہاں بیماری کی صورت میں علاج نبوی ﷺ کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے اور اگر دیہات میں ہوں تو دور دراز علاقوں کا کٹھن سفر طے کر کے علاج کے لئے شہر میں پہنچتے ہیں اور بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنے کے باوجود مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر شہر میں ہوں تو بھی ہمیں سوائے پریشانی کے کچھ فائدہ نہیں پہنچتا حتیٰ کہ ہم شہر میں گلی گلی کلینک گھوم لیتے ہیں اور کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتے جس کو مریض چیک نہ کروائیں خواہ کتنا ہی مہنگا کیوں نہ ہو، لیکن ہمیں مریض کی جان عزیز ہوتی ہے اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اگر ہمارے گھر، زمین، جائیداد وغیرہ سب کچھ فروخت ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن مریض کی جان بخشی ہوئی چاہئے۔ اس کے باوجود جب رزلٹ منفی میں ملتا ہے تو پھر ہماری کیا حالت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس لئے اس طرح کی تمام پریشانیوں سے بچنے کے لئے ہمیں علاج نبوی ﷺ سے زیادہ سے زیادہ مستفید ہونا چاہئے۔

آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ شہر کی نسبت دیہات میں لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اس کی وجہ وہاں کا صاف ستھرا خالص اور نفیس ماحول بالعموم اور علاج نبوی ﷺ سے کسی حد تک قربت بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں کے لوگ سادہ زندگی بسر کرتے ہیں، جو حضور اکرم ﷺ کو عزیز تھی۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم حضور اکرم ﷺ کے بتائے ہوئے طور طریقوں کو اختیار کریں اور دوسروں کو بھی ان کی ترغیب دیں، علاج نبوی ﷺ کے طریقہ علاج کو جس قدر ممکن ہو نام کریں۔ اس کی اہمیت سے دوسروں کو آگاہ کریں، اور خود بھی زیادہ سے زیادہ طب نبوی ﷺ سے مستفید ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بیماریوں سے شفا یاب کرے۔

صحت بگاڑنے والی غذا میں تعلیمات نبوی کی روشنی میں

پیارے نبی کے کھانے پینے کے طور طریقے دنیا بھر کو بیماریوں سے نجات دلا کر تندرستی کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری اور پیارے نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے ہمیں انسانی صحت کو بگاڑنے والی غذاؤں کے متعلق نشاندہی فرمادی ہے۔ انسانی صحت کے قائم رکھنے اور گری ہوئی صحت کو بحال کرنے کے لئے سائنس دانان حفظان صحت کے نظریے اور اصول دنیا کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں۔ سائنس کے یہ نظریات طویل مشاہدات کے بعد دنیا کے سامنے پیش کئے جاتے ہیں۔

مالک الملک جل جلالہ نے انسان کو سر کی کھوپڑی میں ایک نرم قسم کا دماغ عطا فرمایا ہے۔ اس دماغ کا گره دار جو ہر دنیا بھر کی معلومات اپنے اندر سمونے ہوئے ہے۔ ہر انسان ذرا سا غور کرنے پر دس بیس سال کی پرانی یادداشتیں بھری محفل کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے تحت انسانی دماغ قریباً اڑتالیس اوقیہ (اونس) وزن رکھتا ہے۔ کم ذہن اور دماغی عدم توازن والے افراد کا دماغ بیس اوقیہ (اونس) سے بھی کم وزن کا دیکھا گیا ہے۔ اعلیٰ دماغی شخصیتوں کے دماغ کا وزن ساٹھ اوقیہ یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔

رسولوں اور نبیوں (علیہم السلام) کے دماغ وزن میں تمام مخلوق سے زیادہ وزنی ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولیٰ حضور محمد رسول اللہ ﷺ کا دماغ مالک الملک نے دنیا بھر کے دماغوں سے افضل ترین تخلیق فرمایا حضور ﷺ نے ہمارے لئے بدنی صحت کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لئے وہ وہ حقائق بیان فرمائے جب کو صدیوں بعد سائنس دانوں نے غور فکر کی کسوٹی پر پرکھ کر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہمارے آقا و مولیٰ ﷺ دنیا کے سب سے بڑے طبیب تھے۔ حضور ﷺ نے کھانے پینے کے بارے میں ہمیں ایسے سائنٹیفک اصول تعلیم فرمائے جن کو صدیوں بعد سائنس دانوں نے دنیا کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔

زاد المعاد حافظ علام ابن قیم کی مشہور کتاب ہے اس میں حضور پر نور ﷺ کی ان غذاؤں کا ذکر آیا ہے جن کو آپ حضرت ﷺ ایک وقت میں اکٹھا تناول نہیں فرماتے تھے۔ عبارت کتاب ملاحظہ فرمائیں:

وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي وَقْتِ شِدَّةِ حَرِّ آرزو وَلَا طَبِيخًا بَاتِنًا يَسْحَنُ لَهُ بِالْعَدِ۔ یعنی ہمارے آقا و مولیٰ تیز گرم کھانا تناول نہیں فرماتے تھے اور نہ ہی رات کا پکا ہوا باسی کھانا اگلے روز تناول فرماتے تھے۔ گویا یہ تاجدار مدینہ نبی امی کا پسند فرمودہ طریقہ تھا کہ کھانے کو گرم ہونے کی صورت میں تناول نہیں فرماتے تھے اور رات کا پکا ہوا باسی کھانا اگلے روز نوش نہ فرماتے تھے۔

آج سے چودہ صدیاں پہلے سائنس دان یہ نہیں جانتے تھے کہ ٹھنڈے گرم تازہ اور باسی کھانے کے اثرات میں کیا فرق ہے۔ حضور پر نور ﷺ نے بین الاقوامی سائنس دانوں کے سامنے صحت بنانے اور بیماریاں دور کرنے والے روشن

حقائق بیان فرمادیے۔ آج یہ حقائق اور مسلمات امریکہ، برطانیہ، جرمنی، روس اور فرانس کے سائنس دانوں کو مزید تحقیق کرنے کی راہیں بتا رہے ہیں۔ آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہر پھل، سبزی، جڑ، پھول، گوشت اور دودھ میں صحت کو قائم و دائم رکھنے والے چند لطیف جوہر ہوتے ہیں جن کو حیاتین اور وٹامنز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ حیاتین اگر کسی غذا میں سے خارج کر دیئے جائیں یا زیادہ حرارت دینے سے یا دیر تک برف میں رکھنے سے ان میں کمی بیشی آجائے تو موجودہ دور کا سائنس دان انہیں انسانی صحت کے لئے مضر اور نقصان دہ قرار دیتا ہے۔

اس وقت دنیا بھر کی غذاؤں میں متعدد حیاتین دریافت ہو چکے ہیں۔ ان حیاتین کو الف۔ ب۔ ج۔ د۔ ہ۔ ی وغیرہ ناموں سے دنیا خوب جانتی اور پہنچاتی ہے۔ ان میں بعض حیاتین تو تیز گرم پانی میں حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں بعض درمیانے درجے کی حرارت پر اڑنا اور خارج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض حیاتین تیز آگ پر فنا اور بے اثر ہو جاتے ہیں۔ ان حیاتین (وٹامنز) کو محفوظ رکھنے کے لئے تجربہ کار اطباء غذاؤں کو دودھ، دہی، پانی، حریرہ، دلیدہ، جو شانندہ، خمیر، جوارش اور مہجون کی شکل میں تیار کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب ذرا حضور پر نور ﷺ کی صحت بخش اور حکیمانہ ہدایت کو دیکھیں۔ حضور ﷺ کسی بھی کھانے کو جب کہ وہ زیادہ گرم ہوتا تھا زبان مبارک پر نہ رکھتے تھے۔ ہزاروں مریض گرم کھانا کھانے سے مختلف بیماریوں کے شکار ہو کر میرے مطلب میں علاج معالجہ کے لئے روزانہ آتے رہتے ہیں۔ زبان کا پکنا چھالوں اور زخموں سے پریشان ہزاروں مریض دنیا بھر کے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس علاج معالجہ کے لئے آتے رہتے ہیں۔ عموماً ہر حکیم ڈاکٹر روزانہ کئی مریضوں کی زبانوں کا معائنہ کرتا ہے۔

زبان کی اوپر والی جھلی کا رنگ گلابی ہوتا تھا مٹی تالی کے ستر دست ہونے کی علامت ہے میں ہر ہفتے سینکڑوں مریضوں کی زبان پر سفید یا زرد تہہ چڑھی ہوتی دیکھتا ہوں کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حکیم صاحب میں صبح کئی دفعہ زبان کو کھینچ کر یہ مٹی تہہ اتارتا ہوں مگر دو گھنٹے کے بعد پھر زبان میل ہو جاتی ہے۔ زبان کی جڑ اور درگرد لعلابی غدودیں ہوتی ہیں جو تھوک پیدا کر کے زبان کو تر اور نشاستہ دار غذاؤں کو شکر اور گلوکوز میں تبدیلی کرتی رہتی ہیں۔ منہ کے اندر دو مسوڑھے بھی ہوتے ہیں جن میں ہمارے دامت جڑے ہوتے ہیں۔ رات دن مسوڑھوں کے چھیل جانے۔ پھول جانے اور ان میں خون یا پیپ جاری رہنے کے مریض تو آجکل بڑی کثرت سے حکیموں ڈاکٹروں کے پاس آتے رہتے ہیں تحقیق کوٹنے پر سائنس دان اور اطباء اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ گرم گرم نوالے، چائے بوٹی اور روٹی ہی ان بیماریوں کا اصل سبب ہے۔

جناب ختم المرسلین ﷺ نے ہمیں کیسا عمدہ سبق پڑھایا۔ اگر ہم گرم گرم کھانا گرم مشروب (چائے اور کافی) چھوڑ دیں تو درجنوں امراض سے محفوظ رہیں گے۔

اب رہا باسی کھانے کا مسئلہ تو حضور ﷺ نے اس طرف بھی ہماری راہنمائی فرمائی کہ ایک دفعہ کا پکا ہوا کھانا دوسری مرتبہ گرم نہ کیا جائے۔ آج طبی نقطہ نگاہ سے باسی کھانا

درجنوں بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ لہذا جب دات کے کھانے کو ہم دوسرے دن کھائیں گے تو اسے عموماً ہلکا یا زیادہ جوش دیتے ہیں۔ اس جوش دینے سے بعض نازک قسم کے خیا تین ضائع ہونے شروع ہا جاتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ باسی کھانے اور تازہ کھانے کے ذائقے میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے۔ جب کھانا ایک دفعہ مختلف غذا میں شامل ہونے کے بعد پک گیا تو اس کا ایک مزاج قائم ہو جاتا ہے۔ سائنس دان ہمیں یہ بتلانے پر مجبور ہیں کہ رکھی پڑی غذا کے ذائقہ اور اجزائی ترکیب میں دن بدن فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ غذا کے بعض اجزا فساد قبول کر لیتے ہیں۔ بعض اجزا بیرونی گرمی سردی اور برتن کے اجزا سے زہریلے اثرات حاصل کر لیتے ہیں۔ آج تو گھر گھر ریفریجریٹر رکھا ہوا ہے۔ کوئی بھی کھانا ہو، اس میں گرمی اور فرج کی سردی کچھ نہ کچھ اثر ضرور کرے گی۔ سٹری بسی غذا کو معاشرہ کم ہی استعمال کرتا ہے۔ غذا میں ذائقہ کی تبدیلی جراثیم اور ننھے ننھے کرموں کے پیدا ہونے سے واقع ہوتی ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ جراثیم خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتے۔ لیکن فخر رسل ﷺ کی بیبا اور حسین ترین مبارک آنکھ نے غذا میں جراثیم پیدا ہونے کا عمل ملاحظہ فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے حضور باسی کھانا کھانے سے منع فرماتے تھے خوب ذہن نشین کر لیجئے کہ غذا کے ذائقہ میں تغیر جراثیم پیدا ہونے سے رونما ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی ﷺ کے

کھانے پینے کے طور طریقے دنیا بھر کو بیماریوں سے چھٹکارا دلا کر شفاء کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طبیب اعظم کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔

حضور اکرم ﷺ کے کھانے کے معمولات

حضور اکرم ﷺ کی غذاؤں کے بارہ میں ہم علامہ حافظ ابن قیم کا بیان انہیں کے الفاظ میں ”طب نبوی ﷺ“ سے درج کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم مندرجہ ذیل غذاؤں کو کبھی بکجا تناول نہیں فرماتے تھے۔

لَمْ يَجْمَعْ قُطْبَ بَيْنَ لَبْنٍ وَسَمَكٍ

1- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دودھ اور مچھلی کو جمع نہیں فرماتے تھے۔

وَلَا بَيْنَ لَبْنٍ وَحَامِضٍ

2- دودھ اور کوئی ترش چیز بکجا تناول نہ فرماتے۔

وَلَا بَيْنَ غِذَائَيْنِ حَارَّيْنِ وَلَا بَادِيَيْنِ وَلَا لَزَجِيَيْنِ وَلَا قَابِضِيَيْنِ وَلَا مُسَهِّلِيَيْنِ وَلَا

غَلِيظِيَيْنِ وَلَا مُرْحَقِيَيْنِ وَلَا سُنْحِيَلِيَيْنِ إِلَى خَلِطٍ وَاحِدٍ

3- نہ دو گرم غذائیں، نہ دوسرے غذائیں، نہ دو پکنی، نہ دو قابض، نہ دو مسہل چیزیں نہ دو غلیظ چیزیں، نہ دو ایسی چیزیں جو ایک ہی خلط میں جمع ہو جانے والی ہوں۔

وَلَا بَيْنَ مُخْتَلِفِيَيْنِ كَقَابِضٍ وَمُسَهِّلٍ وَسَرِيْعٍ الْهَضْمِ وَبَطِيْئِهِ

4- اسی طرح دو مختلف تاثیر رکھنے والی چیزیں جمع نہ فرماتے تھے۔ مثلاً ایک قابض اور مسہل

، ایک زود ہضم اور ایک دیر ہضم

وَلَا بَيْنَ شَوِيٍّ وَطَبِيخٍ وَلَا بَيْنَ طِرِيٍّ وَتَدْيِدٍ

5- ”نہ ایک بھنی ہوئی اور ایک پکی ہوئی، نہ ایک تازہ اور ایک باسی جمع کر کے تناول فرماتے تھے“ (زاد المعاد جلد دوم)

حضور ﷺ کی متروک غذا میں

”زاد المعاد“ علامہ ابن قیم کی مشہور کتاب ہے اس کتاب میں سے حضور ﷺ کی غذاؤں کے بارے میں ہم پچھلے صفحہ پر کچھ حصہ نقل کر چکے ہیں۔ اب ہم ان کی شہرہ آفاق کتاب سے غذاؤں کا تذکرہ کرتے ہیں جنہیں آنحضرت ﷺ تناول فرماتے تھے۔

وَلَمْ يَكُنْ يَأْكُلُ طَعَامَ مَافِي وَقْتِ شِدَّةِ حَرَارَةِ

1- ”حضور ﷺ تیز گرم کھانا نہیں کھاتے تھے“

وَلَا طَبِيخًا بَاتِنًا يَسْخِنُ لَهُ بِالْعَدِّ

2- نہ رات کا پکا ہوا باسی کھانا دوسرے دن استعمال فرماتے تھے

وَلَا شَيْئًا مِّنَ الْأَطْعَمَةِ الْعَفْنَةِ وَالْمَالِحَةِ كَالْكُوَامِخِ

3- اس طرح آپ ﷺ نہ کوئی بدبودار کھانا پسند فرماتے تھے۔ نہ چٹ پٹھے کھانے۔ مثلاً چشیاں وغیرہ۔

تیز گرم کھانا نہ کھانے کی حکمت بہ آسانی سمجھ میں آجاتی ہے اور اس کے نقصانات کسی سے پوشیدہ نہیں لیکن افسوس کہ ہم اکثر اس امر کو بھول جاتے ہیں اور اچھے بھلے صحت بخش کھانوں سے فائدہ کے بجائے نقصان اٹھاتے ہیں۔

باسی اور بدبودار کھانے میں جو مضر اثرات ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں چٹ پٹے کھانے اور چشٹیوں سے گلے اور معدے کی جو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ سب پر عیاں ہیں اسکے باوجود اگر ان سے پرہیز نہ کیا جائے تو اسے بد قسمتی کے سوا اور کیا کہا جائے۔

حضور ﷺ کی ناپسندیدہ غذائیں

حضرت جابر بن سمرہؓ راوی ہیں۔

حضرت رسول کریم ﷺ نے حضرت ابوایوب انصاریؓ کے مکان میں قیام فرمایا۔ وہ جب کھانا کھاتے تو کچھ حضور ﷺ کے لئے بھیج دیتے۔ ایک دن انہوں نے کوئی کھانا بھیجا۔ مگر حضور ﷺ نے تناول نہ فرمایا۔ حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو اس کے بارہ میں ذکر کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس میں لہسن ہے انہوں نے عرض کیا۔ یا رسول ﷺ! کیا یہ حرام ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا وں کسی اکڑھہ من اجل ریحہ لیکن میں اسے اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔

(ترمذی شریف)

ایک لہسن پر کیا موقوف ہے آپ ﷺ ہر ایسی شے سے پرہیز فرماتے تھے جس سے کسی کو کراہت ہوتی ہو۔ جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے۔

عبید اللہ بن ابی بزیڑ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ام ایوبؓ نے مجھے بتلایا کہ حضور ﷺ ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کے لئے کھانا تیار کیا گیا۔ اس میں بعض سبزیاں بھی تھیں۔ حضور ﷺ نے انہیں کھانا پسند نہ کیا لیکن اپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ تم کھا لو۔ میں تم جیسا نہیں ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ (اس کھانے سے) میرے ساتھی کو تکلیف نہ ہو۔

(ترمذی شریف)

مضر غذاؤں کی اصلاح

زاد المعاد سے حضور ﷺ کی غذاؤں کے بارہ میں کچھ نہایت مفید معلومات ہم گذشتہ صفحات میں درج کر چکے ہیں۔ غذاؤں کے باب میں آگے چل کر علامہ حافظ ابن قیمؒ ایک

نہایت مفید سلسلہ کلام شروع فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حضور ﷺ حضرت رساں غذاؤں کا ضرر کیسے دور کرتے تھے۔ فرماتے ہیں:

كَانَ يَصْلُحُ ضَرَرَ بَعْضِ الْأَعْدِيَةِ بِنَعْتِ إِذَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَيْلًا فَيَكْسِرُ حَرَارَةَ هَذَا بَبَرْدَةِ هَذَا وَيُبْرِئُ هَذَا بِرَطْوِيَةِ هَذَا

”جب حضور ﷺ کو بعض (مضر) غذاؤں کا استعمال کرنا ہی پڑتا تو بعض دوسری مصلح غذاؤں کے ذریعہ ان کا ضرر دور کر لیتے یعنی اس شے کی گرمی کو اس (دوسری شے) کی برودت سے۔ اور اس کی خشکی کو اس دوسری شے کی رطوبت سے دور کر لیتے“

اس کے بعد علامہ موصوف نے گلڑی اور تازہ کھجور کی مثال دی ہے جو ایک دوسرے کی مضرت کو دور کرتی ہیں اسی طرح پر آپ خشک کھجور کی گھی مکھن کے ساتھ استعمال فرماتے تھے کہ گھی سے کھجور کی خوشکی دور ہو جاتی ہے۔ (زاد المعاد)

ابوداؤد اور ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور ﷺ تازہ کھجور کے ساتھ تربوز کھاتے اور فرماتے کہ تربوز اس کی گرمی کو ماردیتا ہے۔ (زاد المعاد جلد دوم)

گائے کا دودھ اور گھی

عَنْ صَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ عَلَيْكُمْ بِالْبَنِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ وَسَمْنُهَا دَوَاءٌ وَلَحْمُهَا دَاءٌ

”حضرت صہیبؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”تم گائے کا دودھ استعمال کرنا لازم پکڑ لو کیونکہ اس میں شفاء ہے اور اس کے گھی میں دوا کی تاثیر ہے۔ اس کے گوشت میں روگ ہے۔“ (زاد المعاد جلد دوم)

مستدرک حاکم کی کتاب الطب میں پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اللہ نے کوئی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو اور گائے کے دودھ میں ہر بیماری سے

شفا کی تاثیر ہے۔ اس کتاب کی تیسری حدیث میں شفا کی وجہ یہ فرمائی ”کیونکہ گائے ہر درخت سے چرتی ہے۔ فانہا ترم من کل شجر (مستدرک حاکم)

یہ ایک حقیقت ہے کہ اونٹ، بھینس، بھینڑ بکری اور دوسرے تمام جانوروں کے مقابلہ میں گائے کا دودھ سب سے اعلیٰ ہے۔ تمام مضرات سے پاک ہے اور متعدد عوارض کے لئے شفا بخش ہے گائے کے دودھ کا مکھن اور گھی بھی کتنی ہی بیماریوں کا مددگار ہیں اطباء بطور دوا تجویز کرتے ہیں دوسری طرف گائے کا گوشت گرم ہے اور اپنی گرم تاثیر کے باعث بعض عوارض پیدا کرتا ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات ہرگز فراموش نہ کرنی چاہئے کہ گائے حلال ہے اور کسی حلال شے کو اپنے اوپر حرام قرار دینے کی ہرگز اجازت نہیں طبی نکتہ نظر سے استعمال اور عدم استعمال کی صورت اور ہے۔

کھجور اور کلتری

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطْبَ بِالْقِنَاءِ .

حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے حضور رسول کریم ﷺ کو دیکھا کہ وہ تازہ تر کھجور اور کلتری ایک ساتھ تناول فرما رہے تھے۔ (بخاری، مسلم و مشکوٰۃ)

حضور کا یہ عمل کس قدر حکیمانہ تھا۔ ”رُطْبَ پکی ہوئی تازہ کھجور کو کہتے ہیں۔ نہ کہ وہ جو کچی یا خشک ہو گئی ہو۔ کھجور اپنے تمام فوائد اور منافع کے باوجود ہر صورت گرم تاثیر رکھتی ہے۔ قِنَاءَ کلتری کو کہتے ہیں۔ جسے پنجابی میں ”تر“ کہتے ہیں واقعی وہ خود بھی اپنی ذات میں تری

ہوتی ہے۔ اس کی تاثیر بھی سردی ہوتی ہے۔ یہ غریبوں، امیروں کے لئے پھل کا پھل ہے اور سبزی کی سبزی پیاس، گرمی، جلن اور خون کے جوش کو سنبھالتی ہے دیر، ہضم ضرور ہوتی ہے ککڑی جگر کو تسکین دیتی ہے پیشاب آور ہے۔ سوزاک، سنگ گردہ و مٹھانہ کے لئے نافع ہے (کتاب المفردات خواص الادویہ صفحہ ۲۷۸)

قدرت خداوندی ۲،۳ فیصد نشاستہ موجود ہے۔ شحمیات، معدنی نمکیات، پوٹاشیم، لائم، فاسفورس، سلفر، وغیرہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ (صحت و تندرستی صفحہ ۲۰)

حضرت رسول کریم ﷺ نے تازہ کھجور اور ککڑی کو یکجا استعمال فرمایا۔

تربوز اور کھجور

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ الْبَيْطِخَ بِالرُّطْبِ يَقُولُ يَنْفَعُ حَرًّا هَذَا بَرِّدًا هَذَا۔

”حضرت رسول خدا ﷺ کے بارہ میں مروی ہے کہ حضور ﷺ تربوز تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ (تربوز) گرمی کو دور کرتا ہے اور یہ (تازہ) کھجور سردی کو دور کرتی ہے“ (ابوداؤد۔ ترمذی)

”رُطْب“ (تربوز تازہ کھجور) کے بارہ میں ہم ابھی مفصل نوٹ لکھ چکے ہیں۔

”بَيْطِخُ“ تربوز کے بارہ میں اطباء کی تحقیقات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔

”تاثیر سرد تر ہے۔ پیاس کو دور کرتا ہے پیشاب آور اور ایلین ہے تپ صفراوی اور تپ محرقہ سوزش بول سوزاک اور یرقان میں بیحد مفید ہے۔ سلِ دق اور خشک کھانسی میں بھی اس کا استعمال بہت سود مند ہے“ (کتاب المفردات۔ خواص الادویہ صفحہ ۱۳)

تربوز گرمی، خشکی، صفرا، پیاس اور جوشِ بخون کو یکساں طور پر دور کرتا ہے ان فوائد کے ساتھ دیر ہضم ہے قوتِ باہ کو کمزور کرتا ہے اچھارے کی شکایت پیدا کرتا ہے۔

تربوز کی اس متنوع تاثیر کو سامنے رکھئے اور پھر غور کیجئے کہ کھجور کے ساتھ اس کا استعمال کس حد تک مفید ہے۔ اور اپنے تمام تر مضرات سے کس طرح پاک ہو جاتا ہے۔

کھجور اور مکھن

عَنْ ابْنِ بَسْرِ السَّلْمِيِّ قَالَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَنَا زُبْدًا وَتَمْرًا وَكَانَ يُحِبُّ الرَبْزًا وَالتَّمْرَ۔

بسر سلمیٰ کے بیٹوں (عطیہ اور عبد اللہ) سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں اللہ کے رسول ﷺ تشریف لائے سو ہم نے حضور کی خدمت میں مکھن اور تازہ کھجوریں پیش کی۔ اور حضور مکھن اور تازہ کھجوروں کو پسند فرماتے تھے۔ (مشکوٰۃ شریف، زاد المعاد جلد سوم)۔

عرب میں انواع و اقسام کی کھجوریں ہوتی ہیں خصوصاً مدینہ منورہ میں متعدد اقسام کی کھجوریں ملتی ہیں ان میں سے عجمہ، شلمی، جلی وغیرہ کی خصوصیات کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے عبرتیں لحم میں سب سے بڑی ذائقہ میں لذیذ اور قیمت میں بھی غالباً سب سے گراں ہوتی ہے۔ سُخْل روکھی پھسکی ہوتی ہے۔ بغیر گھٹلی کے کچی اور بے کار پھل شمار ہوتی ہے ہمارے ناواقف ان بے گھٹلی کی کھجوروں کو عجمہ سمجھتے ہیں۔

مندرجہ بالا حدیث میں حضور ﷺ کی پسندیدہ کھجور تمر کا ذکر ہے اور تمر خشک کھجور کو کہتے ہیں سبحان اللہ کیا کہنے و یا رجبیب ﷺ کی تازہ کھجوروں کے! کتنی لذیذ اور کتنی شیریں ہوتی ہیں! ان کے سامنے اپنی گلاب جامنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ مٹھاس سے ہونٹ چپک جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ حضور ﷺ کو پسند تھیں اور آپ کی ایک مرغوب غذا تھیں۔

گوشت مرغوب ترین غذا

حضرت رسول کریم ﷺ کی مرغوب غذاؤں میں گوشت ہمیشہ سرفہرست رہا ہے۔ آپ گوشت کو بہت پسند فرماتے تھے اور خوب اس کی تعریف فرماتے تھے۔ اس بارہ میں حضور ﷺ کے دو مبارک ارشاد ملاحظہ ہوں۔

عَنْ أَبِي السَّرْدَاءِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِ طَعَامِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَأَهْلِ الْجَنَّةِ اللَّحْمِ

حضرت ابی الدرداءؓ حضور رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اہل دنیا اور اہل جنت دونوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ (ابن ماجہ زاد المعاد)

حضور کے ایک دوسرے صحابی حضرت بریدہؓ روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

خَيْرَ الْإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ

”دنیا اور آخرت (دونوں جہان) میں بہترین سالن گوشت ہے (زاد المعاد) اس مرغوب غذا کے فوائد ظہر من الشمس ہیں دنیا کے تمام طبیعوں اور ڈاکٹروں کا اس پر اتفاق ہے کہ گوشت میں حیاتین کثیر مقدار میں ہیں۔ اس کے مقابلہ میں شاید ہی کوئی اور غذا اس قدر قوت بخش اور مقوی اعصاب ہو سب سے بڑھ کر یہ کہ جس شے کو حضور ﷺ کی پسندیدگی اور انتخاب کی سند حاصل ہو ہمیں اس کے لئے مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر ہم تحقیق کرتے ہیں تو صرف اطمینان قلب اور اپنے ایمان کے اضافہ کے لئے۔

حضور ﷺ کا مرغوب گوشت

حضور رسول اکرم ﷺ کا گوشت میں دست اور گردن کا گوشت بہت مرغوب تھا سبحان اللہ حضور ﷺ کا انتخاب کس قدر لاجواب تھا۔

حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور اس میں سے دست (مچھلی کا گوشت) آپ ﷺ کی طرف بڑھایا گیا کہ حضور ﷺ اسے پسند کرتے تھے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے اسے دانتوں سے کاٹ کر کھایا۔ (ترمذی۔ ابن ماجہ)

ایک مشہور واقعہ کے ضمن میں یہ ایک الفاظ آتے ہیں۔

أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَرَفَعَ إِلَيْهِ الزُّرْعَ وَكَانَ تَعَجِبُهُ
 ”حضور ﷺ کی خدمت میں گوشت لایا گیا اور اس میں سے دست کا گوشت آپ ﷺ کو پیش کیا گیا کہ آپ ﷺ اسے مرغوب رکھتے تھے۔ (زاد المعاد جلد دوم بحوالہ بخاری مسلم)

گردن کے گوشت کے بارہ میں حضرت ضباعہ بنت حضرت زبیرؓ کی روایت انہیں کی زبانی ملاحظہ کیجئے فرماتی ہیں۔

”ایک دفعہ ہم نے اپنے گھر میں بکری ذبح کی حضور نے پیغام بھیجا کہ اس میں سے ہمارا حصہ بھیج دیں۔ میں نے عرض کیا صرف گردن کا گوشت بچا تھا اور مجھے اسے بھیجتے ہوئے شرم محسوس ہوتی تھی۔ اس پر حضور ﷺ نے کہلا بھیجا کہ وہی بھیجو۔ گردن کا گوشت بکری کا عمدہ حصہ ہے۔ گردن کا گوشت خیر سے قریب تر اور نقصان سے بعید تر ہے۔ (زاد المعاد جلد دوم)

ان احادیث سے واضح ہے کہ حضور ﷺ کو دست اور گردن کا گوشت بہت مرغوب تھا۔

مرغوب گوشت

سزور کائنات ﷺ کو کونسا گوشت مرغوب تھا؟ اس سوال کے جواب میں صحابہ کرامؓ کی مزید یہ روایت بھی ملاحظہ کیجئے۔

یہ تمام احادیث شامل ترمذی سے لی گئی ہیں۔

1- حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ:

أَنَّهَا قَرَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْرِيًّا فَأَكَلَ

مِنْهُ۔

وہ رسول اللہ ﷺ کے پاس بھنی ہوئی ران لے گئیں انہوں نے اس میں سے کھایا۔

2- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَكَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ شُورًا۔

ا فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہنا ہوا گوشت کھایا۔

3- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الذَّرَاعُ۔

حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ (فداء ابی وای) مثانہ کا گوشت

پند فرماتے تھے۔

4- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ الذَّرَاعُ أَحَبُّ اللَّحْمِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ اللہ رسول اللہ ﷺ کو شانہ کا گوشت سب سے زیادہ محبوب تھا۔

5- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَطْيَبَ اللَّحْمِ لَحْمُ الظَّهْرِ

حضرت عبد اللہ بن جعفرؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا وہ

فرماتے تھے پاکیزہ ترین پشت کا گوشت ہوتا ہے

6- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ----- ثُمَّ رَأَاهُ أَكَلَ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ-

”حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے پھر میں نے حضور کو بکری کے دست سے (گوشت) کھاتے ہوئے دیکھا۔

ان جملہ روایات کو ہم نے ایک جگہ اس لئے جمع کر دیا ہے تاکہ بیک نظر معلوم ہو سکے کہ حضور

ﷺ کو جانوروں کے کس کس حصہ کا گوشت مرغوب تھا

دست (مچھلی)

گردن (گردنہ)

ران

شانہ

پشت (پٹھ)

خصوصاً بھنا ہوا گوشت

بھنا ہوا گوشت

یہ تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ حضور اکرم ﷺ کو گوشت بہت مرغوب تھا اور گوشت میں

دست (مچھلی) اور گردن کا گوشت بہت پسند تھا اب اس ضمن میں ایک دوسرے صحابی کی

روایت ہے ملاحظہ ہو۔

عَنِ الْمُعْبِرِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِئْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَأَمَرَ بِجَنْبِ فُشْوَى ثُمَّ أَخَذَا الشُّفْرَةَ فَجَعَلَهُ يَحْرِ لِي بِهَا مِنْهُ ---

حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں حضرت رسول خدا ﷺ کے ساتھ مہمان ہوا۔ اس شخص نے ایک بکری ذبح کی حضور اکرم ﷺ نے اس کی دست بھوننے کے لئے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے چھری سنجمالی اور میرے لئے اس دست میں سے چھری کے ساتھ کاٹنے لگے۔۔۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

اس حدیث کی دو باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں اول تو یہ کہ حضور بھنا ہوا گوشت پسند فرماتے تھے گویا روکھی سوکھی روٹی کھانا ہی سنت نہیں بلکہ اگر میسر ہو تو لذیذ اور عمدہ غذا بھی سنت کے خلاف نہیں۔ بلکہ عین سنت نبوی ﷺ ہے کہ حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں دونوں کی مثالیں موجود ہیں۔۔۔ دوسری بات کہ چھری سے کاٹنا اور کلڑے کرنا خلاف سنت نہیں۔ البتہ چھری کانٹوں کا استعمال خالص مغربی فیشن ہے۔ اب یہ ہماری اپنی محبت اور وابستگی فیصلہ کرے گی کہ ہم کون سے طریقے اور کونسی تہذیب کو قبول کرتے ہیں۔ ایک عاشق صادق کو اپنے محبوب کی ہر ادا پر جان دینے کو ہی کمال سمجھئے گا خواہ بظاہر وہ بات کتنی معمولی کیوں نہ نظر آئے۔

پرندوں کا گوشت

1- حضرت زہد بن الجریؒ سے روایت ہے کہ حضرت ابی موسیٰؓ نے فرمایا۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ لَحْمَ دُجَاجٍ

”میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو مرغ کا گوشت کھاتے دیکھا“

2- حضرت ابراہیم بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ان کے دادا سفینہؓ کا بیان ہے۔

أَكَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ خُبَارَى-

”میں نے اللہ کے رسول ﷺ کے ساتھ خُبَارَى کا گوشت کھایا“ یہ دونوں حدیثیں شامل ترمذی سے منقول ہیں۔

”دجاج“ مرغ کو کہتے ہیں

”خُبَارَى“ ایک پرندہ ہے جس کی گردن اور چونچ لمبی ہوتی ہے اس کا رنگ خاکستری ہوتا ہے۔ فارسی میں اسے تغدیری اور چر ز کہتے ہیں بعض اہل علم نے اس کا نام سُرخاب لکھا ہے

3- حضرت انسؓ کہتے ہیں

ہم نے بمقام مَرَّ الظُّهْرَانِ ایک خرگوش کو (اس کے بل سے) نکالا۔ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے تھک گئے مگر میں نے اسے پکڑ ہی لیا اور اسے ابو طلحہؓ کے پاس لے آیا۔ انہوں نے اسے ذبح کر کے اس کے دست یاران حضرت رسول اللہ ﷺ کے پاس بھیج دیئے۔ حضور نے اسے قبول کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے اس میں سے کچھ تناول فرمایا۔

(بخاری۔ کتاب الہبہ)

ان احادیث سے واضح ہے کہ آنحضرت (فداہ ابی و آتی) نے دجاج (مرغ) خُبَارَى (تغدیری۔ سُرخاب) اور خرگوش کا گوشت تناول فرمایا ہے گوشت آپ کو وینے ہی بہت مرغوب تھا خصوصاً گردن اور دست اور ران کا گوشت آپ بہت پسند فرماتے تھے اگرچہ اس

کے مواقع بہت کم آئے۔

اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے بارہ میں فرمایا ہے ولحم طیر متايشتهون وہ اڑنے والے پرندوں کا گوشت کھائیں گے جن پرندوں کو ان کا دل چاہے گا (الواقعة ۲۱:۵۳) طبی نقطہ نظر سے تمام معالین وہ یونانی طریقہ علاج والے ہوں یا ایلو پیتھی اور ہومیو پیتھی اس مر پر متفق ہیں کہ دل کے مریض کے لئے مرغ اور پرندوں کا گوشت دوسرے ہر گوشت سے نسبتاً زیادہ مفید ہے۔ فالج زدہ کے لئے جنگلی کبوتر کا گوشت بطور دوا تجویز کیا جاتا ہے۔

امراض قلب، زہر اور جادو کا غذائی علاج

حضرت سعیدؒ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہو گیا تو حضور ﷺ میری بیمار پرسی کو تشریف لائے۔ آپ نے میری چھاتیوں کے درمیان (سینہ) پر دست مبارک رکھا۔ مجھے اس کی ٹھنڈک دل تک محسوس ہوئی۔ آپ نے فرمایا تمہیں دل کی تکلیف ہے۔ تم حارث بن کلدہ ثقفی کے پاس جاؤ کیونکہ وہ طبیب ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ مدینہ کی بجوہ کھجور کے سات دانے لے کر انہیں گھلیوں سمیت کوٹ لے اور وہ تمہارے منہ میں ڈال دے۔ (ابوداؤد، مشکوٰۃ المصابیح)

قرآن حکیم میں کھجور کا ذکر

1- کھجور کا ذکر ہمیں قرآن حکیم میں مندرجہ ذیل مقامات میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ حضرت مریمؑ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

هٰذِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ سَاقِطٍ عَلَيْكَ . رَطْبًا جَنِينًا فَمَكِّيْ وَاشْرَبِيْ وَفَرِّي عَيْنًا
(سورۃ مریم آیت نمبر ۲۵، ۲۶)

ترجمہ: کھجور کے درخت کو اپنی طرف ہلاوہ تجھ پر تروتازہ کھجوریں گرائے گا پھر اسے کھاؤ اور پانی پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔

2- ایوا احد کم ان تکون له جنت من النخيل واعناب

(البقرہ: ۲)

(کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی کہ اس کے پاس باغات ہوں کھجوروں کے اور انگوروں کے)

3- فاخر جنا منہ خضرا نخرج منه حبا متراکبا ومن النخل من طلعها

قنوان دانیة (۹۹- الانعام : ۶)

(بارش کے فوائد کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ اس کے بعد ہم نباتات میں ایک قسم اگاتے ہیں

جس میں ایک دوسرے پر چڑھے تہ درتہ دانے ہوتے ہیں اور اس میں کھجور کے درخت بھی

ہیں جس کے گاہے سے پھلوں سے جھکے ہوئے خوشے پھونٹتے ہیں۔

4- وهو اللذی انشا جنت معروشات وغیر معروشات و النخل والزرع

مختلفا اکلہ (۱۴۱- م- الانعام : ۶)

(اور وہی ہے جس نے بنائے باغات جو نیلے پر چڑھے ہیں یا بن چڑھے ہیں۔ کھجوریں اور

کھیتیاں جن کے ذائقے مختلف ہیں)

5- ومن الثمرات النخيل والاعناب (۶۷- النحل ۱۶)

(اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تذکرہ میں کھجوروں اور انگور کے درختوں سے حاصل ہونے والے

پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اگر غلط استعمال کرو تو ان سے فحشیات حاصل ہوتی ہیں

ورنہ ان سے عمدہ قسم کی غذا میسر آتی ہے)۔

6- واضرب لهم مثلا رجلیں جعلنا الاحد هما جنتین من اعناب و

حففنہا بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ (۳۲- ک الکہف : ۱۸)

(ان کے لئے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان کریں جن میں سے ایک کے پاس دو باغ

انگوروں کے ہیں جن کے ارد گرد کھجوریں ہیں اور ان کے درمیان کھیت ہیں۔

7- ونخيل و صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد (٤- م- السعد
(١٣)

(اور زمین پر ایسے قطعے ہیں جن میں کھجوروں کے ایک تہ میں سوا کی گئی تہوں میں باغات ہیں جن کو پانی ایک ہی ذریعہ سے میسر آتا ہے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ذریعہ کا پانی کئی قسم کی فصلیں اگا دیتا ہے)

8- فاجاءها المخاض الى جزع النخلة (٢٣- مریم : ١٩)
(زچگی کی دردیں اسے کھجور کے درخت کے تنے کی طرف لے آئیں وہ شدت الم سے اس کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئیں)

9- او تكون لك جنة من نخيل وعنب (٩١- بنی اسرائیل : ١٧)
(یہ وہ لوگ ہیں جو آرزو رکھتے ہیں کہ ان کے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں جن میں سے نہریں نکل کر جا رہی ہوں)۔

10- ينبت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الاعناب من كل
الشمرات- (١١- ك- النحل : ١٦)

(اللہ تعالیٰ کی عنایات کے تذکرہ میں کھجوروں اور انگوروں کے درختوں سے حاصل ہونے والے پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اگر غلط استعمال کرو تو ان سے منشیات حاصل ہوتی ہیں ورنہ ان سے عمدہ قسم کی غذا میسر آتی ہے)۔

11- فانبتها فيها حبا و عنبا و قضباً و زيتون و نخلا

(٢٧- ٣٩- ك- عبس : ٨٠)

(اور ہم نے اگائے تمہارے لئے اجناس انگور ترکاریاں، زیتون اور کھجوریں کیونکہ باغات گھٹتے ہوں گے)۔

12 - فتری القوم فیہا صرعی کانہم اعجاز نخل خاویۃ -

(۷- ك الحاقته ۶۹)

(دیکھا اس قوم کو کہ وہ اس طرح گری ہوئی تھی جیسے کہ کھجور کے تنے کی ایک کھوکھلی کتری ہوتی ہے)۔

13 - فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام (۱۱- م- الرحمن ۵۵)

(وہاں پر پھل ہیں اور کھجوریں ایسی کہ خوشوں والی)

14 - فیہا فاکہتہ ونخل ورمٰن - (۶۸- م- الرحمن ۵۵)

(وہاں پر کئی قسموں کے پھل اور کھجوریں اور انار موجود ہیں)

15 - ولاصلبنکم فی جزوع النخل - (۷۱- ك - طہ : ۲۰)

(فرعون نے جادوگروں کو دھکی دیتے ہوئے یہ فقرہ کہا تھا۔ میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دے دوں گا۔

16 - وزروع ونخل طلعا ہضیم (۴۸- الشعراء : ۲۶)

(اور وہاں پر ایسے کھیت اور کھجور کے درخت ہیں کہ جن کی شاخیں ان کے پھلوں کے بوجھ سے ٹوٹی جا رہی ہیں)

17 - تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقر (۲۰- ك القمر ۵۴)

(اس دن نے لوگوں کو یوں اکٹھا کر پھینک دیا جیسے کہ جڑ سے اکھاڑی ہوئی کھجور کے تنے ہوں)

18- والنخل باسقت لها طلع نضيد (۱۰ - ك تى ۵۰)

(اور کھجوروں کے بلند و بالا اور سخت ہیں جن میں دور دور پھلوں کے خوشے لگے ہیں۔)

19- فانسانا لكم به جنت من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة

ومنھا تاكلون۔

(ہم نے تمہارے لئے زمین سے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کئے جن کے بہت سے پھلوں کو

تم کھاتے ہو۔)

احادیث میں کھجور کا ذکر

حضرت سلمیٰؓ روایت فرماتی ہیں

1- ان النبى صلى الله عليه وسلم قال بيت لاتمر فيه كالبیت لاطعام فيه

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں۔ وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس میں

کھانا نہ ہو)

حضرت عائشہ صدیقہؓ بیان فرماتی ہیں۔

2- ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوع اهل بيت عندهم التمر

(مسلم)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہو۔ اس گھر والے کبھی بھوکے نہ رہیں

گے)

اسی روایت کو بعض محدثین نے ایک دوسری صورت میں یوں بیان کیا ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لاتمر فيه جياع اهله

او جاع اهله قالها مرتين او ثلثة۔

(رسول ﷺ نے فرمایا اے عائشہ! جس گھر میں کھجور نہ ہو اس گھر والے بھوکے ہیں انہوں نے یہ بات دو یا تین مرتبہ فرمائی کہ اس گھر والے بھوکے ہیں)

3- سفیان جبلہ بن حکیم روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کو فرماتے ہوئے سنا۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجل بین التمرین حتی یستاذن اصحابہ۔ (بخاری، مسلم، ابن ماجہ)
(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے منع کیا کہ کوئی شخص دوسرے شرکاء مجلس کی اجازت کے بغیر بیک وقت دو یا ان سے زائد کھجوریں اکٹھی کھائے۔

4- حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں۔

رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیاً یا کل تمراً۔

ایک دوسری روایت میں اضافہ ہے کہ

یا کل منه اکلاً ذریعاً (مسلم)

(میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اکڑوں بیٹھے ہوئے کھجوریں کھا رہے تھے دوسری روایت کا اضافہ ہے کہ وہ اس طرح بیٹھے ہوئے جلد جلد کھجوریں کھا رہے تھے)

5- حضرت سہل بن سعد الساعدی روایت فرماتے ہیں۔

اتی ابواسید الساعدی فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی

عرسہ فکانت امراتہ خادمہم وہی العروس قال اتلرون ماسقیت رسول

اللہ علیہ وسلم انقعت له تمرات من اللیل فی تور۔ (بخاری)

(ابواسید الساعدی نے اپنی شادی کے ولیمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کیا اس کی

دلہن ان کی خدمت کرتی رہی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا؟ انہوں نے رات کو مٹی کے ایک کوٹڑے میں کھجوریں بھگو کر رکھیں۔ صبح ان کو یہ پانی پلایا گیا۔

6- حضرت انس بن مالکؓ ام المومنین حضرت صفیہؓ کی شادی اور ولیمہ حال میں بیان کرتے ہیں۔

فدعوت المسلمین الی ولیمته امر ابالا انطاع فبسطة فالتن

علیہا التمر والاقط والسمن - (بخاری)

(میں نے لوگوں کو ولیمہ کی دعوت پر بلا لایا۔ چڑے کا دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر کھجور بنیر اور گھی رکھا گیا۔ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں علیحدہ نہ تھیں۔ بلکہ ان کا طوہ بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ جسے طوہ جیس کہتے ہیں)

7- حضرت یوسف بن عبد اللہ بن سلامؓ روایت کرتے ہیں۔

رایت النبى صرى الله عليه وسلم اخذ كسرة من خبز الشعير

فوضع علیہا تمره فقال هذا ادم هذه واكل (ابو داؤد)

(میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے پر کھجوریں رکھے ہوئے تھے پھر فرمایا کہ یہ اس روٹی کے ساتھ سالن ہے)

8- حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كلوا البلح بالتمر فان الشيطان اذا انظر ابن ادم يا كل البلح

بالتمر يقول ، بقى ابن ادم حتى اكل الحديث بالعتيق۔ (ابن ماجہ، نسائی)

(پرانی کھجور کے ساتھ تازہ کھجور ملا کر کھاؤ کیونکہ شیطان جب کسی کو ایسا کرتے دیکھتا ہے تو

افسوس کرتا ہے کہ پرانی کے ساتھ نئی کھجور کھا کر آدمی تو مند ہو گیا)
بُسر کے بیٹے روایت کرتے ہیں۔

9- دخل علينا رسول الله صلى عليه وسلم فقد منا زبنا وتمر او كان

يحب الزبد و التمر - (ابو داؤد ، ابن ماجه)

(ہمارے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہم نے ان کی خدمت میں مکھن اور کھجوریں پیش کیں کیونکہ ان کو مکھن کے ساتھ کھجور پسند تھی)۔
حضرت سہل بن سعد الساعدیؓ روایت فرماتے ہیں۔

10- ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل الرطب بالبطيخ زاد

ابو داؤد ويقول يكسر حر هذا بيرد لهذا بحر هذا - (ابن ماجه -

ترمذی، مسلم)

(میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کھجوروں کے ساتھ تربوز کھا رہے تھے)
(ابو داؤد نے اضافہ کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک سے برابر کر لیتا ہوں یا تربوز کی ٹھنڈک کھجور کی گرمی سے زائل ہو جاتی ہیں)۔

11- میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھجوروں کے ساتھ کھیرا کھڑی کھا

رہے۔

حضرت رافع بن عمر المزنی بیان کرتے ہیں

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العجوة والصخرة

من الجنة -

عاشق نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عجوہ کھجور اور بیت المقدس کی مسجد کا گنبد

دونوں جنت سے آئے ہیں

12- حضرت ابو عسیبؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا پھر راستہ میں حضرت ابو بکرؓ گولیا اور پھر حضرت عمرؓ کو شامل کیا اور ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے۔

فقال لصاحب الحائط اطعمنا بسرا فجاء بعدق فوضعه فاكل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ - (مسند احمد، بیہقی)
(انہوں نے باغ کے مالک سے کہا کہ ہمیں نیم پکی ہوئی کھجوریں کھلائے۔ وہ گیا اور وہ کھجوروں کے گچھے لے کر آیا۔ اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گرامی اصحاب نے سیر ہو کر کھجوریں کھائیں)
13- حضرت انس بن مالکؓ بیان کرتے ہیں۔

اتى النبى صلى اللّٰه عليه وسلم بتمر عتيق فجعل تفتشه ويخرج

السوس منه - (ابن ماجه ، ابو داؤد)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانی کھجوریں آئیں۔ انہوں نے ان کو کھول کر دیکھا اور ان میں سے سریاں نکالتے رہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں سری نکالنے والی بات نہیں صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ انہیں کھول کر دیکھتے تھے)۔

14- حضرت جابر بن عبد اللہؓ روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لاتدعو العشاء ولو كف - فان تركه يهرم - (ابن ماجه)

(رات کا کھانا ہرگز نہ چھوڑو خواہ ایک مٹھی کھجور ہی کھاؤ۔ کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنے سے بڑھا پٹاری ہو جاتا ہے۔

15- حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

تعشو اولو کف من حشف فان ترك العشاء مہرمة۔

(ترمذی)

رات کا کھانا ضروری کھاؤ خواہ تمہیں ردی کھجور کی ایک مٹھی میسر ہو کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنے سے بڑھاپا (کمزوری طاری ہو جاتی ہے)

16- حضرت جابر بن عبد اللہؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

انه نهى ان يتبذ الزبيب والتمر جميعاً (بخاری)

(منقہ اور کھجور کو بیک وقت کھانے سے منع کیا) اسی ارشاد گرامی کو ترمذی اور النسائی نے عبد اللہ بن ابی قتادہ سے مروی کیا ہے۔ جنہوں نے اپنے والد گرامی سے سماعت کیا۔

17- حضرت عبد اللہ بن عمرؓ روایت فرماتے ہیں۔

بيننا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتى بجمار نخلة فقال

النبي صلى الله عليه وسلم ان من الشجر لما بركة كبركة المسلم فظننت

انه يعنى النخلة فاردت ان اقول هي النخلة يا رسول الله صلى الله عليه

وسلم ثم التفت فاذا عاشر عشرة انا احدثهم فسكت فقال النبي صلى الله

(بخاری)

عليه وسلم هي النخلة۔

ہم کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ کہ کھجور کا گاجھ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے ہم سے مخاطب کر کے فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ

نے ایسے برکت دی ہے جیسے کہ وہ مسلمان ہو میں نے گمان کیا کہ ان کی مراد کھجور کے

درخت سے ہے اور میرا ارادہ ہوا کہ میں جواب میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم یہ کھجور کا درخت ہے۔ مگر مجبوراً اسلئے چپ ہوا کہ اتنے لوگوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کا درخت ہے۔

18- حضرت ام المومنین عائشہ اور حضرت ام سلمہؓ روایت فرماتی ہیں کہ

انه نهى ان ينتبذ البسر والرطب -

نیم پختہ کھجور کو پرانی کھجور کے ساتھ بلا کر کھانے سے منع فرمایا۔

ابن القیمؒ نے سند کے بغیر ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو بیک وقت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

19- حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سَمٌّ

وَلَا سِحْرٌ ”جو شخص روزانہ صبح کے وقت سات عجوہ کھجوریں کھالیا کرے اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔

عجوہ کھجور کی ایک اعلیٰ درجہ کی قسم ہے۔ جس کا رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ ذائقہ میں لذیذ اور فرحت بخش ہوتی ہے۔ عجوہ کے بارہ اور دوسری کھجوروں کا مجمل ذکر ہم اس سے پہلے عنوان کے تحت بھی کر چکے ہیں۔

20- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّؓ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرُ تَمَرٍ اتَّكُمُ

الْبُرْنِيِّ يَخْرُجُ الذَّاءُ وَلَا ذَاؤُهُ فِيهِ

حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔

تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہے۔ وہ روگ دور کرتی ہے اور اس میں کوئی روگ نہیں۔“ (متدرجاً کم)

یہ ایک لمبی حدیث کا آخری حصہ ہے۔ پوری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بھر کے

باشندے ایک وفد کی صورت میں حضور ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اثناء گفتگو میں حضور ﷺ نے ان کے علاقہ کی کھجوروں کے نام گنانے شروع کیے جو بڑی تعداد میں تھے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اگر آپ ہجر میں بھی پیدا ہوتے تو اس سے زیادہ ناموں کا علم نہ ہوتا میں گواہی دیتا ہوں واقعی آپ ﷺ اللہ کے رسول ہیں (ورنہ آپ کو ہمارے علاقہ کی کھجوروں کے اتنے نام معلوم نہ ہوتے)۔ حضور ﷺ نے فرمایا میرے سامنے ابھی تمہاری سرزمین پیش کی گئی اور میں نے اسے ایک سرے سے دوسرے تک دیکھ لیا۔ سو تمہاری کھجوروں میں بہترین کھجور برنی ہوتی ہے۔ وہ بیماریاں دور کرتی ہے اور اس میں کوئی بیماری نہیں۔ برنی کھجور سیاہ کے بجائے بھورے رنگ کی ہوتی ہے۔ اس کا سائز بڑا اور مٹھاس زیادہ ہوتی ہے۔ گودا زیادہ اور کھسلی چھوٹی ہوتی ہے۔ اس لئے اسے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ حضور ختمی مرتبت ﷺ نے اسے بیماریوں کا علاج بتایا ہے۔ کھجور کی تاثیر کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ

کھجور کی خاصیت گرم تر ہے۔ اس اعتبار سے اس کو معتدل کہا جاسکتا ہے۔ کھجور میں بے حد غذائیت ہے۔ تازہ خون پیدا کرتی ہے۔ ہاضم ہے۔ معدہ، جگر اور باہ کو قوت بخشتی ہے۔ جسم کو فرہ کرتی ہے۔ لقوہ اور فالج جیسے باردا مراض میں بہت مفید رہتی ہے۔“

کھجور کی کھسلیاں بھی کئی مراض کا علاج ہیں۔ مثلاً اسہال بند کرتی ہیں۔ جلی ہوئی کھسلیوں کا سفوف بہتا ہو خون بند کر دیتا ہے اور زخم کو صاف کرتا ہے۔ اس سفوف کو بطور منجن استعمال کرنے سے دانت جلا پاتے ہیں۔

(کتاب المفردات۔ خواص الادویہ ص ۱۲۳)

کھجور بادی اور بلغم کو چھانٹتی ہے خشک کھانسی اور دمہ میں بھی مفید ہے کھجور کی

درجنوں قسمیں ہیں جو رنگت، سائز اور ذائقے کی طرح تاثیر میں بھی جدا ہیں عنبرین (بہترین قسم ہیں) برنی، جاوی (جلی)۔ کلمہ۔ شلمی۔ عجمہ۔ سخل (گھسلی کے بغیر کھجور) وغیرہ۔ ”عجمہ“ درمیانہ سائز کی ہوتی ہے۔ اس کا حجم بھی درمیانہ ہوتا ہے۔ رنگت سیاہی مائل ہوتی ہے۔ اس کے بارہ میں حضور ختمی مرتبت ﷺ کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

عجمہ جنت کا پھل ہے۔ اس میں زہر سے شفا یابی کی تاثیر ہے۔

(ترمذی، مشکوٰۃ المصابیح)

سبحان اللہ! لذت کی لذت اور شفا کی شفا۔ غذائیت اور دوسرے فوائد اس کے سوار ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدینہ شریف کی کھجوروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دل کے درد کے لئے مفید ہوتی ہیں۔ اور سات کا عدد جو آپ نے فرمایا اس کی خاصیت کے بارے میں سوائے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے کسی کو علم نہیں ہے۔ اس مقام پر تمام حکماء عاجز ہیں۔ کیونکہ اس کا تعلق وحی سے ہے۔ اور بعض احادیث میں ہے کہ جو شخص مدینہ کی سات کھجوریں صبح کھایا کرے اس کو زہر اور جادو کبھی اثر نہیں کرے گا۔

یہ مقام بھی ایسا ہے کہ تمام حکماء و عقلاء یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ جادو اور زہر کے اثر کے دور ہونے میں کھجور کا کیا تعلق ہے لیکن اس پر پختہ اعتقاد کی ضرورت ہے۔ اللہ اور رسول پر جیسا اعتقاد ہوگا اس کو ویسا ہی فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی لئے ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں کہ جس شخص کو طب نبوی کا علاج منظور ہو اس کو چاہئے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنے ایمان و اعتقاد کو پختہ کرے اور اعتقاد پختہ و درست کرنے کے معنی یہ ہیں کہ آنحضرت کے بتائے ہوئے علاج کرنے میں ذرہ برابر شک اور خوف نہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر اس کو طبیب بھی منع کرے، تب بھی یہ جانے کہ دنیاوی طب ظنی ہے اور آنحضرت ﷺ کا علم یقینی ہے۔ اور ظن و یقین کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ اور جس شخص کو اس درجہ میں اعتقاد طب نبوی پر نہ ہو

اس کو چاہئے کہ یہ علاج نہ کرے بلکہ دنیاوی طب و حکماء کا وہ علاج کرے کہ اس میں ایمان زائل ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔

قوت باہ میں اضافہ

ابونعیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کھجور کو مسکے کے ساتھ عزیز رکھتے تھے۔

وہ اس لئے کہ اس کے کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے اور بدن بڑھتا ہے اور آواز صاف ہوتی ہے۔ مسکہ اور شہد ملا کر کھایا جائے تو ذوات الجہب (پہلو کے درد) کے لئے مفید ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔

کھجور کے درخت کا تاریخی پس منظر

سائنس دانوں کا خیال ہے کہ کھجور کی کاشت آٹھ ہزار سال قبل جنوبی عراق میں شروع کی گئی تھی اس وقت دنیا میں کہیں بھی پھلدار پودوں کی کھیتی کا تصور تک نہ تھا۔ اسی لئے سمجھا جاتا ہے کہ تہذیب کے بنانے سنوارنے میں جتنا دخل کھجور کا ہے کسی اور پودے کا نہیں ہے۔ Phoenix جو کھجور کی جنس کا نباتاتی نام ہے وہ ایک ایسی خیالی اور افسانوی چڑیا کا بھی نام ہے جس کو مصر میں Mythical Bird کہا جاتا ہے۔ اور جسکی بابت یہ روایت مشہور ہے کہ کئی ہزار سال قبل یہ چڑیا عرب کے ریگستانوں میں پائی جاتی تھی۔ یہ پانچ سو سال تک زندہ رہ کر اپنے آپ کو جلا کر خاک کر دیتی اور پھر اگے سے نئی زندگی پا کر نمودار ہو جاتی تھی۔ یونان کے مفکروں کا خیال تھا کہ کھجور کا کچھ نہ کچھ تعلق اس چڑیا سے ضرور رہا ہوگا اسی لئے ایک کہانی یونانی ادب میں بیان کی جاتی ہے۔ کہ انسان کے وجود میں آنے کے فوراً

بعد ایک بہت بڑی چٹیا زمین میں سے آسمان کی جانب پرواز کر کے گم ہو گئی۔ لیکن اس کا ایک پر زمین پر گر پڑا اور کھجور کا درخت بن گیا۔

عربوں میں ایک پرانی کہاوت تھی کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے استعمال اور فوائد ہیں اور حقیقت بھی کچھ ایسی ہی لگتی ہے۔ ایک طرف اس کی لکڑی عمارت اور فرنیچر بنانے کے کام آتی ہے تو دوسری طرف اس کے پتوں سے بے شمار مصنوعات تیار کی جاتی ہیں۔

عربوں میں پرانا رواج تھا کہ خوشی و فتح و کامرانی کے موقع پر لوگ کھجور کے پتوں کو ہاتھ میں لے کر لہراتے ہوئے جلوس کی شکل میں نکلتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں آپ کا نہایت گرمجوشی سے استقبال کیا گیا اور مدینہ کے لوگ اپنے ہاتھوں میں کھجور کی پتیاں لئے ہوئے اپنی خوشی اور شادمانی کا اظہار کر رہے تھے۔

کھجور کی طبی خصوصیات

کھجور کی گٹھلیاں جانوروں کیلئے موزوں چارہ ہیں اور اس کے پھل انسان کے لئے بہترین غذاء ہیں۔ اس کی غذائیت کا اندازہ اس کے کیمیائی اجزاء سے کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس میں تقریباً ساٹھ فیصد Invert Sugar اور Suerose کے علاوہ اشعارج، پروٹین، Pectin- Tannin, Cellulose اور حرابی مختلف مقدار میں موجود ہیں علاوہ ازیں اس میں وٹامن "A"، وٹامن "B"، وٹامن "B2" وٹامن "C" بھی

پائے جاتے ہیں اس کے معدنیاتی اجزاء بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی سوڈیم، کیشیم، سلفر، کلورین، فاسفورس اور آئرن غذائیت سے بھرپور ان کھجوروں کے پھلوں سے مشروبات سرکہ، اور مٹھائیاں، شکر اور ایک قسم کا شیرہ تیار کیا جاتا ہے جو شہد کی مانند ہوتا ہے۔

کھجور کی کیمیائی ماہیت

درخت پر پکنے کے دوران کھجور کے پھل میں کیمیائی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں جیسے کہ جب یہ زردی سے پکنے پر آتی ہیں تو اس میں خشک مادہ کی شرح بڑھ جاتی ہے پانی کم ہونے لگتا ہے اور مٹھاس کی مقدار بڑھتی ہے۔

مٹھاس از قسم Invert Sugar کی مقدار ۲۲ فیصدی ۲۷ فیصدی تک ہو جاتی ہے۔ پانی کم ہونے اور مٹھاس کی زیادتی کے باوجود یہ چمکدار نہیں ہوتی۔ قدرت کی عجیب کارا گری ہے کہ پودے کے پھل میں مٹھاس یکساں نہیں ہوتی چونچ کی طرف مٹھاس پیندے کی نسبت کم ہوتی ہے۔

درخت سے اترنے کے بعد کھجور کو پکانے کے عمل میں درجہ حرارت کا بڑا دخل ہے۔ جو پھل گرم جگہوں پر یا ایسے مقامات پر رکھے گئے جہاں ان پر دھوپ پڑتی تھی تو وہ گھٹیا رہے اور ان میں لذت نہ تھی۔ جب کہ ٹھنڈی جگہوں پر جہاں نمی کم تھی وہاں پر پکائی گئی کھجوریں خوشبودار اور ان کے چھلکوں کا رنگ زیادہ گہرا پایا گیا۔

۱۔ جب وزن اور جسم میں اضافہ ہوتا ہے تو Reducing Sugars کی مقدار بڑھتی ہے اور پھل کی نمی میں اضافہ ہوتا ہے۔

۲۔ وزن میں اضافہ معمولی ہوتا ہے مگر نمی بڑھتی ہے اور مٹھاس میں اضافہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔

۳۔ رنگ ہلکا بھورا یا گہرا بھورا ہو جاتا ہے نمی میں اضافہ کی رفتار کم ہوتی ہے۔ مگر کھانڈ کی قسم Sugarose بڑھ جاتی ہے تیسرے مرحلہ کا عمل پھل کے پکنے کے آخری درجہ تک جاری رہتا ہے۔ اسی دوران اس میں Pectin کی مختلف اقسام بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو آنتوں کی غیر معمولی حرکات کو کم کر کے اسہال میں مفید ہے۔ کھجور میں شکر کی دو واضح اقسام پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ قسم جس میں خاص شکر پائی جاتی ہے۔ دوسری قسم میں اس کے ساتھ ایک کییمیائی جوہر Invertase پایا جاتا ہے۔

یہ وہ جوہر ہے جو کھانڈ والی شکر کو ایک ایسی مٹھاس میں تبدیل کر دینے کی اہلیت رکھتا ہے جسے جسم آسانی سے قبول کر لیتا ہے۔ اور ذیابیطس کے مریضوں کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتی۔ اسے Fructose کہتے ہیں۔ کھانڈ کو اس مٹھاس میں تبدیل کرنے والا یہ جوہر شہد میں بھی پایا جاتا ہے۔

مدینہ منورہ کی عجوة اور برنی کھجوریں ان اقسام میں سے ہیں جن میں یہ جوہر پایا جاتا ہے اس لئے پوری پک جانے کے بعد ان میں مضر مٹھاس باقی نہیں رہتی۔

امریکہ میں Vincon نے ایروز ونا یونورٹی کے لئے تحقیقات کرتے ہوئے جو مشاہدات کئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کھجور میں صحیح مٹھاس صرف اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس پر پکنے کا مرحلہ درخت کے اوپر گزرے۔ کچی کھجور کو اتار کر مصنوعی طریقہ سے

پکانے سے کھجور کی مٹھاس نامکمل رہے گی۔ یہ کام کم از کم ۳۳ دن میں تکمیل پاتا ہے۔ اس طرح پکی ہوئی کھجوروں میں مٹھاس کی مقدار ۲۸ فیصدی پائی گئی جس میں سے ۲۴ فیصدی فرکوس اور اسی قدر گلوکوز تھا جب کہ عام چینی کی مقدار ایک فیصدی سے کم تھی۔ حالانکہ انہی کھجوروں میں ۱۴ دن پہلے چینی ۱۵ فیصدی اور گلوکوز اور فرکوس ۱۲ فیصدی کے لگ بھگ تھے۔ اس دوران اگر بارش بھی ہوئی تو پانی پڑنے سے اچھی کھجوروں میں ایک کی کیسانی ہیئت متاثر نہ ہوئی۔

اس کے علاوہ کھجوروں میں ایک اور جوہر Peroxides بھی پلایا جاتا ہے۔ یہ تمام جوہر صرف انہی کھجوروں میں ملتے ہیں جن کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ ہلکے رنگ والی کھجوریں معیار میں ہلکی اور چینی والی کھجوریں سمجھی جاتی ہیں۔ کھجور میں تمام وٹامن محتوال مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

کھجور کے طبی فوائد

تعلیمات نبوی ﷺ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کھجور کی صرف دو قسموں کو پسند فرمایا۔ درخت پر پکی ہوئی کھجور ”رطب“ پائل ڈال کر پکائی ہوئی ”تمر“ قرآن مجید اور احادیث سے ان کی افادیت کے یہ پہلو سامنے آتے ہیں۔

۱۔ شدید کمزوری کے لئے رطب۔ جیسے کہ حضرت مریم علیہا السلام کو قرآن مجید کے ارشاد کے مطابق نصیحت کی گئی۔

۲۔ جسمانی کمزوری کے لئے خاص طور پر جب کسی کو کچھ عرصہ کھانے کو نہ ملے تو وہ اپنی

توانائی جلد بحال کرنے کے لئے کھجور کھانے کی ہدایت کی گئی۔

۳۔ جنسی اور جسمانی کمزوری کے لئے اور جب اعتدال سے زیادہ دہلا ہوتو کھجور کے ہمراہ

کھیرا، مکڑی، بھارتی ماہرین اس غرض کیلئے تربوز کو بھی تجویز کرتے ہیں۔

۴۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لئے نہار منہ۔

۵۔ گردوں، مٹانہ، پیتہ، آنٹوں میں قولنجی دردوں کو دور کرنے کے لئے۔

۶۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال Menorrhagia یعنی عورتوں میں

حیض کے خون کا کثرت سے آنا میں مفید ہے۔ یہ کیفیت غدودوں کی خرابی

تھلیوں کی سوزش، غذائی کمی اور خون میں فولاد کی کمی وغیرہ سے پیدا ہو سکتی ہے کھجور ان میں

سے ہر ایک کا مکمل علاج ہے۔

۷۔ آنکھوں کی سوزش میں کھجور کا کھانا درست نہیں اور بیماری سے اٹھنے کے فوراً بعد زیادہ

مقدار میں کھجوریں درست نہیں ہیں۔

۸۔ دل کے دورہ Myocardial Infarction میں کھجور کو سٹھلی سمیت کوٹ کر

دینا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے۔ احادیث میں اس غرض کے لئے عجوہ کھجور تجویز کی گئی

ہے۔ تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ اس غرض کے لئے دوسری کھجوریں بھی استعمال کی جا سکتی

ہیں مگر ان کا غرض استعمال طویل ہونا چاہئے۔ چونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ کے

باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں خاص طور پر Buerger Disease میں کھجور کی

سٹھلی تریاق کا اثر رکھتی ہے۔

۹۔ چونکہ کھجور دافع قویج اور جھلیوں سے خیزش کو دور کر کے مسکن اثرات رکھتی ہے اس لئے دمہ خواہ وہ امراض تنفس سے ہو یا دل کی وجہ سے اسے دور کرتی ہے۔

۱۰۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اسکی پسی ہوئی گٹھلیاں دل کی توسیع (عظیم القلب)

Cardiac Enlargement میں مفید ہے۔

پیٹ میں درد کا غذائی علاج

جب رسول خدا ﷺ کو اطلاع دی جاتی کہ فلاں کو درد (درد شکم) کی شکایت ہے اور وہ کھانا نہیں کھا رہا، تو آپ فرماتے تم تلیونہ (جو کادلیہ) تیار کر کے اسے چٹاؤ، اور فرماتے اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یہ تمہارے پیٹ کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے کوئی اپنے چہرے کو میل کچیل سے صاف کر دے۔ جو، غلہ کی ایک معروف قسم ہے۔ اسے گھسیا اور غریبوں کی خوراک تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن گرمیوں میں اس کا ستوا ایک عوامی مشروب کے طور پر خوب استعمال ہوتا ہے۔

ہمارے حضور رسول اکرم ﷺ نے جو کو مریض کے لئے ایک بہترین خوراک، امراض شکم کے لئے ایک مفید دوا اور کمزور دلوں کے لئے بہترین قوت بخش غذا بیان فرمایا ہے۔

حضور ﷺ کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ حرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کے اہل خانہ میں سے کسی کو بخار ہو جاتا تو حضور ﷺ اس کیلئے جو کادلیہ بنانے کا حکم دیتے۔ چنانچہ وہ تیار کیا جاتا اور مریض کو کھلایا جاتا۔ (زاد المعاد)

عرق النساء کی تکلیف کا غذائی علاج

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دَوَاءُ عَرَقِ النِّسَاءِ الْيَبَةِ شَاةٌ اِغْرَابِيَّةٌ تَقْلَبُ ثُمَّ تَجْزَأُ اِثْلَاثَةَ اِجْزَاءٍ فَتَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ - حضرت انس بن مالک سے روایت ہے (اللہ ان سے راضی ہو) کہ حضرت رسول کریم ﷺ نے فرمایا عرق النساء بیماری کی شفاء عربی بکری (دبے) کی چگی میں ہے۔ اسے پکھلایا جائے۔ پھر اس کے تین حصے کئے جائیں اور تین دن میں پیا جائے۔ (متدرک حاکم مسند احمد)

اس موضوع پر متدرک حاکم میں تین روایات موجود ہیں۔ ان میں یہ اضافہ ہے کہ چگی نہ بہت بڑی ہونہ بہت چھوٹی۔ اور اس کو لعاب دہن کے ساتھ پیا جائے (یعنی پانی وغیرہ کے ساتھ نہیں) نیز ان احادیث میں شاة اور کوش کی چگی مذکور ہے۔ گویا دونوں لفظ دبے کے لئے مستعمل ہوئے ہیں کیونکہ بکری کی چگی نہیں ہوتی۔

عرق النساء بہت نامراد بیماری ہے۔ اس کے نام سے یہ دھوکہ نہ لگے کہ یہ کوئی عورتوں کی بیماری ہے۔ بلکہ یہ ایک شدید درد کا نام ہے جو مرد و عورت دونوں کو ہو سکتا ہے۔

انگریزی میں اسے Sciatic Pain (شیاٹک پین) کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ درد ریڑھ کی ہڈی سے شروع ہو کر رگوں میں نیچے کوٹھنہ تک ناقابل برداشت صورت میں چلتا ہے۔ عرق النساء کی وجہ کمزوری، ضعفی اور اعصاب کی خشکی ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس خشکی کا بہترین مداویٰ دنبہ کی چکی ہو سکتی ہے۔

بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے بکری ہی مراد ہے اور چکی سے مراد ہے کہ اس کی سرین کا گوشت لے لیا جائے۔ بکری کے سرین کا گوشت لیکر اس کی بخنی بنائی جائے اور تین روز نہار منہ اس کو پیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ درد کو فائدہ ہوگا عرق النساء ایک رگ کا نام ہے جو سرین سے کعب تک لمبی ہوتی ہے، اس کا درد اس قدر شدید ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف کے سبب سب کچھ بھول جاتا ہے اس لئے اس کو عرق النساء کہا جاتا ہے۔

پیٹ کے جملہ امراض کا کامیاب غذائی علاج

شہد کا قرآن حکیم میں ذکر

1- قرآن مجید میں ایک سورۃ خصوصی طور پر شہد کی مکھی کے بارے میں موجود ہے جس میں ارشاد ربانی ہے۔

واوٰحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر
ومما یرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یمخرج
من بطونہا شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لایۃ لقوم
تکفکرون
(النحل: ۹۸، ۶۹)

(تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر وحی بھیجی کہ وہ پہاڑوں درختوں کی بلندیوں پر اپنا گھر بنائے۔ پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے رزق حاصل کرے اور اپنے رب کے متعین کردہ راستہ پر چلے ان کے پیٹوں سے مختلف رنگ کی رطوبتیں نکلتی ہیں۔ جن میں لوگوں کے لئے شفا رکھی گئی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کر کے فائدہ اٹھائیں)

2- اور دوسری جگہ پر فرمایا

وانها من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات - (محمد : ۱۵)
 (جنت میں ملنے والی عمدہ اشیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہاں پر عمدہ اور خالص شہد کی
 نہیں بہتی ہوں گی اور ان لوگوں کے لئے ہر قسم کے پھل ہوں گے)

3- يا ايها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبغى مرضات ازواجك

والله غفور رحيم (التحریم : ۱)

(اے نبی ﷺ! تم کسی ایسی چیز کو کیوں حرام کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے
 حلال کر دیا ہے کیا تم ایسا کر کے اپنی بیویوں کی مرضی پوری کر رہے ہو؟ تمہارا رب بخش
 دینے والا رحم کرنے والا ہے۔)

احادیث نبوی میں ذکر

1- حضرت عبداللہ ابن عباسؓ روایت فرماتے ہیں۔

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل اربع من الدواب -

التملته ، والنحلة والهدد والصور۔ (ابو دائود ، داری)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار حشرات کو مارنے سے منع فرمایا، چیونٹی، ہد ہد اور چڑی
 ممولا (عالباً تلیر) چونکہ درختوں کو نقصان دینے والے کیڑوں کو کھاتے ہیں اس لئے ان کو
 مارنا لوگوں کا خود اپنا نقصان ہے اور یہی کیفیت شہد کی مکھی کے بارے میں ہے۔)

2- حضرت عائشہ صدیقہؓ سے دو اہم ارشادات منقول ہیں

كان احب الشراب الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم العسل۔

(بخاری)

(پینے والی چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا) انہوں نے اپنی پوری زندگی میں روزانہ شہد پیا۔ اور ہمیشہ تندرست رہے

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوٰی و العسل۔

(بخاری)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طوہ مشاس اور شہد بہت زیادہ پسند تھے)

3- حضرت عبداللہ بن مسعود روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

علیکم بالشفائین : العسل و القرآن - (ابن ماجہ ، مستدرک و الحاکم)
تمہارے لئے شفا کے دو مظہر ہیں (شہد اور قرآن)

4- حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ

ان کان فی شیء من اودیتکم خیر ففی شرطۃ محجم او شربۃ عسل۔
(تمہاری دواؤں میں سے کسی چیز میں بھلائی کا اگر کوئی عنصر ہے تو وہ سچنے لگانے اور شہد پینے میں ہے۔

5- مسند احمد میں اسی حدیث میں عسل کے بعد مذکور ہے۔

اولد غۃ بنار توافق داہ و ما احب ان اکوی

(آگ سے جلا تا بھی بیماری کے مطابق ہے مگر میں آگ سے جلانے کو پسند نہیں کرتا)

6- مسند احمد میں عقبہ بن عامر سے بھی تقریباً یہی الفاظ مروی ہیں بخاری اور ابن

ماجنے یہی ارشاد گرامی الفاظ کے معمولی رد و بدل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کئے ہیں۔

الشفاء فی ثلاثۃ - شربۃ عسل و شرطۃ محجم و کیۃ نار و انہی امتی من

(میں بیمار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گرامی میں ملتی ہو کہ وہ مجھے دو دردا سے فیض یاب کریں انہوں نے جواب میں مجھے شہد کی کپی روزانہ فرمائی بیمار نے دوا طلب کی تھی جس کے جواب میں شہد عطا فرمایا گیا۔ مطلب صاف ظاہر ہے تم اسے پیو ٹھیک ہو جاؤ گے۔

10- حضرت علیؓ بن ابوطالب روایت فرماتے ہیں

إذا اشتكى احدكم فليستل امراته ثلاثة دراهم اونحوها فليشتر بها عسلا وليأخذ من ماء السماء فيجمع هنياء مريا وشفاء و مباركا۔

(ابن المنذر ابن ابی حاتم احمد بن الفرات)

(تم سے جب کوئی بیمار ہو تو اپنی بیوی سے تین درہم یا اس سے کچھ کم لے کر اس کا شہد خرید لائے پھر اس میں آسمان کا پانی ملا کر انہیں خلوص دل کے ساتھ پی لے کہ مبارک بھی ہے اور شفاء کا مظہر بھی)

11- حمید بن زنجویہ سیوطی اور زین نے حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک دلچسپ عمل ان کے غلام نافع سے بیان کیا ہے۔

كان لايشكر قرحة ولا شيئا الا جعل عليه عسلا حتى الدملا اذا كان به طلاء عسلا فقلنا له تداوى الدملا بالعسل؟ فقال اليس يقول الله "فيه شفاء للناس"

وہ جب بھی بیمار ہوئے یا ان کو کوئی زخم ہوتا تو فوری طور پر علاج کرتے حتیٰ کہ اگر ان کو پھنسی بھی نکلتی تو اس پر شہد لگاتے تھے۔ ہم نے ایک روز تعجب سے کہا کہ کیا آپ پھنسی پر شہد لگاتے ہیں؟ فرمایا! کیا خدا تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں لوگوں کے لئے شفاء ہے)

مسند احمد ضعیف میں متعدد روایات اس امر کی ہیں کہ جسمانی کمزوری، تھکن اور مختلف امراض کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شہد کا شربت اور کبھی دودھ میں شہد ملا کر پیالوگوں کو بھی ایسے ہی تلقین فرمائی۔

عن ابن عباس قال اول ما سمعنا بالفالودج ان جبرائیل علیہ السلام ارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امتک تفتح علیہم الارض فیفاض علیہم فقال الدنیا حتی انہم لیاکلون من الفالودج۔

”فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما الفالودج قال یخلطون السمن والعسل جمیعاً۔ فشہق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لذلك شہقہ“

(ابن ماجہ)

(حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ہم نے ابھی فالودہ کے بارے میں نہ سنا تھا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آئے اور فرمایا کہ آپ کی امت بہت سے ملکوں کو فتح کرے گی اور ان کو بہت زیادہ مال و دولت ملے گی اور وہ فالودہ کھائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ فالودہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ گھی اور شہد کو ملا کر اسے بناتے ہیں اس پر آپ ﷺ رونے کی آواز نکال کر روئے۔

حضرت جابر بن بن عبداللہ روایت فرماتے ہیں

اهدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عسل فقسم بیننا لعقۃ لعقۃ فاحذت

لعقتی ثم قلت یا رسول اللہ از داد اخری قال نعم (ابن ماجہ)

(نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفہ میں شہد آیا انہوں نے ہم سب کو تھوڑا تھوڑا چاٹنے کے لئے مرحمت فرمایا۔ میں نے اپنا حصہ چاٹ کر مزید کی عرض کی اور انہوں نے قبول فرمائی)

شہد کو عربی میں غسل کہتے ہیں۔ فارسی میں انگلیں، بنگالی میں مدہو، گجراتی میں مدھ۔ سندھی میں ماکھی اور انگریزی میں ہنی (Honey) بولتے ہیں۔ رنگت کے اعتبار سے شہد دو قسم کا ہوتا ہے۔ سرخی مائل اور سفید کچھ زردی مائل۔

حضور سرور کائنات ﷺ نے شہد کی بہت تعریف کی ہے۔ یہاں خصوصیت سے اس ارشاد پر غور کیجئے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ تَلَتْ عَذَابَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ مِنَ الْبَلَاءِ۔

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جو شخص ہر مہینہ کے تین دن شہد چائے اسے کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی۔

چنانچہ جدید طبی تحقیقات کی رو سے بھی یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ شہد بے شمار امراض کی دوا ہے۔ اس میں وٹامن (حیاتین) ا۔ب۔ج مختلف مقداروں میں موجود ہیں۔ شہد تلیں ہے۔ ریاخ کو تحلیل کرنے والا اور تعفن دور کرنے والا ہے، شہد بدن کو طاقت اور پھیپھڑوں کو قوت بخشتا ہے، ادویہ کو خوشگوار ذائقہ دیتا ہے اور ان کی قوت تادیر برقرار رکھتا ہے۔ کھانسی دمہ اور سرد بیماریوں کے لئے اکسیر ہے۔ لقوہ اور فالج کا علاج ہے صفائی خون اور امراض قلب کیلئے نافع ہے، آنکھوں کی بیماریوں اور جلانے بھر کیلئے بہترین دوا ہے۔

(کتاب المفروات۔ خواص الادویہ ص ۲۳۳)

شہد کی شفا بخشی کے بارے میں ایک حدیث نبوی ﷺ کا مطالعہ کیجئے:

حضرت ابوسعید خدریؓ بیان کرتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا۔ میرے بھائی کے پیٹ میں درو ہے یا یوں کہا کہ اسے

اسہال کی شکایت ہے۔

حضور ﷺ نے فرمایا۔ اَسْقِيَةَ عَسَلًا۔ ”اسے شہد پلاؤ“ وہ شخص چلا گیا، مگر پھر لوٹ کر آیا اور کہنے لگا میں نے اسے پلایا۔ مگر شہد سے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ دو تین بار ایسے ہی کیا۔ چوتھی بار بھی آکر اس نے شکایت کی کہ اسہال آرہے ہیں حضور ﷺ نے فرمایا۔

صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَّبَ بَطْنُ أَبِيكَ۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ جھوٹ ہے تو تیرے بھائی کے شکم کا ہے۔

چنانچہ اس شخص نے پھر بھائی کو شہد پلایا۔ سو وہ شفا یاب ہو گیا۔

یہاں معلوم ہونا چاہئے کہ طب نبوی اور طب جالینوس میں اگرچہ علماء نے حتی الامکان تطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت میں دونوں طریقوں میں بڑا فرق ہے۔ کیونکہ طب نبوی ﷺ وحی الہی ہے۔ اور دوسری طب صرف ذہنی سچ اور تجربہ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلئے دونوں طریقوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ طب نبوی سے وہی لوگ شفا یاب ہو سکتے ہیں جن کا ایمان مضبوط اور اعتقاد مستحکم ہو۔ بعض طحیدین اعتراض کرتے ہیں کہ شہد تو دست آور ہے لیکن دست روکنے میں کیسے کارآمد ہوگا۔ ان لوگوں کو جواب یہ ہے کہ دست کبھی تو بد، بعضی کی وجہ سے آتے ہیں اور کبھی معدے میں فاسد مادے جمع ہونے کی وجہ سے دستوں کی شکایت ہوتی ہے۔ فاسد مادہ کی وجہ سے جب دست آتے ہیں تو ایسی صورت میں دست بند کرنا مضر ہوگا۔ ایسی صورت میں تو دستوں کے ذریعہ فاسد مادے کا اخراج ہونا ضروری ہے اور اس کے نکالنے کے لئے شہد خصوصاً گرم پانی میں ملا کر دینا مفید ہوتا ہے اسی لئے حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جا کر مر لیض کو شہد پلاؤ تا کہ اس کا مادہ خارج ہو جائے اور وہ تندرست ہو۔ صدق اللہ ورسولہ۔

حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں:

فَسَقَاهُ قَبْرًا "اس نے اسے شہد پلایا۔ اور اسے صحت ہو گئی۔"

(بخاری و مسلم)

غور کیجئے۔ حضور کو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بناء پر شہد کی شفا بخشی پر کس قدر یقین تھا۔

اور آخر کار اللہ کا حکم پورا ہوا۔

افسوس کہ آج ہمارے دلوں سے یقین و ایمان کی دولت نکل گئی ہے جس کی وجہ

سے ہم بہت سی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں حضور اکرم ﷺ کا بار بار ارشاد فرمانا کہ اسے

شہد پلاؤ اس لئے بھی ہوگا کہ اس مرض کے لئے ایک خاص مقدار میں شہد کی ضرورت

ہوگی۔ اب شہد کے خواص، کوائف، اور مقدار پر تحقیقات کرنا ہمارے اطباء کی ذمہ داری ہے

عربی زبان میں شہد کی مکھی کو "نخل" کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک مستقل سورۃ اسی نام

سے موجود ہے۔

سورہ نخل کی آیت (۳۹) میں ارشاد الہی ہے: فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ اس میں

لوگوں کے لئے شفا ہے۔ شہد کی شفا بخشی کے متعلق یہ اعلان کم و بیش چودہ سو سال قبل کیا گیا

تھا۔ جو آج بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور سائنس کی پوری دنیا اس کی معترف ہے۔

شہد ایک دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ اس لذیذ اور مزیدار خوراک کو بڑے چھوٹے

ہر ملک اور ہر طبقہ کے افراد چھین جھپٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو یہ طب الہی اور

طب نبوی ﷺ ہے احادیث نبوی ﷺ کی مشہور کتاب الجامع الصغیر میں روایت ہے:

اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے وہ مختلف رنگ کا مشروب (شہد) نکالتا ہے۔ جس

میں لوگوں کے لئے شفاء ہے۔

شہد کی افادیت اور فوائد پر ہم نے متعدد احادیث نقل کر دی ہیں جن میں

حضور اکرم ﷺ نے مختلف امراض میں شہد کو بطور دوا استعمال کرنے کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں۔ یہاں ہم وہ فرمودات نبوی (علی صاحبها الصلوٰۃ والسلام) تحریر کر رہے ہیں جن میں حضور ﷺ نے شہد کو بطور معاون صحت کے استعمال کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

حضور ﷺ کے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَعِقَ الْعَسَلَ ثَلَاثَ غَدَوَاتٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ لَمْ يُصِبْهُ عَظِيمٌ الْبَلَاءِ۔

حضور ﷺ کو شہد اس لئے زیادہ محبوب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس میں شفا ہے۔ اور حکماء نے شہد کے بے شمار فوائد لکھے ہیں۔ مثلاً نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور ہوتا ہے۔ معدہ صاف کرتا ہے اور فضلات دفع کرتا ہے۔ سہلے کھولتا ہے۔ معدے کو اعتدال پر لاتا ہے۔ دماغ کو قوت دیتا ہے اور حرارت غریزی کو قوی کرتا ہے۔ خراب رطوبت کو دور کرتا ہے۔ سرکہ کے ساتھ استعمال کرنے سے صفراوی مادہ والوں کیلئے مفید ہے۔ قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے۔ مثانہ کے لیے مفید ہے اور مثانہ کی پتھری دور کرتا ہے نیز پیشاب کے بند ہو جانے کو کھولتا ہے۔ فالج اور لقوہ کے لئے مفید ہے۔ ریاح خارج کرتا ہے اور بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ شہد اور دودھ ہزاروں بوٹیوں کا عرق ہیں اگر تمام جہان کے حکماء جمع ہو کر ایسے عرق تیار کرنا چاہیں تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اپنے بندوں کے لئے ایسے عمدہ اور کثیر الفوائد عرق تیار کئے ہیں۔

جو شخص ہر ماہ تین دن صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کرے گا اسے کوئی بڑی بیماری نہ لاحق ہوگی۔ (مشکوٰۃ شریف)

اس موضوع پر حضور ﷺ کے ایک دوسرے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ

بن مسعود بیان کرتے ہیں قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالشِّفَائِينِ الْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ
(مستدک حاکم)

فرمایا حضرت رسول خدا ﷺ نے تم دو شفا بخش چیزوں کو لازم پکڑ لو۔ یعنی
(غذاؤں میں) شہد کو اور (کتابوں میں) قرآن مجید کو۔ (مشکوٰۃ المصابیح)

کیونکہ ان میں سے ایک صحت انسانی کیلئے تریاق ہے اور امراض جسمانی کے لئے شفا بخش
دوسرا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے ان نسخوں سے صدیوں نوع انسانی نے شفا
حاصل کی ہے آج بھی انہیں سے فلاح و کامرانی حاصل ہوگی۔

طب قدیم اور طب جدید دونوں شہد کی افادیت اور نافع ہونے پر متفق ہیں۔ کوئی
طریقہ علاج ایسا نہیں جس میں شہد کی خوبی تسلیم نہ کی گئی ہو۔ شہد کے خواص مختصراً حسب ذیل
ہیں:

انترئیوں کو صاف کرتا ہے۔

رطوبات کو حل کرتا ہے، کیونکہ ملین ہے۔

ضعیف العمر اور بلغمی مزاج لوگوں کے لئے حد درجہ مفید ہے۔

بارد مزاج افراد کے لئے بھی نافع ہے۔

مٹانہ، تلی، جگر، سینہ، اور معدہ کو صحت بخشتا ہے۔

مدرل بول ہے، اس سے پیشاب کھل کر آتا ہے۔

بال لیے کرتا ہے۔

آنکھوں میں لگانے سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور آشوب چشم کو شفا ملتی ہے۔

دانت صاف ہوتے ہیں، چمکتے ہیں اور مضبوطی حاصل کرتے ہیں۔

دوا کے ساتھ بہترین غذا بھی ہے اور مشروب بھی۔

ان تمام خواص کے سوا شہد کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے نقصان سے پاک ہے۔ واحد شے ہے جو طب الہی اور طب انسانی، دونوں کی رو سے جسم و روح کی غذا ہے۔ اس عالم میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔

(الطب النبوی۔ لابن قیم جوزیہ)

جنوری ۱۹۷۸ء میں روزنامہ ۱۹۷۸ء وقت میں ایک عجیب معجزہ نما واقعہ نظر سے گزرا۔ امریکی ریاست کے کسی دور افتادہ گاؤں میں پٹرول کی ایک ٹینگی پھٹ گئی اور پٹرول فوارے کی طرح ادھر ادھر پہنچنے لگا اس حادثہ میں صاحب خانہ کے تمام کپڑے جل گئے اور بدن بری طرح جھلس گیا وہ آدھے مہوا ہو کر گر گیا اس عالم میں اس کی ماں اور بیوی کو سامنے الماری میں پڑی ہوئی شہد کی ایک بوتل نظر آئی انہوں نے فوراً جملے ہوئے جسم پر آہستہ آہستہ شہد لگا دیا شہد لگانے سے مریض کی چیخ و پکار میں قدرے سکون ہوا تو بیوی نے شہد میں روئی تر کر کے اسے تمام بدن پر چپکا دیا۔

اب رحمت دو عالم ﷺ کے ادا شدہ کلمات کا اعجاز ظاہر ہوا۔ حضرت ابوسعید خدریؓ سے حضور ﷺ کی یہ حدیث منقول ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دفعہ ایک اعرابی سے فرمایا تھا کہ اللہ کا فرمان سچ ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

شہد لگانے سے زخموں سے چور امریکی کا جلا ہوا بدن پر سکون ہو گیا اور وہ آرام کی نیند سو گیا۔ اس کی چیخ و پکار بند ہو گئی ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر صاحبان نے حیرت سے انگلیاں منہ میں ڈال لیں اور بے ساختہ پکار اٹھے کہ اس قدر شدید زخمی خنجر کا بیج جانا صرف بروقت شہد لگا دینے سے ہی ممکن تھا ڈاکٹروں نے ان عورتوں کو شاباش دی اور تمام بدن کا معائنہ کرنے کے بعد عورتوں کو تاکید کی کہ مریض کو روزانہ دودھ میں ملا کر شہد ہی پلائیں اور زخموں پر بھی شہد ہی لگائیں۔

اگلے ہفتے جب پٹرول سے جلنے والے اس مریض کو پھر ہسپتال لایا گیا تو شہد کی کرامت سے اس کے زخموں کے نشانات تک مٹ چکے تھے اور جلد کی اصلی حالت بحال ہو چکی تھی۔ یہ واقعہ پڑھ کر مرے دل و دماغ میں ایسا ہی ایک پرانا واقعہ ابھر آیا جو ایسا ہی عجیب و غریب تھا۔

آج سے چالیس برس پہلے کی بات ہے شیخ دلی محمد صاحب ہوشیار پور میں دہلی صاحبین کے بہت بڑے تاجر تھے ان کے صاحبین تیار کرنے والے لوہے کے کڑا سے دو دو من کے تھے۔ بندہ اکثر مریض وغیرہ دیکھنے کی غرض سے ان کے کارخانے جایا کرتا تھا۔ ایک دن شیخ صاحب کالڑکا حاجی مشتاق صاحبین کی نگرانی کرتے ہوئے کھولتے ہوئے صاحبین کے ایک کڑا ہے میں گر گیا کارخانہ میں کہرام مچ گیا اور کاریگروں نے مل کر حاجی مشتاق کو کڑا ہے سے نکالا جو بری طرح مجلس گیا تھا میں نے فوراً شہد لگانے کی تاکید کی خدا کی قدرت شہد نے اپنا اثر دکھایا اور چند ہی روز میں زخمی جلد کوششے کی طرح صاف شفاف کر دیا آج بھی گول بازار (فیصل آباد) میں شیخ مشتاق صاحب صاحبین کا کاروبار کر رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی ان کا جسم اتنی بری طرح مجلس گیا تھا کیونکہ آج ان کے جسم پر کوئی داغ نہیں ہے اور شہد کی کرامت سے تمام جسم بالکل صاف ہو چکا ہے۔

شہد کے چند فوائد

نیلے داغ دھبے

جب چوٹ لگنے سے جسم پر کسی جگہ خون جم کر نیلا دھبہ یا داغ ظاہر ہو تو شہد میں آٹھواں حصہ کھانے والا نمک ملا کر دو چار بار لگانے سے نیلا ہٹ ختم ہو جاتی ہے اور جلد

صاف ہو جاتی ہے۔

وبائی امراض

اس ترقی یافتہ دور میں انفلونزا کی وبا خسره کی وبا کن پیڑوں کی وبا اور بعض اوقات ہیضہ کی وبا آبادی کے بیشتر حصے کو پریشان کر دیتی ہے۔ اگر ناشتہ میں دودھ کی یا پانی میں دو تین تولے شہد ملا کر وبائی ایام میں استعمال کئے جائیں تو بفضلہ تعالیٰ وباء کا خطرہ نکل جاتا ہے۔

پرانے زخم

پرانے سے پرانے اور رستے رہنے والے زخموں یعنی نامور وغیرہ کے لئے ایک حصہ آگ کے پتے خشک کر کے پیس لیں اور آٹھ حصہ شہد ملا کر زخموں پر لگانا شروع کر دیں انشاء اللہ کبھی پاس تک نہیں پھلے گی اور زخم بہت جلد مندمل ہو جائیں گے پرانی دھدر اور چنبیل وغیرہ کے لئے بھی یہ علاج مفید ہے لیکن احتیاط شرط ہے۔

زہر خوردنی کا علاج

اخبارات میں ہم دن رات خواب آور گولیوں، نیلا تھو تھا اور المون وغیرہ کے کھانے سے موت واقع ہونے کی خبریں پڑھتے رہتے ہیں۔ شہد قدرت کا وہ شاہکار ہے جس میں ہر مریض کے لئے شفاء ہے ”فیہ شفاء للناس“۔

شہد ہر قسم کے زہر کو جسم سے خارج کرتا ہے حرارت غریزی کو قائم رکھتا ہے اور زہر خوردہ قوت مدیرہ کو طاقت دے کر بدن سے زہر خارج کرنے میں مدد دیتا ہے بار بار شہد چاٹنے یا پانی میں حل کر کے پلاتے رہنے سے ہر قسم کا زہر قے کے ذریعے خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس وقت معدہ زہر کے اثرات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے تو قے خود بخود

بند ہو جاتی ہے۔

زہریلے جانوروں کے کانٹے کا علاج

بھڑکے کانٹے ہوئے پر شہد لگانے سے فوراً تسکین ہو جاتی ہے اور ورم نہیں ہونے پاتا۔ باڈلے کتے کے کانٹے کا علاج یہ ہے کہ مریض کو صبح و شام ایک بڑا چمچہ شہد چند روز تک کھلانے سے بفضلہ تعالیٰ مریض کو ہلکا و نہیں ہوتا۔ زخموں پر بھی شہد ہی لگائیں جلد شفاء ہوگی۔

سانپ کے ڈسے مریض کو فوراً دو چھٹانک شہد پلا کر بعد میں ریٹھے کا چھلکا آدھ چھٹانک سیر بھر پانی میں جوش دے کر پیالی بھر بار بار پلائیں۔ جب مریض خود کہے کہ یہ پانی کڑوا ہے تو جان لیں کہ زہر کا اثر ختم ہو گیا ہے اور تھے ہونے سے سانپ کا زہر خارج ہو گیا ہے۔ اب پانی پلانا بند کر دیں اور طاقت بحال کرنے کیلئے چمچہ بھر شہد چند روز تک چناتے رہیں۔

بچھو کانٹے کا علاج

خدا تعالیٰ محفوظ کے ڈسنے سے بہت تیز درد کی لہریں اور کرنٹ پریشان کرتی ہیں تھوم یعنی لہسن کی تو ریاں کوٹ کر برابر وزن شہد ملا کر ایک انگشت بھر کر دو چار دفعہ دن میں چنانے سے درد میں کمی اور مریض کو سکون ہو جاتا ہے۔ ڈنگ کے مقام پر بھی شہد ہی لگائیں۔

کلباڑی، برچھی یا تلوار کا زخم

ایسا زخم لگتے غل کا کپڑا بقدر زخم شہد میں لت پت کر کے فوراً زخم پر لگادیں۔

زخم بہت جلد بھر جائے گا۔

زخم پچوڑا، پھنسی یا چوٹ، بدن کے کسی بھی حصہ میں ہو تو شہد کا پھایہ لگا کر پی

باندھ دیں آرام ہوگا۔

آگ سے جلنا

آگ سے جلی جگہ پر جتنا جلد ممکن ہو شہد لپ کر دیں انشاء اللہ تعالیٰ نہ پھالا

اٹھے گا نہ زخم ہوگا۔

بواسیر اور دردِ نقرس کا غذائی علاج

التین کے نام سے قرآن مجید میں ۹۵ نمبر کی ایک سورۃ بھی ہے۔ انجیر کا ذکر انجیل میں بھی متعدد مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً یرمیاہ باب ۲۴ نیز متی باب ۲۱ وغیرہ۔ انجیر پھل اور غذا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا بھی ملک شام اور فلسطین میں اس کے درخت بکثرت ہوتے ہیں۔ اور اہل شام کے لئے ایک منفعت بخش پیداوادی حیثیت رکھتے ہیں۔

حضور ختمی مرتبت ﷺ نے انجیر کو جنت کا پھل اور نقرس و بواسیر دو بیماریوں کا علاج بیان فرمایا ہے۔ نقرس چھوٹے جوڑوں کے درد کو کہتے ہیں جو شدید تکلیف دہ ہوتا ہے اسے داء المفاصل (Gout) بھی کہا جاتا ہے۔ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ خونی اور بادی۔ کیا اچھا ہو کہ ہمارے اطباء اور ڈاکٹر اس ضمن میں تحقیق و کاوش سے کام لے کر دہمی دنیا کو حضور ﷺ کے معالجات سے سکھ پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔

أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ طَبَقٌ مِنْ تِينٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ كَلُوا، فَلَوْ قُلْتِ
 أَنْ فَآكِهِةَ نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ بَلَا عَجْمٍ لَقُلْتِ هِيَ التِّينُ وَإِنَّهُ يَنْهَبُ بِالْبُؤْسِ
 وَيَنْفَعُ النَّقْرَسَ

حضرت رسول اللہ ﷺ کے پاس انجیروں کا ایک تھال بطور تحفہ آیا۔ آپ نے

اپنے صحابہؓ سے فرمایا، کھاؤ، اگر میں کہتا کہ جنت سے ایک کھانا آیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ انجیر ہیں۔ یہ بوا سیر کو دور کرتے ہیں اور درنقرس کے لئے نافع ہیں۔

(مشکوٰۃ شریف)

انجیر ایک بین الاقوامی پھل ہے جو کھانے میں بے حد لذیذ اور غذائی اور دوائی اجزاء کا نادر مجموعہ ہے عوام اسے پھلوڑی عربی میں تین اور انگریزی میں فگ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ جنت کا پھل ہے قرآن حکیم میں اس کے شفا بخش اثرات کی وجہ سے اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ انجیر، سیاہ زرد اور سفید رنگ کی مختلف ملکوں میں پائی جاتی ہے۔ پنجاب کے علاقے میں سیاہ، کالمبی، زرد اور کیلے فورنیا کی انجیر سفید ہوتی ہے اس سے غذائی پھل کی پیداوار میں قدرت نے بہت فراخ دلی سے کام لیا ہے۔

باغوں میں اس کا پودا لگانے کا صدیوں سے یونانی حکیموں نے رواج دیا ہوا ہے۔ جنگلوں میں خود بخود اس کا پودا پیدا ہو جاتا ہے۔ جنگلی انجیر کا پھل باغ سے تیز ہوتا ہے اس کے پتے پھل میں ساٹھ فیصد گلوکوز ہوتی ہے۔ جس کے فوائد بازار میں بکنے والی گلوکوز سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ بقراط حکیم نے سب سے پہلے اس شفا کی پھل کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ سیاہ انجیر جس میں پانی زیادہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے بازاروں میں ماہ مئی میں فروخت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ پانی کے زیادہ اجزاء ہونے کے باعث جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اور اسے محفوظ ذخیرہ کرنے کا انتظام نہیں، زرد اور سفید قسم خشک کر کے بازاروں میں فروخت کے لئے سپلائی کی جاتی ہے۔

قدرت نے اس میں شکر کے علاوہ گوشت بنا نیا والے اور روغنی اجزاء بھی سودے ہیں پانی اور معدنی نمکیات کا یہ خزانہ ہے فولاد، فاسفورس، تانہ، کیمیا، سوڈیم آئیوڈین اور کیرے ٹین بھی اس میں شامل ہیں۔ وٹامنز اے بی اور ڈی اس کے حصے میں آئے ہیں

خالص خون پیدا کرنے کے لئے شاید اس سے سستی غذا ہمیں نہ مل سکے بدن کے سرخ و سفید بنانے، کم مضبوط کرنے، بیماریوں کا مقابلہ کرنے کے لئے قوت مدافعت پیدا کر کے اور دائمی قبض دور کرنے کے لئے یہ بے مثل غذا اور دوا ہے صدیوں سے پرانے حکیم کمزوروں، کمی خون والوں، دماغی اور اعصابی حکمن محسوس کرنے والوں کو اس سے غذا ایت سے بھر پور پھل کو استعمال کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔

آدھ پاؤ سے آدھ میر تک اس کا ناشتہ کرنا کافی خون پیدا کرنے کے علاوہ ہاضمہ درست معدہ ہلکا اور آنتیں صاف کر دیتا ہے۔ کمی بھوک والے اس کا ناشتہ کر کے اپنی بھوک بڑھا سکتے ہیں اس کا مزاج گرم اور تر ہے۔

معدہ اسے ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہضم کر لیتا ہے ایک پاؤ انجیر میں دو ہلکی روٹیوں کے برابر غذا ایت اور چار انڈوں کے برابر خون ہوتا ہے۔ بڑھتی ہوئی تلی (سپلین) کو اصلی حالت پر لانے کے لئے روزانہ چند روز ایک چھٹانک تک صبح کے وقت انجیر کھا کر ویسی سرکہ سے بنی ہوئی سکین تین تو لے عرق کو اور عرق بادیان پانچ پانچ تو لے ملا کر استعمال کرنا اور شام کے وقت کشتہ فولاد دورتی نوشادر ٹھیکری والا ایک سے چار رتی تک کھانا مفید ہے بڑھے ہوئے جگر کو درست کرنے کے لئے اس طرح صبح انجیر کھا کر شام کے وقت شربت بزوری تین تو لے عرق کاسنی دس تولہ، عرق بادیان پانچ تولہ کے ساتھ کشتہ فولاد ایک سے چار رتی اور ریوند چینی باریک کی ہوئی دو سے چھ رتی تک ملا کر کھانا دو تین ہفتوں میں بفضل خدا جگر کو درست کر دیتا ہے۔

قوت یادداشت بڑھانے اور دماغی کمزوری دور کرنے کے لئے اس کا ناشتہ کر کے مغز بادام سات سے اکیس عدد مغز اخروٹ ایک سے تین عدد اور چھوٹی الائچی ایک سے پانچ دانے تک بطور سردائی پانی میں گھوٹ چھان کر بیٹھا ملا کر پینا حافظہ مضبوط بنا دیتا ہے۔

تازہ انجیر توڑنے پر جو دودھ لگتا ہے۔ اگر اسے اکھٹا کر کے روزانہ دو سے پانچ قطرہ تک برص (سفید داغ) چنبل اور انگیز میا پر لگائیں تو انشاء اللہ چند روز میں اس جگہ خراش ہو کر جلد صاف ہو جائے گی۔ اس کے بعد روغن نارجیل لگائیں گلٹیوں پر اس کا دودھ لگاتے رہنے سے غدودیں آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہیں۔

انجیر میں قدرت نے زہریلے اثرات دور کرنے کی بھی خاصیت رکھی ہے آج کل ایسی دور میں جبکہ زہریلی دواؤں اور گیسوں کا استعمال عام ہو رہا ہے انجیر کھا کر ڈیڑھ سے چھ ماہ تک کلونجی پیس کر پھانک لینا زہریلے اثرات سے محفوظ رکھتا بلغمی کھانسی، فالج، چھوٹے بڑے جوڑوں کی درد، بدن سن ہونے اور مرگی کے مریضوں کو اس پھل کو استعمال کر کے فائدہ حاصل کرنا چاہئے۔ انجیر کھانے سے بعض نازک مزاجوں کی زبان پر خراش ہو جاتی ہے پانی میں بھگو کر استعمال کرنے سے اس کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔

غصہ دور کرنے کا غذائی علاج

معلوم ہونا چاہئے کہ غصہ بھی امراض کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس سے خود اپنے آپ کو نقصان ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھی غصہ پیدا ہوتا ہے۔ صفر کے جوش سے بعض مرتبہ اس کی زیادتی سے روح اور حرارت غریزی باہر آ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے بخار، درد سر، خفقان، غشی اور ان کے علاوہ طرح طرح کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ مریض کفریہ کلمات زبان سے نکالنے لگتا ہے۔ ایسے شخص کی عزت اور وقار لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کے دشمن بہت ہوتے ہیں اور دوست کم، غصہ سے حسد، کینہ اور بغض و عداوت جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں ایسے شخص کو اگر قدرت حاصل ہو تو دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اگر قدرت نہ ہو تو وہ خود اپنی ہی جان کو ہلاک کرتا ہے۔

مثل مشہور ہے کہ قہر درویش بر جان درویش - گالیاں دینے لگتا ہے۔ اپنے کپڑے پھاڑ ڈالتا ہے۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ خود کشی کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لئے آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا اے لوگو! غصہ وہ چنگاری ہے جو آدمیوں کے دلوں میں سلگائی جاتی ہے۔ اور غصہ کے آگ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ غصہ کی حالت میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ رنگ متغیر ہو جاتا ہے اور پورا جسم

جوش میں آجاتا ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ غصہ ایک آگ ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے لیکن پھر بدن پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس لئے انسان کو چاہئے حتی الامکان ٹھنڈے پانی سے وضو کر لے یہ علاج طب یونانی کے بھی موافق ہے۔ چنانچہ حکیم علی شیرازی، قانون کی شرح میں لکھتے ہیں کہ غصہ کی حالت میں روح اور حرارت غریزی انسان کی حرکت میں ہوتی ہے ایسے وقت ٹھنڈا پانی پینے اور بدن پر ڈالنے سے مکمل نفع حاصل ہوتا ہے، دوسرا علاج یہ ہے کہ غصہ کے وقت آدمی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔

لیٹ جانے سے آنحضرت ﷺ کی مراد یہ ہے کہ آدمی عاجزی کرنے لگے اور اپنے نفس کو سمجھائے کہ تو مٹی سے پیدا ہوا ہے، پھر آگ سے کیوں کھیلتا ہے۔ زمین کو دیکھ کر اس پر پیشاب پاخانہ کرتے اور گندگی ڈالتے ہیں اور زمین ہر چیز کو برداشت کرتی ہے۔ تجھے بھی چاہئے کہ تو جس چیز سے بنا ہے (یعنی مٹی سے) اسی کی حرص کر، تجھے آگ سے کیا کام، کیونکہ یہ آگ ہی تھی جس نے شیطان کو کافر اور راتندہ درگاہ کیا۔

اور تیسرا علاج حضور ﷺ نے یہ بتایا کہ غصہ کے وقت خداوند تعالیٰ کو یاد کرے اور اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے۔ کیونکہ غصہ کرنا شیطان کی عادت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام پر سب سے پہلے اسی نے غصہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اس حال کو پہنچا۔ اس واقعہ سے عبرت حاصل کر کے غصہ کو دور کرے۔ اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ خدا کو یاد کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو سمجھائے کہ تو دن بھر خدا کی نافرمانی اور گناہ کرتا رہتا ہے اور خدا تعالیٰ باوجود ہر قسم کی قدرت کے معاف کرتے رہتے ہیں۔ اور تو تو عاجز ترین مخلوق ہے، تجھے بھی چاہئے کہ ہر وقت غفوک کیا کرے تاکہ قیامت کے دن تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔

غصے کا اظہار ضبط نفس کی کمی کے مترادف ہے اور اسے برابری سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقتاً غصہ ایک جذباتی ہتھیار ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ غصے کا اظہار کرنے والے شخص کا ماحول پریشان کن ہے۔

ایک ماہر نفسیات کے کہنے کے مطابق بیماریوں کی ایک بڑی تعداد کا انحصار اس بات پر نہیں کہ مریض نے کیا کھایا ہے بلکہ اس چیز پر ہے کہ مریض کو کیا چیز کھائے جا رہی ہے طبی ماہرین نفسیات دانوں کے اس تجزیے سے بڑی حد تک متفق ہیں کہ ہمارے جذبات ہی ہمیں بیمار کرتے ہیں۔

قدرت نے ہمیں جذبات اس لئے عطاء کئے ہیں کہ انہیں صحت مند طریقے سے استعمال کریں لیکن اگر وہ قابو سے باہر ہو جائیں تو پھر ہمارا ذہنی اور جسمانی نظام اس سے متاثر ہونے لگتا ہے ہمارے بعض جذبات جیسے رنجیدہ ہونا یا آنسو بہانے کی صلاحیت ایک حفاظتی درپے ہیں جو ذہنی دباؤ کے وقت کھل کر اس میں کمی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں غصہ بھی ایسی ہی ایک کیفیت کا نام ہے۔

ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کی مثال لیں جو خوش و خرم ازدواجی زندگی بسر کر رہا ہے یا پھر دو ایسے دوست جن کے اندر بہت زیادہ ہم آہنگی ہے فرض کریں کہ کسی مسئلے پر ان کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے بحث کرنے لگتے ہیں اس کا کیا نتیجہ برآمد ہوتا ہے غصے کے باعث ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے خون میں اینڈری نیلین کا اضافہ ہو جاتا ہے جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں چہرے سرخ ہونے لگتے ہیں اور آوازیں بلند ہو جاتی ہیں لیکن دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد ان کے سینے ہلکے ہو جاتے ہیں اور جذبات میں ٹھنڈک آ جاتی ہے وہ پرسکون ہو جاتے ہیں اور طبیعت بہتر معلوم ہونے لگتی ہے بعض اوقات ہم ایسی کیفیت کو دل کا بخار نکال لینا بھی کہتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار

نہیں کرتے اور دل ہی دل میں شبہات جنم لینے لگتے ہیں جو وقت کے ساتھ قوی ہوتے جاتے ہیں ایسی حالت میں بہت جلد وہ ذہنی ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے خوش مزاجی کے پردے میں چھپا لینے سے غصہ ایک تیز ہتھیار کی شکل اختیار کر لیتا ہے ایسی صورت میں دونوں ہی افراد مظلومیت کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ کہ غصہ ایسی کیفیت ہے جو انسان کو اندر ہی اندر رکھا جاتی ہے بالکل اسی طرح جیسے زنگ لوہے کو کھا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ اندرونی پیچ و تاب مرد کو السر کا شکار بنا دے جبکہ فریق ثانی اپنے جذبات کا اظہار نہ کر سکنے کے باعث آنسوؤں کا سہارا لے اور پھر دمہ کے دورے پڑنے لگیں ذہنی دباؤ ہمیشہ ہمارے جسمانی نظام کے کمزور ترین حصوں پر حملہ آور ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں سب سے اچھا مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ غصے پر ایک رات نہ گزرنے دو اس پر عمل پیرا ہونے سے نہ جانے کتنے گھر تباہ ہونے سے بچ جاتے ہیں اور ازدواجی الجھنیں مسرت میں بدل جاتی ہیں قرون وسطیٰ کے ایک یورپی فلسفی نے کیا خوب کہا کہ غصے کو اپنے اوپر ایک گھنٹے تک تو طاری رہنے دو لیکن اس پر ایک رات مت گزرنے دو کیوں کہ غصے کا تو اثر نفرت میں تبدیل ہو جاتا ہے ایسا غصہ جائز نہیں جس پر دو دن گزر جائیں۔ اسی طرح آنحضرت ﷺ کا بھی ارشاد ہے کہ غصہ میں کسی سے ایک دن سے زیادہ قطع کلامی جائز نہیں ہے۔ غصہ ایک خوفناک علامت ہے جو ہمارے وجود پر طاری ہو جاتی ہے ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہے اور ہم پر وہشت طاری کر دیتی ہے۔ غصہ ایک ذہین اور ہوش مند انسان کو وحشی اور پاگل بنا دیتا ہے۔ اسے اچھے برے کی تمیز باقی نہیں رہتی قتل کے اکثر کیسوں میں قاتل انتہائی اشتعال کے عالم میں پہنچ جاتا ہے غصے کو عارضی پاگل پن سے تشبیہ دی جاتی ہے جس کے دوران قاتل ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا۔

روزمرہ کی زندگی میں غصہ آنے کے بعد ہم چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں چیزیں اٹھا کر پھینکتے ہیں اور عموماً انتہائی نفرت انگیز قسم کا برتاؤ کرتے ہیں پھر چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی شخصیت کا تاریک پہلو اجاگر کر دیتے ہیں غصہ اتر جانے کے بعد اپنی حماقت کا احساس ہوتا ہے اور دوبارہ غصہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد ایک مرتبہ اسی کیفیت سے گزرتا محسوس کرنے لگتے ہیں۔

غصے کا دبا لینا مسئلہ کامل نہیں اس صورت حال کے لئے ایک طرح سے اچھا بھی ہے جو ہمیں اس میں مبتلا کرتا ہے تاہم اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہئے کہ غصے کی حالت میں کس حد تک جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غصے پر بھی کنٹرول حاصل ہونا چاہئے۔

غصے میں آپے سے باہر ہو جانے والے لوگ ناہنختہ شعور کے مالک ہوتے ہیں اس کے برعکس ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو نہ صرف اپنے غصے سے ڈرتے ہیں بلکہ دوسروں کو غصے میں آتے دیکھ کر بھی خوفزدہ ہو جاتے ہیں ایک خاتون نے اپنی مثال دیتے ہوئے وضاحت کی کہ اگر کوئی مجھ پر غصہ کرتا ہے لیکن جواب میں میں بہت سہولت کے ساتھ اسے سمجھاتی ہوں یا پھر میں خاموش رہتی ہوں لیکن اس سے اس کا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ میں بعض اوقات سوچتی ہوں کہ میری فطرت ایسی کیوں ہے میں بچپن سے ہی حلیم الطبع تھی اور بھائی بہنوں کے جھگڑوں سے ہمیشہ الگ تھلگ رہا کرتی تھی لیکن مجھے یاد ہے کہ والد بہت تیز مزاج تھے غصہ آنے پر وہ آسمان سر پر اٹھالیا کرتے تھے اور ہم لوگ خوفزدہ ہو کر دیک جایا کرتے اس غصے نے میری نگاہوں میں ان کی عزت کم کر دی اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی شوہر کا کہنا ہے کہ باپ کے غصے نے میرے اندر ایک خوف طاری کر دیا ہے جس کے باعث میں اپنے جذبات کا اظہار کرتے ڈرتی ہوں لیکن میں

کوشش کے باوجود غصہ نہیں کر پاتی۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خاتون مردہ خون کی مالک ہے بلکہ ماہرین نفسیات کے الفاظ میں اس کے غصہ آنے کی حدود بہت ہی زیادہ ہیں اگر ہم دوسروں کے مقابلے میں زیادہ امن پسند ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کوئی انوکھی شے نہ سمجھنا چاہئے ہمیں اپنے دل کا بخار صرف اسی وقت نکالنا چاہئے جب وہ محسوس ہو رہا ہو آج کی دنیا میں ہم ایسے افراد سے گھرے ہوئے ہیں جو ہر وقت ہمیں پاگل بناتے رہتے ہیں۔ سروس کاؤنٹر پر بد لحاظ ملازم، ٹیکسی ڈرائیوروں کی بد تمیزی سیلز مین کی زبان درازی غیر ذمہ دار سرکاری ملازم جو عوام کی خدمت کرنا اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں بے ایمان دکاندار ان جیسے نہ جانے کتنے اور یہ لوگ ہمارا خون کھولتے رہتے ہیں لیکن ہم میں سے بیشتر ان کی بد تمیزیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کی سطح تک نیچے نہیں گرنا چاہتے تاہم ایسے مواقع پر غصہ تو آتا ہی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم اس کا اظہار کرتے ہیں ہم اپنے غصے کو ضبط کر کے وہاں سے ٹل جانے کو ہی بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اس کے جواب میں ان کی طرف سے ہونے والی متوقع بد تمیزی سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔

ماہرین نفسیات کے کہنے کے مطابق غصے کو دبانا ایک عجیب سی صفت ہے ہم اسے استعمال اس لئے کرتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے متوقع رد عمل سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں یا پھر یہ سوچتے ہیں کہ غصہ کرنے کی صورت میں مجمع کے کسی فرد کی ہمیں تائید حاصل نہیں ہوگی اور دشمن سے ہمیں تنہا ہی مقابلہ کرنا پڑے گا غصے کو اس وقت بھی دباتے ہیں جب ہمیں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی چاہنے والے کی محبت سے محروم ہو جائیں گے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ شخص ہم سے روٹھ کر الگ نہ ہو جائے غصہ اس وقت بھی دباتے ہیں جب ہمیں بد مقابل کی طرف سے کسی جسمانی حملے کا خوف ہو۔ اس لئے ایسی صورت

میں ہمیں نبی اکرم ﷺ کے مشورے کے مطابق اپنے اوپر پانی ڈال لینا چاہئے خواہ وہ وضو کی صورت میں ہو یا غسل کی صورت میں۔

ایک نفسیات دان کے کہنے کے مطابق عموماً جس شخص کو جسمانی حملہ کا خوف ہو وہ خود اپنے اندر غصے کی آگ سے جل رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اسی کیفیت کو مد مقابل کے اندر بھی وہی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔

غصے کی کیفیت ایک نارمل حالت ہے اور ہمیں اسے نارمل ہی سمجھنا چاہئے غصے کے اظہار کی آرزو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل میں یہ خیال آئے کہ اپنے چاہنے والوں پر غصہ کرنا درست اور ضروری ہے ایک معمر خاتون کا خیال ہے کہ بچوں کی پرورش کے بارے میں نظریات کس تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اپنی جوانی میں اس نے ایسے بہت سے لیکچر سنے تھے جن میں اس بات پر زور دیا جاتا تھا کہ غصے کی حالت میں بچے کو کبھی نہ مارو لیکن آج یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ بچے کو مارنا ہی نہیں چاہئے لیکن میرے نزدیک اگر ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچے کو مارنا اس کی بہتری کے لئے ضروری ہے تو پھر ایسا کرتے وقت اسے احساس جرم ہرگز نہیں محسوس کرنا چاہئے اگر انسان کو اپنے غصے کا بخوبی احساس ہو جائے تو پھر وہ اسے آسانی سے کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کا ایک مناسب حد تک اظہار بھی۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنا غصہ کسی ایسے شخص پر اتار دیتے ہیں جو قطعی معصوم ہوتا ہے اور وہ غصے کا سبب بھی نہیں ہوتا مثلاً اگر کسی آدمی کو آفس میں اپنے پاس کی کوئی حرکت بری لگتی ہے تو وہ اس پر غصے کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس وہ کھولتا ہوا گھر جاتا ہے اور اپنی بے زبان بیوی پر سارا غصہ اتار دیتا ہے اگر بیوی اس کا غصہ خاموشی سے برداشت کر لے اور کسی رد عمل کا اظہار نہ کرے تو وہ آدمی پرسکون ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ غصے کا جواب غصے سے دیتی ہے تو پھر ان کے گھر میں روزانہ جنگ کا منظر دکھائی دے گا۔

ایسا شخص اگر یہ محسوس کر لے کہ اس کا غصہ بے جا ہے تو صورت حال بہتر ہو سکتی ہے اور بے جا غصہ ہمیشہ زیادتی پر مبنی ہوتا ہے کیونکہ جس پر وہ اتارا جاتا ہے وہ بے قصور ہوتا ہے اور پھر اس کا کوئی فائدہ بھی تو نہیں کیونکہ گھر پر غصہ اتارنے سے آفس کی صورت حال بہتر تو نہیں ہو سکتی۔

بے جا غصہ ہمیشہ غیر منطقی، خلاف عقل اور اپنے آپ کو تباہ کرنے کے مترادف ہے میرے مطب میں ایک خاتون نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ایک مرتبہ اسے اپنے شوہر کے بار بار طعن کرنے پر اس قدر غصہ آیا کہ وہ گھر سے نکل گئی اور وہ رات اس نے کہیں اور گزار لی قدرتی طور پر ان کی ازدواجی زندگی زیادہ دنوں تک پائیدار نہ ہو سکی۔

ہمیں ایسے افراد سے بھی واسطہ پڑتا رہتا ہے جو ایسی باتوں پر غصے کو حق بجانب سمجھتے ہیں جو ان کی نظروں میں غلط ہیں۔ لیکن یہ غصہ کسی طرح بھی درست نہیں سمجھا جاسکتا۔ یہ غصہ اقتدار کے کھیل کا ایک حصہ نہیں ہے جس میں ہم دوسروں پر برتری حاصل کرنے کی کوشش میں غصہ کر کے ان کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ غصہ ہماری صداقت کا مظہر ہے اور اسی لئے ہم حق بجانب ہیں۔ ایک خیال یہ بھی ہے کہ صحیح بات پہ طیش میں آجانے سے انسان کی دوسری ناپسندیدہ خصوصیات پر پردہ پڑ جاتا ہے جیسے حسد و جلن وغیرہ۔

میرے پڑوس میں ایک شریف خاندان قیام پذیر تھا جس کی دو جوان بیٹیاں تھیں اور جو شادی کی عمر پار کر چکی تھیں بڑی لڑکی شہلا معمولی صورت شکل کی تھی اور دقت گزاری کے لئے اس نے اپنے کو مذہبی شعائر میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارا کرتی چھوٹی بیٹی سارہ خوبصورت اور خوش مزاج تھی گھومنے پھرنے اور سیر و تفریح کی شوقین تھی ایم ایس سی کرنے کے بعد اس نے کسی لیبارٹری میں ملازمت کر لی تھی پارٹیوں میں شرکت کرتی اور دوست احباب کے ساتھ گھوما پھرا کرتی۔

بڑی بہن چھوٹی پر ہر وقت تنقید کرتی رہتی اسے وقت پر گھر آنے کو کہتی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر اعتراض کرتی لیکن چھوٹی ان باتوں کو خاطر میں نہ لاتی اور ہنس کر نال دیا کرتی بڑی نے فتویٰ صادر کر دیا کہ چھوٹی بہن کسی کام کی نہیں رہی اور خاندان کے لئے شرمندگی کا باعث بنے گی ایک روز سارہ گھر واپس نہیں آئی اسے اپنی لیبارٹری میں کام کرنے والا کوئی لڑکا پسند آ گیا اور ان دونوں نے سول میرج کر لی کیوں کہ سارہ کو علم تھا کہ لڑکے کی کم حیثیت کے باعث گھر والے اسے شادی کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے شہلانے بڑے فخر یہ انداز میں ہر ایک کو بتایا کہ اس کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی اس نے نہ صرف خود اپنی بہن سے ترک تعلق کر لیا بلکہ والدین پر بھی سارہ سے ملنے پر پابندی عائد کر دی۔

سارہ کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی بوڑھے والدین سے صبر نہ ہو سکا اور وہ شہلا سے چھپ چھپ کر اس سے ملنے لگے جاتے وقت اپنے نواسے کیلئے کھلونے اور کپڑوں کی گھنٹریاں لے جانا نہ بھولتے کیا شہلا واقعی سارہ کے کردار پر شبہ کرتی تھی یا یہ محض حسد اور جلن کے باعث تھا کیونکہ سارہ اس کے مقابلے میں نہ صرف زیادہ خوبصورت تھی بلکہ زیادہ کامیاب زندگی بھی بسر کر رہی تھی۔

اپنے غصے کی وجہ پہچان لینے کے بعد اس پر قابو پانا نسبتاً زیادہ آسان ہو جاتا ہے غصہ سے کامیابی کے ساتھ عہدہ برآں ہوتے کارا زعی اس پر کنٹرول کرتا ہے لیکن کنٹرول کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایک حد تک جانے کے بعد اس پر بڑیک لگا دیا جائے بعض حالات میں دانائی یہی ہے کہ بالکل خاموش رہا جائے چاہے صورتحال جتنی بھی نازک کیوں نہ ہو جائے اور پھر اچانک عمل شروع کر دیا جائے۔

اگر آپ یہ محسوس کریں کہ غصہ کرنے سے آپ کے لئے نقصان کا پہلو زیادہ ہے

تو محض مسکرا کر خاموش ہو جانا چاہئے یہی وہ موقع ہوتا ہے جب آپ کو نہات صبر و ضبط کے ساتھ فیصلہ کرنا پڑتا ہے چاہے اندر سے کتنے ہی پیچ و تاب کیوں نہ کھارے ہو مثلاً ایک خاتون نے غصے کو کنٹرول کرنے کی توجیہ یوں پیش کی میرا بس بہت ظالم اور غیر منصف ہے دل چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر دو چار باتیں سنا دوں لیکن پھر سوچتی ہوں کہ مجھے اس کام کا تجربہ حاصل کرنا ہے تاکہ اس سے زیادہ بہتر ملازمت مل سکے غصہ اور جذبات انسان کے نظام ہضم پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اس کیلئے قدرے تفصیلی تمہید عرض کرتا ہوں کہ

ہمارے جسم کا ہر عضو اپنی زندگی اور قوت قائم رکھنے کے لئے اس سکون سے غذاء حاصل کرتا ہے جو ہماری زندگی میں رواں دواں ہے۔ یہ غذاء جسم کے بہت سے اعضاء میں رہ کر اور مختلف تغیرات کا تختہ مشق بننے کے بعد تیار ہوتی ہے۔ آلات ہضم سب سے زیادہ قابل غور معدہ ہے اگر معدہ کا فعل اعتدال پر ہو تو تمام جسم کی حالت بہتر رہتی ہے اور اگر معدہ اپنا فعل اچھی طرح ادا کرے تو تمام جسم صالح غذا سے محروم ہو کر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے اس لئے احادیث میں آیا ہے کہ ”معدہ بیمار یوں کا گھر ہے۔“

سب سے بڑا علاج پرہیز ہے۔ چونکہ معدے کے افعال کا انتظام اور بد نظمی انسان کے اپنے اختیار میں ہے اور نہ صرف اخلاقاً بلکہ شرعاً اس پر واجب ہے کہ معدے کی نگہداشت میں تساہل نہ ہونے دے اور ایسی باتوں سے پرہیز رکھے جو معدے کے ہضم کو خراب اور اس کے فعل کو غیر منتظم کرتے ہیں۔ اس لئے بقائے صحت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈالے۔

حفظ صحت کے لئے سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہر شخص سوئے ہضم کے اسباب کا خیال رکھے اور ان سے پرہیز کرے۔ جو شخص صرف بہ قدر ضرورت سادہ غذا کھائے اور

صاف و قلیل پانی پینے کا عادی ہو، اس کیلئے سوئے ہضم کے اسباب کی شناخت کچھ مشکل نہیں لیکن اکثر لوگوں کا عمل اس کے برعکس ہے۔ وہ کھانے پینے میں بڑے تکلفات اور خوش خوری کے عادی ہیں۔ طرح طرح کی چمپٹی غذائیں کھانے اور قسم قسم کے مشروبات کے چٹھارے لینے کا انہیں شوق ہے اس لئے اپنی بد ہضمی کے اسباب کبھی ان کی سمجھ میں نہیں آسکتے۔

ہاضمے کو تباہ کرنے والے برے اسباب یہ ہیں: ۱۔ نشہ اور چمپٹی چیزوں کا استعمال
۲۔ تمباکو نوشی۔ ۳۔ برے تاثرات مثلاً غصہ و حسد اور غم و فکر میں مبتلا رہنا۔ ۴۔ کھانے کے بعد جنسی مقاربت۔ ۵۔ کھانے کے بعد شدید محنت و مشقت کا کام کرنا۔ ۶۔ کھانے کے بعد فوراً سو جانا۔ ۷۔ کھانا ہضم ہونے سے پہلے کچھ کھالینا۔ ۸۔ اپنے آپ کو خوش خوری کے حوالے کر دینا۔

نشے سے نظام ہضم کے اعصاب و عضلات سست پڑ جاتے ہیں اور یہ خرابی معدے اور آنتوں کے فعل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ عصارہ معدیہ جو ہضم کا بہترین ذریعہ ہے ضائع ہو جاتا ہے اور لزوج شکم کی شکایت جان کا جنجال بن جاتی ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ شراب تیز اور چمپٹی چیزوں کے استعمال سے معدے کے غدود سے بہ کثرت عصارہ خارج ہوتا رہتا ہے اور ضرورت کے وقت غذا ہضم کرنے کیلئے یا تو اس عصارے کا کچھ بھی حصہ منہ میں نہیں رہتا اور اگر تھوڑا بہت رہتا بھی ہے تو وہ کھانے کی معمولی تحریک کے زیر اثر معدے سے نکلتا نہیں، اس لئے کہ وہ تیز مسالوں اور ذائقہ دار لوازم کی تحریک سے خارج ہونے کا عادی ہوتا ہے، چنانچہ کھانا خاطر خواہ ہضم نہیں ہوتا۔

تمباکو نوشی کی کثرت سے بھی اعصاب اور اعضائے جسم میں سستی اور کمزور لائق ہوتی ہے جس کے نتیجے میں معدہ بھی سست ہو کر حرکت سے معذور ہو جاتا ہے اور کھانا ہضم

نہیں کر سکتا غذا بڑی دیر تک ہضم ہوئے بغیر معدے میں پڑی رہتی ہے اور اس کے سڑ جانے سے کسی طرح کے گندے مواد پیدا ہو جاتے ہیں جو آنتوں میں جا کر گڑ گڑاہت پیدا کرتے ہیں۔

سخت گرم چیز کھانے سے کیوں منہ جلتا ہے؟ اس لئے اکثر چبائے بغیر اسے نگلنا پڑتا ہے جس سے ایک تو وہ کھانا بغیر باریک ہوئے معدے میں چلا جاتا ہے، دوسرے منہ کا لعاب جو اس کے ہضم ہونے کا موجب ہے اس کے ساتھ شامل نہیں ہونے پاتا اور انجام کار معدے کو نقل محسوس ہوتا ہے اور وہ اس کے ہضم کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔

سخت گرم اشیاء کے استعمال کا ایک اور نقصان یہ ہے کہ زبان کی حس ذائقہ کمزور ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر زبان آدھ منٹ، کھلے، نمکین اور پھیکے کے درمیان تمیز نہیں کر سکتی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ”دو طعام ایسے ہیں جن میں برکت نہیں ہوتی۔ ایک چھینا ہو طعام اور دوسرا گرم طعام۔ یہ خدا کا بڑا فضل ہے کہ اس نے انسان کے ہاتھ میں گرم اور سرد اشیاء کے احساس کی قوت رکھی ہے، چنانچہ جو گرم طعام اسکے معدے کے لئے مضر ہو اسے پہلے وہ اپنے ہاتھ سے محسوس کر سکتا ہے۔“

اگر انسان کی آفرینش اور ساخت پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی تاثرات سے اثر پذیر ہونے کی بڑی صلاحیت رکھتا ہے یعنی یہ اسے ایک طرح کی روحانی لذت یا ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں پہلی قسم کے تاثرات سے اس پر ایک انشراح و انبساط کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اسے ہم خوشی اور سرور کہتے ہیں اور دوسری قسم کے تاثرات سے محض اور انقباض کی حالت عارضی ہوتی ہے اسے ہم غم اور حزن سے موسوم کرتے ہیں۔ ان دونوں حالتوں کا اثر جسم پر بھی بہ خوبی محسوس ہوتا ہے؛ چنانچہ خوشی میں اس پر سرخی پائی جاتی ہے اور غم میں نہ زردی۔

صحت پر اثر انداز ہونے کے لحاظ سے ان تاثرات کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جو انسان کے نفس میں تسکین، آرام اور فراغت پیدا کرتے ہیں جیسے خوشی و کامیابی وغیرہ۔ نفس کی وساطت سے جب یہ تاثرات جسم میں در آتے ہیں تو ان سے نہ صرف امراض میں تخفیف پیدا ہوتی ہے، بلکہ عموماً شفا ہو جاتی ہے اور دوسرے وہ جن سے نفس میں تنگی، شکستگی اور ضعف پیدا ہوتا ہے جیسے خوف، وہم، غم اور ملال جسم ان کا عکس نفس سے قبول کرتا ہے اور اس میں اضطراب پیدا ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی موت کا باعث بن جاتی ہے۔

نفسیاتی تاثرات کا اثر سب سے پہلے اور سب سے زیادہ دماغ پر پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا فعل معمولی سے زیادہ کرنے لگتا ہے جو بہت سے جسمانی مصالح کے ضائع اور ناکارہ ہو جانے کا موجب ہے بالآخر اس کا نتیجہ یا تو تمام نظام عصبی کو بھگتنا پڑتا ہے یا کوئی خاص عضو جس کے پٹھے دماغ سے نکلنے ہیں اس کا نشانہ بن کر رہتا ہے، اس لئے دماغ تمام جسم کا بادشاہ ہے۔ جس کی بھلائی برائی سب اس کی طرف آتی ہے۔ الغرض یہ تاثر دماغ پر پڑتا ہے تو اس کی وساطت سے دوران خون، تنفس اور ہضم میں بطور خاص فتور پڑ جاتا ہے۔

پہلا تاثر دماغ کا ہوتا ہے اس سے بعض اوقات دماغ میں مختلف امراض مثلاً سدہ، دماغ، مرگی، سکتہ وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں کبھی اس سے خون بگڑ جاتا ہے اور اس کے رقیق ہو جانے سے وہ قوت زائل ہو جاتی ہے جو بدن کا تغذیہ کر کے اسے طاقت دیتی ہے اور کبھی خون کے اجزا میں فتور آ جاتا ہے اور انجام کار جسم کے تمام سیال مادے فاسد ہو جاتے ہیں؛ چنانچہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی بچے والی عورت پر جب کوئی نفسیاتی تاثر، غم و غصہ، خوف وغیرہ غالب ہوتا ہے تو اس کا دودھ بگڑ جاتا ہے۔ یہ دودھ جب وہ بچے کو پلاتی ہے تو اسے نہ صرف سخت نقصان پہنچتا ہے بلکہ دودھ کبھی کبھی زہر کا کام بھی کر جاتا ہے۔ اس

زہریلے دودھ کے متعلق ہمیں یہ علم کم ہوتا ہے کہ یہ غصہ نفسیاتی تاثرات سے بگڑا ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوئے ہضم معدے کی خرابی اور کھانے پینے میں بد پرہیزی اس کا سبب ہے۔ اگر بچے کی ماں نازک مزاج اور زودرنج ہو تو وہ معمولی تاثر سے اپنی عصبی اور عضلاتی قوت کو بہ افراط خرچ کرے گی، اس لئے اس کا دودھ بچے کی غذا کے لئے بالخصوص پیدائہ ہوگا، کیونکہ اس کے دانت پیدا ہونے کا جو جزو دودھ میں ہوتا ہے، وہ نفسیاتی تاثرات سے جل جاتا ہے اور آخر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا جسم ضعیف و نحیف اور اس کے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس کے اخلاق و عادات بھی اپنی ماں کے اخلاق و عادات کی طرح خراب اور طبیعت ماں کی طبیعت کی طرح زودرنج ہو جاتی ہے۔

وہ جو پرانے لوگ کہا کرتے ہیں کہ جب انسان کی برافروختگی بعض حیوانات کی برافروختگی تک پہنچ جائے تو اس کا خون بگڑ جاتا اور لعاب زہر ہو جاتا ہے، وہ بھی اس قبیل سے ہے۔ دلیل یہ ہے کہ وہ شخص کسی جاندار کو کاٹ کھائے تو اس کا لعاب اس جاندار کو زہر آلود کر دے گا۔

اس قسم کے تاثرات کا ہضم پر جو برا اثر پڑتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ انتہائی خوف کے وقت انسان کا منہ خشک ہو جاتا ہے اور انسان بول نہیں سکتا۔ غصے کی کیفیت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یعنی یہ غدود اپنا فعل معمول سے زیادہ کرنے لگتے ہیں اور انسان کے منہ میں جھاگ آ جاتا ہے۔ یہ دونوں غیر معتدل کیفیتیں معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ تاثرات بالوں کی سیاہی قائم رکھنے والے مادے پر بھی برا اثر ڈالتے ہیں چنانچہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جوانی کے دنوں میں اگر کسی پر مسلسل غم و فکر طاری رہے تو اس کے بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں۔

اگلے زمانے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ بغض اور حسد کی آگ انسان کو جلد بوڑھا

کر دیتی ہے۔ غور کیا جائے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں کہ عموماً آدمی ہمیشہ بے چین رہتا ہے۔ بے چینی، بد بھمنی کا سب سے بڑا سبب ہے اور جب انسان کو غذا کم پہنچتی ہے تو وہ ضعیف و نحیف ہو کر وقت سے پہلے بڑھاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن بچوں کے دل میں حسد اور بغض بھرا ہوا ہو، وہ بچپن ہی میں تیوری چڑھے اور روکھے پھیکے نظر آتے ہیں، کہنے لگتے ہیں چھپائے نہیں چھپتیں، اور پیشانی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔

یہ تاثرات خواتین کے مخصوص ایام زچگی، بلوغ یا بڑھاپے کے وقت خطرناک امراض پیدا کر سکتے ہیں۔ مرض کی حالت یا نقاہت بعد از مرض بھی ان تاثرات سے سخت اندیشہ ہوتا ہے۔ عموماً دکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی اثر پذیری میں بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں بعض کم۔ یہ فرق طبائع میں اختلاف کی بنا پر ہوتا ہے بعض کی طبیعت ضعیف اور نامتھمل ہوتی ہے، بلکہ بعض تو غم سے بے قراری کی طرف طبعاً مائل ہوتے ہیں اور بعض کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ مگر زمانے کی موجودہ رفتار کو دیکھا جائے اور لوگوں کی ان تکالیف و مصائب اور تفکرات و تاثرات پر نگاہ کی جائے جو انہیں طلب رزق اور حصول معاش میں پیش آتے ہیں تو صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ آج کل کثرت امراض اور صحت عامہ کی خرابی کے باعث یہی امور ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ کثرت امراض کا سبب خارجی تاثرات ہیں۔ یہ خیال کسی حد تک درست سہی لیکن اس میں زیادہ دخل داخلی تاثرات کو ہے کہ جو جسم میں خارجی تاثرات کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتے ہیں، کہنے لگتے ہیں دشمن کا دخل اندرونی باغی کی سازش سے ہوا کرتا ہے۔ خصوصاً اس زمانے میں کہ انسانی ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور لوگ آرام و آسائش کے وسائل بہ کثرت پیدا کر رہے ہیں۔ تمدن میں وسعت پیدا ہو گئی ہے جس کے نتیجہ میں لوگوں کو ان مختلف تفکرات و تجاویز کے لئے عقلی قوتوں سے بہت زیادہ کام لینا پڑتا ہے۔

ایسے لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ ایک تو وہ جو اپنی فکر کو جائز نتائج پیدا کرنے کے کام میں لاتا ہے۔ دوسرا وہ جو اس سے مکرو فریب کی صورت میں ناجائز کام لیتا ہے۔ پہلا گروہ اگرچہ دوسرے گروہ کی بہ نسبت چھوٹا ہے لیکن وہ حقیقی آسائش اور سچی خوشی حاصل کر کے خدا کی خوشنودی اور مخلوق کی ستائش کا مستحق ہوتا ہے اور دوسرا گروہ چند روز اور فانی منفعت کے لئے عام مذمت و ملامت اور قہر خداوندی کا سزاوار بنتا ہے۔ غرض جس شخص کو جسمانی صحت مطلوب ہے اسے چاہئے کہ اول اپنے اخلاق کی اصلاح کرے، عقلی قوتوں کے استعمال میں افراط و تفریط سے کام نہ لے اور المناک وسائل س بچے اور امر محال کی طلب کے درپے نہ ہو۔ جائز اور ممکن الحصول کے لئے کوشش کرے پھر جو کچھ ہاتھ آئے اسے کافی سمجھے اور دوسروں کی کامیابی و کامرانی دیکھ دیکھ کر نہ جلے اور لالچ کا بندہ نہ بنے، کہ جو لالچ کرتا ہے، محروم رہتا ہے۔ محرومی سے غمگینی پیدا ہوتی ہے اور غمگینی انسانی صحت کو بگاڑ دیتی ہے۔

رنج و حزن اور اداسی دور کرنے کا غذائی نسخہ

سفر السعاده میں لکھا ہے کہ جب آنحضرت ﷺ کے گھر میں کسی کا یا حضرت عائشہ صدیقہؓ کا کوئی رشتہ دار مر جاتا تھا تو آپ ﷺ تلمینہ پکوا یا کرتے تھے اور اس کو ٹرید کے ساتھ ڈال کر فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! اس کو کھاؤ کیونکہ اس میں شفا ہے اور حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ تلمینہ دل کی بیماری کے لئے راحت ہے اور بغض و غم کو کھودیتا ہے۔

بعض احادیث میں ہے کہ جب آنحضرت ﷺ سے کوئی شخص یہ کہتا کہ فلاں شخص بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا تو آپ ﷺ فرماتے کہ مریض کو تلمینہ پلاؤ۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تنبیہ پیٹ کو ایسا دھو دیتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے منہ کے میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ تلمینہ ایک رقیق چیز ہے جس کو پیا جاتا ہے اور اس کے بنانے کی ترکیب یہ ہے کہ جو کا بغیر چھنا آنا لیکر اس کو دودھ میں پکاتے ہیں اور اس کے اندر شہد ملا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹھنڈا کر کے پیا جاتا ہے اور بعض اوقات ٹرید میں ملا کر بھی پکایا جاتا ہے۔ ٹرید کا مشہور طریقہ یہ ہے کہ شوربہ میں روٹی ڈال کر پکائی جاتی ہے۔ یہ غذا قوت دماغ و قلب کے لئے بہت مفید ہے۔ یہ معدے اور پیٹ کی آلائشوں کو پاک کر کے

معدے کی جلا کرتا ہے اور رنج و غم کیلئے بہت مفید ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہئے کہ تنبیہ طب نبوی ﷺ میں وہی حیثیت رکھتی ہے جو طب یونانی میں آتش جو۔ جالینوس کا قول ہے کہ جو کے برابر کوئی غذا پیدا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ غذا بیمار اور تندرست دونوں کے کام آتی ہے۔ اسی لئے مریضوں کو آتش جو پلایا جاتا ہے۔ آتش گندم نہیں دیتے، کیونکہ آتش جو پیاس کو مارتا ہے۔ خون کے جوش کو کم کرتا ہے اور صفر کو دور کرتا ہے معدے کی جلا کرتا ہے اور اس کے ستوشکر کے ساتھ ملا کر بہترین غذا ہے اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو بہترین چیز ہونے کی یہی ایک دلیل کافی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور پیغمبروں کی یہ غذا ہی ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کیلئے یہ بہترین غذا ہے۔ جالینوس اور بقراط چاہے کچھ ہی کہیں :-

جسمانی امراض کا جادو اثر غذائی علاج

لہسن کا ذکر قرآن حکیم میں اس طرح سے ہے۔

وإذا قلتُم يموسىٰ لن نصبر علىٰ طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها
قال اتستبدلون الذىٰ هو ادنىٰ بالذىٰ هو خير - (البقرة: ۶۱)

بنی اسرائیل اللہ میاں کی لاڈلی امت تھی ان کو من و سلویٰ کی صورت میں آسمان سے بھنے ہوئے پرندے اور سبزیوں کا مرکب تیار آتا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اپنے رب سے کہو کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے سے تنگ آ گئے ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں دی جائیں جو زمین سے نکلتی ہیں جیسے کہ ساگ کھیرا، ککڑی، گندم؟ مسور کی دال اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا کہ وہ اچھی خوراک چھوڑ کر گھٹیا کے طلبگار نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے بھی اس گھٹیا انتخاب کو ناپسند کرتے ہوئے ان کو ہدایت کی کہ وہ مصر چلے جائیں جہاں ان کو مطلوبہ چیزیں میسر آجائیں گی۔ مگر اس کے ساتھ ان پر عتاب الہی اور ذلت مقدور کر دی گئی۔

بیشتر احادیث میں لہسن کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا گیا ہے اور آنحضرت ﷺ نے اسکی بو کو ناپسند فرمایا ہے۔ تاہم بعض احادیث ایسی بھی ہیں جن میں لہسن کو بعض بیماریوں سے شفا

کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ حضرت علیؑ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا

كلو الثوم وتتداووبه فان فيه شفاء من سبعين داء۔ (الدیلمی)
(لہسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفاء ہے۔
حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا۔

لولا ان الملك ينزل على لاكلته يعنى الثوم (الخطیب)
اگر میرے پاس فرشتے نہ آتے ہوتے تو میں اسے یعنی (لہسن کو کھا لیتا)۔
لہسن اسے عربی میں ٹوم کہتے ہیں اور، فارسی میں سیر، انگریزی میں اس کا نام گارلگ اور لاطینی میں ایلیم ٹی ہے۔

اس کے مزاج۔۔۔ گرم و خشک تیسرے درجے میں، مقدار خوراک۔۔۔ بقدر
ضرورت و وقت مریض

اسکے خواص میں اطباء نے لکھا ہے کہ غذا کو ہضم کرتا ہے۔ جراثیم کش ہے۔ خون کو
صاف اور رقیق کرتا ہے۔ گھٹیا۔ فالج۔ لقوہ اور ریشہ کو دور کرتا ہے۔ خون کے بڑھتے ہوئے
دباؤ اور کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔

دنیا کے بیشتر ممالک کے لوگ لہسن سے واقف ہیں۔ یہ دوا سے زیادہ غذا کے طور
پر استعمال ہوتا ہے۔ چند سرکاری اور غیر سرکاری قرابا دینوں میں بھی اس کا ذکر ہے۔
پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً ہر جگہ اس کی کاشت ہوتی ہے۔

لہسن بنیادی طور پر دو قسم کا ہوتا ہے۔ قسم اول جس کو عام لہسن بھی کہتے ہیں کئی
پوتھیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ قسم دوم ایک پوتھی لہسن کہلاتا ہے۔ یہ قسم پہلی قسم سے بہتر مگر گراں
ہے۔ ان دو اقسام کے علاوہ لہسن کی بہت سی اقسام مختلف جائے پیدائش اور ماہیت کی وجہ

سے مختلف ناموں سے پکاری جاتی ہیں۔ مثلاً جنگلی، چھوٹا، پہاڑی، سدا بہار لہسن وغیرہ وغیرہ۔ اس مقابلے میں عام لہسن کے خواص تحریر کئے گئے ہیں۔

لہسن کا ذکر قدیم طبی کتب میں موجود ہے۔ دو ہزار قبل مسیح کی ایک چینی کتاب سے لہسن کے استعمال کا پتہ چلتا ہے۔ پندرہ سو قبل مسیح کی مصری کتاب میں آٹھ سو سنوں میں سے بائیس میں لہسن کا جز کے طور پر استعمال کرنا بیان کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق فراعنہ مصر اہرام مصر تعمیر کرنے والے دس لاکھ مزدوروں کو اضافی مقدار میں لہسن کھلاتے تھے اور اس پر ہر سال ایک ہزار ٹیلنٹ سلور زرکشیر صرف کرتے تھے تاکہ مزدور جسمانی طور پر قوی رہیں۔ قدیم چینی باشندے لہسن کی چائے کو بخار اور بخشش کی شکایت میں استعمال کرتے تھے۔ انجیل مقدس میں بھی لہسن کا ذکر پیاز کے ہمراہ آیا ہے۔ یونانی اور مسلمان اطباء بڑی باقاعدگی سے اپنے مریضوں کو لہسن استعمال کرواتے تھے۔ انہوں نے ان کے خواص پر کئی رسالے بھی لکھے۔ دور جدید کے اطباء حکیم علوی خان کی معجون سیر سے بخوبی واقف ہیں۔

جالینوس لہسن کو بہترین تریاق مانتا تھا۔ لہسن کو پکا کر کھانے سے جسمانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر خشکی اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ کچا لہسن پکائے ہوئے لہسن سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ابن رشد نے لہسن کو مردانہ طاقت کے لئے بہترین دوا قرار دیا ہے۔ اس کا خارجی استعمال زخم ڈالتا ہے۔ مگر کھانے سے ایسا نہیں ہوتا۔ کیونکہ لہسن کی ترکیب میں جو جو ہر گرم اور جو ہر خاکی موجود ہیں۔ پکنے کے بعد جدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں مضبوطی کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ اطباء قدیم لہسن کو بلغم کے اخراج کے لئے بھی استعمال کرواتے تھے۔

بل منک نے مشہور تحقیقی جزیڈے لیسٹ میں اپنی تحقیق پر مبنی رپورٹ پیش کرتے

ہوئے یہ ثابت کیا کہ لہسن کا بیرونی استعمال جلد کی حساسیت کو بڑھانا اور جلن پیدا کرتا ہے۔ جلد کے مساموں کو کھولنا اور شریانوں کے عمل میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور جلد کو سرخ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی قدیم اطباء کی طرح جدید تحقیق کے محقق بھی لہسن کے بیرونی استعمال کو نفع بخش نہیں سمجھتے۔

خوردنی طور پر لہسن نقصان نہیں دیتا۔ جدید تحقیق کے محقق یہ جانتے ہیں کہ لہسن قدرتی صورت میں کوئی بو نہیں رکھتا جب تک اسے کاٹا یا کچلا نہ جائے۔ اس عمل سے لہسن میں موجود اے، لی، این دوسرے مرکب اے لی نیز سے باہم ملتا ہے جو تند و تیز بو کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ ان مرکبات کے باہم ملاپ سے کوئی نیا کیمیائی مرکب نہیں بنتا۔ لہذا کیمیائی عمل کا وقوع پذیر ہونا ممکن نہیں اور یہ کہنا مناسب ہے کہ مرکبات کا طبعی ملاپ ہوا۔ جدید تحقیق کے محقق اس سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ طبعی ملاپ بہت کمزور نوعیت کا ہوتا ہے، جیسا ہائیڈروجن ملاپ، کشش ملاپ وغیرہ وغیرہ۔ حرارت پہنچانے پر یہ ملاپ ختم ہو جاتا ہے اور مرکبات اپنی اصلی حالت میں لوٹ آتے ہیں اور اس طرح لہسن کی بو میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ قول کہ لہسن کے اجزاء کا باہم ملاپ کمزور نوعیت کا ہوتا ہے۔ دراصل لہسن میں موجود کیمیائی مرکبات کے طبعی ملاپ کی نشاندہی کرتا ہے۔

لہسن پر ۱۹۸۳ء میں جو تحقیق ہوئی ہے اس کے نتیجے میں ایک نیا کیمیائی مرکب ایجوآن دریافت ہوا۔ یہ لفظ ہسپانوی زبان کا ہے۔ اسپین میں لہسن کو ایجو کہتے ہیں۔ یہ کیمیائی مرکب خون میں شامل ہونے کے بعد خون کے ذرات کے ملاپ کے مراکز کی راہ روک دیتا ہے۔ جس پر لکھیاتی رطوبت سے قتل کو لیسٹرول جمع ہو کر خون کو گاڑھا کرتا ہے۔ یعنی اطباء نے قدیم کا لہسن کو خون رقیق کرنے کیلئے استعمال کرنا درست ثابت ہوا۔

اطباء نے قدیم جراثیم امراض سے واقف نہ تھے لیکن لہسن کا مصفی خون استعمال

جہاں خون رقیق کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ وہاں جراثیمی نقص کے خلاف عمل کو ظاہر کرتے ہیں۔ بیلی سب سے پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے ۱۹۴۲ء میں لہسن سے اے لہ سین علیحدہ کیا۔ کیا الٹو اور اسمال نے مل کر اس مرکب کو غیر قدرتی طریقہ پر تیار کیا اے لی سین کے باے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کیمیائی مرکب زبردست جراثیم کش خواص کا حامل ہے اور موجودہ دور کی مشہور دوائیں سلین سے زیادہ بہتر جراثیم کش ہے، ممبرگ انسٹی ٹیوٹ کے مشہور پروفیسر ایوالڈ نے اس مرکب کا ۱۱۰۰۰ حصہ استعمال کیا اور جراثیم ناقص کے خلاف زبردست رد عمل دیکھا خاص طور پر وہ جراثیم جو انتڑیوں کے فعل کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ یعنی اطباء قدیم کا تجویز میں لہسن کا استعمال درست تھا۔

اطباء قدیم لہسن کو مردانہ طاقت کے لئے مفید مانتے تھے۔ جدید تحقیق کے محقق بھی کچھ اسی طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں میونخ انسٹی ٹیوٹ کے مشہور سائنسدان ڈاکٹر ہنری نے اپنے تحقیقی مقالے میں لہسن کو دل اور دماغ کی طاقت کی بہترین دوا قرار دیا۔ اس کے علاوہ ہنری لکھتا ہے کہ یہ جسمانی طاقت میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔

خون کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کے لئے جہاں کیمیائی مرکبات تجربے میں لئے گئے وہاں بھارتی سائنسدان شرن وسان نے لہسن کو خون کے بڑھے ہوئے دباؤ میں مفید پایا۔ قدیم طبی کتب میں لہسن کا یہ فائدہ درج نہیں۔ دور جدید کے اطباء کو لہسن کی اس خاصیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہئے۔ اور اپنے مشاہدے اور تجربے کو منظر عام پر لانا بھی ضروری ہے کیونکہ بھارتی سائنسدان نے صرف پانچ مریضوں پر تحقیق کر کے نتائج اخذ کئے۔ جو میرے خیال میں اتنے اطمینان بخش نہیں۔

برطانوی سائنسدان کر اس مین نے یہ ثابت کیا کہ لہسن کا استعمال جسم کی بڑھی ہوئی حرارت کو اعتدال پر لاتا ہے وہ لکھتا ہے۔ ”میری دو سالہ تحقیق میں کسی دن بھی ایسا نہیں

ہوا کہ لہسن کے استعمال کے ۴۸ گھنٹے کے اندر جسم کے بڑھی ہوئی حرارت میں کمی واقع نہ ہوئی ہو خاص طور پر نمونیا کے بخار میں لہسن کو بہت مفید پایا۔ خاص طور پر نبض کی بڑھی ہوئی رفتار بھی اعتدال پر آگئی۔

لہسن میں موجود اے لایل سلفائڈز پر تحقیق کرتے ہوئے من جن نے اس کو دق کی بہترین دوا قرار دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ میں نے بیشتر ٹی بی کے مریضوں پر اسے آزمایا اور اچھے نتائج پائے۔ مسیح الملک حکیم جمیل خان نے دق کے علاج میں لہسن سے زیادہ اس کی کونپلوں کو ترجیح دی۔ موجودہ دور میں لہسن کا دق میں استعمال نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ دق کی بہترین ادویات تحقیق کے بعد منظر عام پر آچکی ہیں۔ مگر اس سے انکار نہیں کہ لہسن کی کونپلوں میں یا تو اے لایل سلفائڈز زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے یا کوئی نیا مرکب ہے جو دق میں مفید ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جدید تحقیق کے محقق لہسن کی کونپلوں سے ٹی بی کی بہتر اور مضر ت رساں اجزا سے پاک دوا دریافت کر سکیں۔

لہسن کا حفظ ماقدم کے طور پر استعمال بھی تحقیقی مراحل سے گزر چکا ہے۔ جرمنی کے ایک مشہور دوا ساز ادارے نے لہسن کا تیل نکال کر کپسول کی صورت میں پیش کیا اور جراثیم ناقص کے خلاف حفظ ماقدم کے طور پر مارکیٹ میں پھیلایا۔ میں یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جرمن کمپنی نے لہسن میں موجودہ کیسائی مرکبات کی افادیت کو مسلم رکھتے ہوئے تیل تیار کیا۔

قدیم اطباء کی طرح جدید تحقیق کے محقق بھی لہسن کو جوڑوں کے در، فالج، لقوہ، رعشہ اور بلغمی وغیرہ امراض میں استعمال کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہب کی تحقیق اس سلسلے میں دلچسپی کی حامل ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ امراض سینہ اور دمہ میں لہسن کا استعمال بہت مفید ہے۔ البتہ لہسن کی کاسرریاح خاصیت اس میں موجود فراری روغن کی مقدار پر منحصر ہے۔

لہسن کے مسکن اثرات اور دانت کے درد میں استعمال کا ذکر چند معتبر قدیم طبی کتب میں ملتا ہے مسیح الملک حکیم حافظ محمد اجمل خاں نے علامہ اقبال کے دانت کے درد کا علاج لہسن سے کیا۔ طریقہ یہ تھا۔ لہسن کی ایک پوتھی کے بیرونی اور اندرونی چھلکے اتارنے کے بعد انہیں توے پر ایک طرف گرم کیا اور پوتھی کی گرم سطح کو ماؤف دانت پر دو تین منٹ کیلئے رکھنے کی ہدایت کی۔ کچھ دیر بعد درد میں کمی اور پھر مکمل افادہ ہوا۔ کیونکہ یہ فیزی علاج تھا لہذا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

لہسن کا انسانی جسم پر اثر

خارجی طور پر لہسن کا استعمال حساسی اعصاب پر اثر انداز ہونے کے بعد ان کو عارضی طور پر مفلوج کرتا ہے۔ جس سے جلن کا احساس ہوتا ہے۔ شریانوں کو پھیلاتا ہے اور جلد کو سرخ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ یا دیر تک لہسن کا خارجی استعمال جلد پر زخم بھی ڈالتا ہے۔

خوردنی طور پر لہسن میں موجود فراری روغن معدے اور انتڑیوں کے فعل کو بہتر بناتا ہے۔ اور رتخ کو خارج کرتا ہے۔ اس میں موجود روغن کثیف اور دوسرے اجزاء انتڑیوں سے جذب ہونے کے بعد خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور لحمیاتی رطوبت کے ملاپ کو تیز کرتے ہیں پھپھڑوں پر اثر انداز ہو کر ان کی رطوبتوں کو پتلا کر کے جسم سے خارج کرتا ہے لہسن کا جسم سے نکاس کچھ پھپھڑوں کے ذریعے اور کچھ پیشاب کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے لہسن کا زیادہ استعمال پیشاب میں لہسن کی بوجھ پیدا کرتا ہے۔ جو لہسن جذب نہیں ہوتا وہ اجابت کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔

احتیاط و نقصانات

- ۱۔ لہسن کے بیرونی استعمال جلدی امراض پیدا کر سکتا ہے۔ خوردنی طور پر خام لہسن کا زیادہ استعمال السر کا سبب بن سکتا ہے۔
- ۲۔ لہسن کو پکانے یا ایک خاص درجہ حرارت سے زیادہ گرم کرنے سے اس کی افادیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اس میں موجود اے لی این ضائع ہو جاتا ہے۔ جو جراثیم کش خواص کا حامل ہے۔

لہسن کی بو پر نہ جائیں

لہسن کی نا خوشگوار بو سے تو ہر کوئی واقف ہے لیکن یہی لہسن اپنے اندر کون کون سی خصوصیات رکھتا ہے؟ اور انسان کے لئے اس میں قدرت نے کس قدر فوائد جمع کر رکھے ہیں اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں لہسن پر کی جانے والی حالیہ تحقیق نے اس کی افادیت میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ اضافہ کر دیا ہے۔

تحقیق کاروں کے مطابق لہسن میں جراثیم کش (Anti Bacterial) اجزاء کی کثیر مقدار موجود ہے اور اس کا استعمال مختلف امراض یا انفیکشن میں انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ امراض قلب، کم فشار خون (Lower Blood Pressure) شریالوں میں خون کا انجماد، معدے اور بڑی آنت (Colon) کے کینسر تک کے خلاف لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن میں ہمارے تصور سے بھی زیادہ جراثیم کش اجزاء پائے گئے ہیں جو تپ دق، سل، ہیضہ، مروڑ، دماغ کی سوزش وغیرہ کے 72 فیصد انفیکشن میں انتہائی موثر ثابت ہوئے ہیں۔ لہسن میں کرم کش (Antiseptic) اور جراثیم کش (Antibiotic) اجزاء کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے جو امراض قلب، گیس، اور کینسر کی روک تھام

کرتا ہے۔ اسکی ناخوشگوار بوکی وجہ سلفر ہے جس کی کثیر مقدار اس میں موجود ہوتی ہے۔
 محققین کے مطابق روزانہ صبح کے وقت لہسن کے 3 جوئے کھانے سے
 کولیسٹرول کی سطح میں حیرت انگیز حد تک کمی آتی ہے۔ بھارت کے شہر ممبئی میں دو ماہ تک 50
 افراد کو روزانہ صبح لہسن کے 3 جوئے کھلائے گئے دو ماہ بعد ان کا کولیسٹرول 10 سے 15
 فیصد تک کم ہو گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لہسن میں 16 ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا کام
 ہی جسم میں کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے کہ لہسن کا پانی انسانی جسم میں موجود خون کے تھکے
 بننے کے عمل کو روکتا ہے اور دوران خون ان پر جمی ہوئی پلیک کی صفائی کرتا ہے جس کے
 باعث مستقبل میں انتڑیوں کے خراب (Damag) ہونے کے
 امکانات انتہائی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ خون کی شریانوں کو پھیلا دیتا
 ہے۔ جس سے خون کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔

لہسن کی ایک بڑی خوبی اس میں مائع تکسید (Anti-oxidants) اجزاء کا
 ہونا ہے جو اس میں کثیر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اس لئے سانس اور پھیپھڑوں کے
 امراض میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اس میں ایڈینوسائن (ایڈینین رائبوز اور تین فاسفیٹ
 گروپوں پر مشتمل مرکب) بھی موجود ہوتا ہے۔ اور اس کا کام پٹھوں کو سکڑنے سے بچانا
 ہے۔

ماہرین کے مطابق کچا اور پکا ہوا لہسن کھانا دونوں حالتوں میں مفید ہے تاہم کچا لہسن زیادہ
 موثر رہتا ہے۔ معدے اور بڑی آنت کے امراض میں بھی لہسن کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔
 جرمنی کے محققین کے مطابق لہسن میں ایک اجزائی کپاؤنڈ (Ajoene)
 (Compound) بھی پایا جاتا ہے جو نٹروسامین (Nitrosamines) اور
 افلاٹوکسنز (Aflatoxins) نامی مرکبات کی طرح کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ بھارت

کی جی بی پنت یونیورسٹی آف ایگریکلچرل اینڈ ٹیکنالوجی میں ہونے والی تحقیق کے مطابق لہسن بعض زہریلے اثرات کا توڑ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ نظام ہاضمہ کے لئے بھی بہترین چیز ہے۔ یہ جسم کے مضر صحت زہریلے مادوں کے اخراج میں مدد دیتا ہے۔ بد ہضمی کی شکایت کی صورت میں ایک کپ پانی یا ابلے ہوئے دودھ میں 3 جوئے لہسن پیس کر پینے سے بد ہضمی جاتی رہتی ہے۔ لہسن میں چونکہ (Antiseptic) اجزا پائے جاتے ہیں اسلئے یہ معدہ، انتڑیوں اور بعض دیگر امراض کے انفیکشن میں موثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اسے کھانے سے انسانی صحت پر کسی قسم کے مضر اثرات مرتب نہیں ہوتے۔

ٹھنڈے یا شدید کپکپی کی صورت میں بھی اس کا استعمال مفید رہتا ہے۔ سانس کی تکلیف کے دوران لہسن ایک چائے کا چمچ موٹا موٹا کوٹ لیں اور اسے ایک کپ پانی میں ڈال کر ابلنے کے لئے رکھ دیں۔ برتن کا منہ کھلا رکھیں۔ جب پانی ابلنے کے قریب ہو تو آٹھ دینا بند کر دیں اور برتن کو ڈھانپ دیں۔ پانچ منٹ بعد نیم گرم استعمال کریں۔ یہ پانی سانس کی تکلیف کے علاوہ کھانسی، معدے کی بلغم، بد ہضمی وغیرہ میں بھی مفید رہتا ہے۔ لہسن کا پانی ہاتھ، پاؤں چہرے پر مل کر سونے سے چھڑ اور کھٹل وغیرہ قریب نہیں آتے۔ الغرض قدرت نے اس میں یقیناً اور بھی فوائد رکھے ہوں گے جن تک انسان کی ابھی تحقیق ممکن نہیں ہوئی لہذا اس کی بھر پور جائیں بلکہ یہ دیکھیں کہ اسے کھانے سے آپ کی صحت کو کتنا فائدہ ہو گا۔

بھوک لگانے اور نظام ہضم کو درست رکھنے کا غذائی علاج

ابونعیم نے ابوسعید سے روایت کیا ہے کہ بادشاہ روم نے آنحضرت ﷺ کی خدمت میں سونٹھ کا مربہ ایک برتن میں تحفہ بھیجا۔ آپ ﷺ نے تھوڑا تھوڑا اس میں سے سب کو کھلایا۔ سونٹھ، ادراک (زنجبیل) کی تعریف قرآن حکیم میں اس طرح آئی ہے

وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَمَا سَأَكَّانَ مِزْاجُهُا زَنْجَبِيْلًا هِجْتِ مِثْلِ اَنْبِثِ اِيَسِ اِلَے پيالے بھرے ہوئے پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔

جنت میں جگہ پانے والوں کو جو اچھی چیزیں ملیں گی ان کے تذکرہ میں قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ ان کو مشروبات ایسے برتنوں میں دیئے جائیں گے جن کی ساخت میں خوشبو ہوگی۔ حوض کوثر پر ملنے والے برتنوں میں کستوری کی مہک بتائی گئی ہے جبکہ جنت کی نہروں کا پانی ادراک کی خوشبو کے ساتھ میسر ہوگا۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بدن کی قوت و صحت کے لئے معونات کا استعمال شریعت میں منع نہیں ہے۔ سونٹھ کا مربہ بھوک لگاتا ہے کھانا ہضم کرتا ہے۔ قے کو روکتا ہے۔ سستی کو ختم کرتا ہے۔ ریاح کو تحلیل کرتا ہے حافظہ زیادہ کرتا ہے اور غلیظ مادہ نکال دیتا ہے۔ زنجبیل کو دو طرح استعمال کیا جاتا ہے تازہ یا خشک خشک کو سونٹھ اور تازہ کو ادراک کہتے ہیں لہذا یہاں دونوں ہی مراد ہیں اب چند فوائد ادراک کے بھی ملاحظہ ہوں۔

قدرت نے ادرک کو بیش بہا صحت بخش خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ اچھارہ، بدبھضمی، بادی ریاح، درد شقیقہ، السر اور یہاں تک کہ امراض قلب میں بھی انتہائی مفید اور موثر ثابت ہوتی ہے۔ ادرک کے بطور دوا استعمال ہونے کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ نہ صرف برصغیر بلکہ اس کا استعمال صدیوں سے کیا جاتا رہا ہے۔ خاص طور پر اچھارہ، بدبھضمی، بخیر وغیرہ میں ادرک کا استعمال کسی بھی مصالحوہ جات یا جڑی بوٹیوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ معدے کے نظام کی خرابی اور انتڑیوں کی سختی وغیرہ میں بھی ادرک سے علاج کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے۔

معروف قدیم یونانی طبیب جالینوس (GALEN) ابن سینا اور پوموس (POMOSE) کہتے ہیں کہ وہ فالج اور گھٹیا (جوڑوں کا درد) کے مریضوں کا علاج ادرک سے کرتے تھے۔

ادرک پر کی جانے والی حالیہ تحقیق نے بھی اسے معدے کی خرابی، بخیر، جی کا متلانا اور انتڑیوں کی سختی میں انتہائی مفید قرار دیا ہے۔ یہاں تک کہ یرقان میں بھی اس کا استعمال فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کا طریق کار یہ ہے کہ آدھا چائے کا چمچ ادرک کارس نکال لیں پھر اس میں اتنی ہی مقدار میں لیموں اور پودینہ کارس ملا دیں اس کے بعد کھانے کا ایک چمچ شہد بھی ملا دیں اور دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔ اس نسخہ سے نہ صرف بدبھضمی، اچھارہ، جی کا متلانا، بد مزاجی اور چڑچڑاپن، ختم ہوگا بلکہ صبح اٹھتے ہی جھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ بوا سیر اور یرقان میں بھی فائدہ پہنچے گا۔

دوران حمل، جی کثرت سے متلانا ہو یا کسی کو آدھے سر کا درد رہتا ہو، انتڑیاں کھنچی ہوئی محسوس ہوتی ہوں، جوڑوں میں درد رہتا ہو یا جوڑ متورم اور سوجے ہوئے ہوں ان حالات میں بھی ادرک اور شہد کارس ہم وزن ملا کر ایک کھانے کا چمچ دن میں تین مرتبہ استعمال کرنے سے فائدہ پہنچے گا۔

کھانسی، نزلہ، زکام یا ٹھنڈ لگنے کی صورت میں ادرک انتہائی موثر ثابت ہوتی

ہے۔ اس کے لئے ایک کپ پانی میں تازہ ادراک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال کر ابال لیں پھر اس میں چائے کا چمچ شہد ملا دیں اور گرم گرم پیئیں، فائدہ ہوگا۔ آپ ادراک کی چائے بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پتی ڈالنے سے قبل ادراک کے چند ٹکڑے کچل کر پانی میں ڈال لیں۔ ٹھنڈ لگنے یا بد ہضمی کی صورت میں یہ چائے انتہائی فائدہ مند رہے گی۔

پھیپھڑوں میں جانے والی ہوا کی نالیوں میں تنگی، دمہ، کالی کھانسی اور تپ دق میں بھی اس کا استعمال انتہائی موثر ثابت ہوتا ہے۔ اس کیلئے دو کپ پانی میں دو کھانے کے چمچ پسی ہوئی ادراک اٹلنے کے لئے رکھ دیں پھر ہر دو یا ڈھائی گھنٹے بعد گرم استعمال کریں۔ انشاء اللہ سانس کی تکلیف اور اس سے متعلق امراض میں فائدہ ہوگا۔ ادراک کو شریانوں میں خون جمنے یا گاڑھا ہونے سے روکنے والی بہترین (Anti-Thrombotic) قدرتی دوا سمجھا جاتا ہے۔ اطباء قدیم سے لے کر موجودہ زمانے کے ہر بل ڈاکٹر خون کو شریانوں میں گاڑھایا جمنے سے روکنے کیلئے ادراک کا سہارا لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دل کے امراض میں بھی ادراک موثر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال کا طریق کار یہ ہے کہ تیسرا حصہ چائے کا چمچ پسی ہوئی ادراک کو کھانوں کے درمیان دن میں دو بار استعمال کریں۔ اس سے خون کی شریانوں میں روانگی میں بہتری آئے گی۔

ادراک کو درد ختم کرنے والی (Pain Killer) دوا کے طور پر بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس مقصد کیلئے ادراک کو سل پر تھوڑے سے پانی کے ساتھ پییں لیں اور پیسٹ کو سردی کی صورت میں پیشانی پر لگائیں۔ مریض کو فائدہ پہنچے گا۔ یہی پیسٹ مسوڑھوں پر لگانے سے دانت کے درد میں بھی افادہ ہوگا۔ اگر تازہ ادراک دستیاب نہ ہو تو پرانی ادراک کے پاؤڈر سے بھی یہ پیسٹ بنایا جاسکتا ہے۔

جوڑوں، ہڈیوں اور اعصابی درد میں بھی ادراک کو اسی کسیر کا درجہ حاصل ہے۔ جاپان میں خاص طور پر اس قسم کے مریضوں کا علاج ادراک کی مدد ہی سے کیا جاتا ہے۔ جاپان کے معروف ڈاکٹر جی پوموڈا جو ٹوکیو میں پریکٹس کرتے ہیں انہوں نے اس کے لئے خاص

فارمولا بنایا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ ادرک کے تقریباً ڈیڑھ انچ کے مناسب ٹکڑے چھلکے اتار کر ملل کی ایک تھیلی میں ڈال دیں اور اسے اٹنے پر تھیلی کے اندر حرکت کر سکیں پھر سات منٹ تک برتن (ایئر ٹائٹ) سختی سے بند کر دیں تاکہ ذرا بھی بھاپ نہ نکلنے پائے۔ اس کے بعد لکڑی کی ڈوئی سے ملل کی تھیلی یا پوٹلی کو پانی میں دبائیں۔ یہاں تک کہ ادرک سے نکلنے والا رس پانی میں اچھی طرح حل ہو جائے اور تھیلی میں صرف پھوک رہ جائے اور پانی کا رنگ پیلا ہو جائے، پھر نہانے کے ٹب میں اس پانی کو ڈالیں۔ یوں ادرک کے پانی سے اعصاب، پٹھوں اور جوڑوں کے درد میں کمی آئے گی، تھکاوٹ دور ہوگی۔ زیادہ دیر اگر کہیں کھڑے رہنے یا پاؤں میں درم یا درد ہے تو اسے بھی آرام ملے گا اور جلد بھی شفاف اور نرم ہو جائے گی۔

ادرک کارس حیض سے متعلق خرابیوں یا رکاوٹ میں بھی فائدہ دیتا ہے اس ضمن میں تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا لے کر ایک کپ پانی میں ابال لیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کر دن میں ہر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ مفید اثرات ظاہر ہوں گے۔ ادرک میں مانع نکسید اجزاء (Anti-oxidant) بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو مختلف امراض کے خلاف قوت مدافعت میں اضافہ کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سرطان کے خلاف بھی ایک موثر قدرتی دوا خیال کیا جاتا ہے کہ ڈپریشن اور ہیضہ سے بچاؤ کے لئے بھی ادرک کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ سردی سے آواز بہہ جائے تو تھوڑی سی ادرک نمک لگا کر کھانے سے آواز کھل جاتی ہے نزلے میں ادرک کارس تین گرام کالی مرچیں ایک گرام، لہسن چھ گرام، شہد بیس گرام کا آمیزہ بنا کر وقفے وقفے سے کھاتے رہیں۔ نزلہ زکام میں آرام ملے گا۔

مقوی دماغ غذائی ٹانگ

تزیہ الشریعت میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پنیر بھی بیماری ہے اور اخروٹ بھی، لیکن جب یہ دونوں پیٹ میں اتر جاتے ہیں تو شفا ہو جاتی ہے۔

اس حدیث میں اگرچہ بعض علماء نے کلام کیا ہے مگر یہ ارشاد طب کے مطابق ہے۔ اس لئے کہ پنیر دوسرے درجہ میں سرد تر ہے۔ اخروٹ دوسرے درجہ میں گرم و خشک ہے۔ دونوں کو ملا کر کھانے سے دونوں کا اعتدال ہو جاتا ہے اور دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مصلح ہو جاتی ہیں۔

اخروٹ موسم سرما کا بہترین میوہ ہے اور اپنے اندر بے شمار خصوصیات رکھتا ہے۔ اخروٹ کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اس کے مزاج کے متعلق کچھ تحریر کر دوں تاکہ ہر شخص اخروٹ کے استعمال سے پوری طرح مستفیض ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ہر شخص کا اپنا علیحدہ مزاج ہے، بالکل اسی طرح ہر غذا، دوا اور ہر زہر اپنا خاص مزاج رکھتا ہے غذاؤں، دواؤں اور زہروں سے پوری طرح مستفید ہونے کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان کا استعمال انسانی مزاج کے مطابق ہو۔

مثال کے طور پر ایک آدمی کو زکام ہے۔ اگر وہ کتو یہ سمجھ کر استعمال کرے کہ اس

میں غذائیت ہے یا یہ کہ اس میں وٹامنز ہیں۔ تو نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ یہی کتو اس کے لئے زہر ثابت ہوگا کیوں کہ سردی تو پہلے ہی سے اس کے جسم میں اعتدال سے زیادہ ہے۔ اس لئے ایک تو اس کے زکام میں اضافہ ہوگا دوسرے اس کے گلے میں خارش شروع ہو جائے گی اور فوراً ہی کھانسی بھی شروع ہو جائے گی اور مرض میں مزید اضافہ ہو جائے گا یہی نعمت اس کے لئے زحمت بن جائے گی اس کا راز افشا اس لئے کیا ہے کہ جو لوگ مزاج کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ ان نعمتوں کو اندھا دھند استعمال کر کے نقصان نہ اٹھائیں۔

اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں۔ وہ فطرت کے عین مطابق پیدا کی ہیں مثال کے طور پر ایک شخص کسی سرد مرض میں مبتلا ہے تو وہ بجائے تازہ اور ترفروٹ استعمال کرنے کے کیوں نہ خشک میوہ استعمال کرے

ایک تو اسکے استعمال سے اس کا مرض ختم ہو جائے گا دوسرے وہ اس سے لطف اندوز بھی ہوگا اخروٹ ایک خشک میوہ ہے جس کو عربی میں جوز اور فارسی میں گردگاں اور چہار مغز کہتے ہیں۔ اخروٹ کا مزاج عضلاتی غدی و خشک گرم ہے جس کی وجہ سے دل کو تحریک و تیزی دیتا ہے اعصاب میں تحلیل کرتا ہے اور غدد میں تسکین پیدا کرتا ہے اس لئے وہ لوگ جو کثرت پیشاب اور نزلہ زکام کے عارضہ میں مبتلا ہوں وہ اخروٹ کے استعمال سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جسم کی ٹھنڈک اور کمزوری اخروٹ کے استعمال سے بہت جلد رفع ہو جاتی ہے۔

اخروٹ زبردست مقوی دماغ ہے۔ مزاج کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے بھی کیوں کہ اس کا مغز بالکل انسان کے دماغ کے مشابہ ہوتا ہے۔ کند ذہن لوگوں کے لئے اخروٹ بہترین ٹانک ہے۔ جسمانی تھکاوٹ اور ہاتھ پاؤں کا ٹھنڈا رہنا یہ علامات بھی اخروٹ کے مسلسل استعمال سے رفع ہو جاتی ہیں۔

اخروٹ گردوں کو تقویت دینے کی وجہ سے ضعف باہ کے لئے خاص طور پر مفید ہے۔ اخروٹ مرد اور عورت دونوں کے خواص ظاہری اور باطنی میں تیزی اور روح اور نفس میں نئی زندگی پیدا کرتا ہے۔ سردیوں میں غذاء کے بعد اس کا استعمال صحت اور قیام جوانی کے لئے بے حد مفید ہے۔

آجکل لوگ اخروٹ کو مقوی مرکبات میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ جس سے بہترین اثرات ظاہر ہوتے ہیں اخروٹ کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ دو عدد اخروٹ صبح بعد از غذا کھا کر دیر سے قبوہ کا استعمال کیا جائے بالکل یہی طریقہ رات کو عمل میں لایا جائے۔

نسخہ اخروٹ یعنی لڈو قیام شباب

مغز اخروٹ ایک سیر، پستہ ایک پاؤ کش مش 1 1/4 سیر۔

ترکیب تیاری: ان تمام چیزوں کو کوٹ کر ان کے لڈو بنا لیں۔ بس دو اتیار ہے۔

مقدار خوراک: ۲ لڈو صبح اور شام روزانہ استعمال کریں۔ جسم کی کمزوری اور اعصاب کی کمزوری میں خاص طور پر فائدہ مند ہے۔ بوڑھوں کے لئے تو یہ اکسیر اعظم ہے۔

پنیر: دودھ میں کھٹائی ڈال کر اس کو پھاڑتے ہیں پھر یہ دودھ کپڑے میں لٹکا دیتے ہیں پانی نکل جانے کے بعد خشک پنیر حاصل ہوتا ہے۔ اس میں لحمیات اور چکنائی سے بھر پور ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ابھی تک پنیر کا زیادہ تر مصرف رس گلے بنانا ہے اکثر لوگوں کو جب لحمیات کی کمی یا کمزوری دور کرنے کے لئے ناشتہ میں پنیر کھانے کو کہا جاتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے حالانکہ پاکستان میں پشاور کا پنیر اپنی عمدگی اور لذت میں مشہور ہے۔

پاکستان میں عام طور پر سفید اور کھار اپنیر بناتے ہیں جبکہ دنیا میں اس وقت پنیر کی

۴۰۰ اقسام مشہور ہیں امریکہ کا ہر شہری سالانہ ۷ پونڈ استعمال کرتا ہے پنیر کی چکنائی چالیس فیصدی اور بقایا لحمیات ہوتے ہیں۔ پانی ۳۰ فیصدی سے زائد نہیں ہوتا جبکہ پاکستان میں کھاری پنیر میں پانی کی چھوٹ اتنی فیصدی ہے۔

(طب نبوی اور جدید سائنس، ڈاکٹر خالد غزنوی)

معدہ کی جلن اور دیگر بیماریوں کا غذائی علاج

حضرت انسؓ ابن مالک سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذؓ نے حضور ﷺ کے سامنے تل اور کھجوریں پیش کیں۔ حضرت نے تناول فرمائیں اور ان کیلئے دعا فرمائی۔

اس میں یہ حکمت ہے کہ کھجور سے سوداوی مادے پیدا ہوتے ہیں اور تل سودا کو ختم کرتا ہے۔ کھجور سدے پیدا کرتی ہے اور تل سے کھل جاتے ہیں اس لئے آنحضرت ﷺ نے دونوں کو ملا کر تناول فرمایا کہ غذا معتدل ہو جائے۔

تکوں کے مزید خواص یہ ہیں کہ حلق کی خشونت دور کر کے آواز صاف کرتا ہے رگوں کو ملائم کرتا ہے ورم کو تحلیل کرتا ہے گردوں پر چربی پیدا کرتا ہے تکوں کو شیرہ مصری کے ساتھ کھانے سے معدہ کی جلن دور ہو جاتی ہے۔

تل جسے فارسی میں کنجد اور عربی میں سسم کہتے ہیں۔ ایشیا بھر میں اس کی کاشت کی جاتی ہے اس کی دو قسمیں سفید اور سیاہ بین الاقوامی منڈیوں میں فروخت ہوتی ہیں۔ عموماً اس کا تیل جسے روغن کنجد اور بیٹھا تیل تل آئل کہتے ہیں اور دھلے ہوئے سفید بیج ہمارے معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں اس کا مزاج گرم اور تر ہے اور گوشت بنانے والے نشاستہ دار اجزاء کے علاوہ تیس ۳۰ فیصد روغنی اجزاء کا نادر مجموعہ ہے اس کے

روغن میں گھی کے برابر غذائیت ہوتی ہے اور قدرت نے اس میں وٹامنز اے، بی، ڈی اور کیرے ٹین کے اجزا بھی سمودیے ہیں۔ ایک چھناک روغن کنجد چار روٹیوں کے برابر غذائیت سے مالا مال ہے۔ جوان تندرست معدہ والے اسے تین گھنٹے اور کمزور معدہ والے چار پانچ گھنٹے میں ہضم کر لیتے ہیں۔ اس کے بیج ایک لذیذ غذا ہونے کے علاوہ مقوی دماغ، بکثرت خون پیدا کرنے والے بے ضرر قبض کشادہ کا کام کرتے ہیں، بدن میں رطوبت پیدا کرتے بوا سیر کی شدت کم کرتے اور بدن کی اعصابی اور تشنجی دردوں کو رفع کر دیتے ہیں۔ پرانے حکیموں نے صدیوں سے اسے ہماری غذا میں شامل فرمایا ہوا ہے تلوں سے بنی ہوئی ریوڑیوں اور بھوگے کو رواج دے کر انہوں نے دکھی پبلک کی بے حد خدمت انجام دی ہے۔ ان کی تحقیق کی بدولت آج لاکھوں افراد پیشاب کی زیادتی کم کرنے اور موسمی سردی سے محفوظ رہنے کے لئے ہمیں ریوڑیاں، مگجک، اور تل والی مختلف مٹھائیاں کھاتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں آج بھی گھی کی جگہ تل کا تیل مختلف پکوانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔

قیمہ، میتھی اور شلغم مولی جیسی سبزیاں بیٹھے تیل میں پکانے سے نہایت لذیذ اور چٹ پٹی ہیں اس کے کھانے سے درد کمر، گردوں کی کمزوری اور اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے بعض افراد میں گردوں کی موٹی چربی پکھل کر کمر بل کھانے لگتی ہے۔ بعض بیماریوں میں گردن، پشت اور کمر کے مہروں کی درمیانی جہیلی تہ والی گدیوں کمزور ہو جاتی ہیں اور سیدھا چلنا و بال جان بن جاتا ہے بعض اوقات اچھا ہاضمہ رکھنے اور اچھی سے اچھی غذا کھانے والے اس امر کے شاک کی ہوتے ہیں کہ ان کا جسم دبلا ہے اور وہ موٹے نہیں ہوتے ان سب صورتوں میں چند ہفتے تل کا تیل چھ ماٹھے سے آدھ چھناک تک روزانہ دودھ میں ملا کر استعمال کرنا بے حد مفید ہے۔

اس کے بیج اور برابر وزن ناگ کیسر پیس کر سوتے وقت ڈیڑھ ماشہ سے نو ماشہ تک دودھ یا عرق بادیان کے ساتھ دو چار ہفتے استعمال کرنے سے بواسیر کا خون آنا بند ہو جاتا ہے اور اگر متواتر چند ماہ اس کے ساتھ صبح گرم مزاج والے اطریفل کشیزی ایک تولہ اور بلغمی طبیعت والے جوارش جالینوس چھ ماشہ دودھ، پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کر لیں تو خدا کے فضل سے ہمیشہ کے لئے بواسیر ختم ہو جائے۔ مغز کنجد اور مغز اخروٹ دودھ تولے بلاور (بھلاوان۔ انقرویا) اوپر کی ٹوپی جدا کیا ہوا ایک تولہ لے کر احتیاط سے کوٹ کر ایک چھٹانک قد سیاہ یعنی گڑ ملا کر گولیاں دیسی پنے کے برابر بنالیں روزانہ ایک ایک گولی صبح و شام استعمال کرنے سے دو چار ہفتوں میں پرانے سے پرانا نزلہ، بالوں کا مفید ہونا دماغی کمزوری جوڑوں کی درد اور بلا ارادہ پیشاب آنے کو روکنے کے لئے مفید ہیں۔ مغز کنجد دو تولے جانفل اور منگی بیج نکالا ہوا ایک ایک تولہ کوٹ کر ملا کر اس کے سولہ عدد لڈو بنالیں عورتوں میں عمر اور جسمانی حالت کے مطابق صبح و شام ایک سے تین لڈو تک نیم گرم دودھ یا چائے کے ساتھ ایام سے تین روز پہلے شروع کر کے حسب ضرورت ایام میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر بدن میں خون کی کمی ہو تو ایام سے فارغ ہونے پر ایک دو ہفتے تک صبح ایک دورتی کشتہ فولاد ہی کی لمبی یا دودھ کے ساتھ کھالیں اور سوتے وقت آدھا لڈو استعمال کریں۔ انشاء اللہ دو تین ماہ میں بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ بعض اوقات بچے کی پیدائش کے وقت حاملہ کو بہت تکلیف اور پیدائش میں دشواری ہوتی ہے ایسی حالت میں معجون فلاسفہ تین ماشہ مادو المسک معتدل ڈیڑھ ماشہ کھلا کر اس کے ساتھ چھٹانک دو چھٹانک دودھ میں تل کا تیل دو سے تین تولے تک ملا کر نیم گرم پلانے سے بفضل خدا بچہ فوراً پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ تازہ حزل (لسپند) کی جب موسم ہو اس کو کوٹ کر پانی نکال کر برابر وزن روغن کنجد ملا کر دھمی آگ پر پانی ختم ہونے اور روغن باقی رہنے پر آگ سے

اتار کر شیشی میں ڈال لیں۔ یہ روغن جوڑوں کی سختی بدنی دردوں اور ورم میں مالش کرنے سے فائدہ ہوتا اور سوتے وقت سر میں مالش کرنے سے خوشگوار نیند آ جاتی ہے۔

جسمانی قوت کیلئے زبردست غذائی علاج

ابولعیم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول ﷺ کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔

علماء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ دودھ قوت باہ پیدا کرتا ہے بدن کی خشکی دور کرتا ہے اور جلد ہضم ہو کر غذا کے قائم مقام ہو جاتا ہے منی پیدا کرتا ہے چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے۔ اور خراب فضلات نکالتا ہے۔ اور دماغ کو قوی کرتا ہے طبیعت میں نرمی اور دماغ میں تیزی پیدا کرتا ہے دودھ کو اگر چہار مغز کے ساتھ استعمال کرے تو جسم کو قوی اور فریبہ کرتا ہے مگر اس طرح زیادہ استعمال سے آنکھوں میں غبار اور ہمیشہ دودھ پینے سے معدے میں لٹخ پیدا ہوتا ہے اور جوڑوں کا درد بڑھاتا ہے۔

دودھ کا قرآن حکیم میں ذکر

1. فیہا انہار من ماء غیر اسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ --

(محمد ﷺ: ۱۰۰)

وہاں پر ایسی نہریں ہوں گی جن میں خوش ذائقہ پانی اور ایسا عمدہ دودھ ہوگا کہ جس کا ذائقہ وقت سے خراب نہ ہوگا)

2. وان لكم فى الانعام لعبرة۔ نسقيكم ماءً بطونه من بين فوئ
ودم لبناً خالصاً سائغاً للشربين
(النحل : ٦٦)

تمہارے لئے چوپایوں میں غور و فکر کا ایک اہم مسئلہ رکھ دیا گیا ہے۔ ہم تم کو ان
کے پیٹوں میں سے اس جگہ پر جو آلات ہضم اور خون کے درمیان ہے دودھ نکالتے ہیں جو
کہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور پینے والوں کے حلق سے بلا کسی کوشش کے اندر چلا جاتا ہے)

3. ان لكم فى الانعام لعبرة۔ نسقيكم ماءً بطونها ولكم فيها
منافع كثيرة و منها تاكلون
(مؤمنون : ٢١)

(تمہارے لئے غور کے لئے چوپایوں میں کچھ باتیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ تم کو ان
کے پیٹوں سے مشروب مہیا کرتا ہے اور ان سے تمہیں بیشمار فائدے ہیں اور تم ان کو کھاتے
ہو)

جانوروں سے فوائد حاصل کرنے کے بارے میں ان آیات میں اہم اشارے
ہیں۔ جانور جب تک حیات ہے اس کے گوہر سے کھیتوں کو سبز بنانے کے لیے بہترین
کھاد، ایندھن، گوہر گیس ملتے ہیں۔ اگر انہیں ذبح کر لیں تو خون سے رنگ، جانوروں کی
خوراک، سینگ اور کھر دستیاب ہوتے ہیں، کھال سے جوتے اور دوسرا سامان، بالوں سے
لباس، جسم کے غدودوں اور جگر سے بیماریوں کی مختلف ادویات اندرونی جھلیوں سے
سریش، آنتوں سے زخم سینے کا دھاگہ، کھانے کے لئے گوشت کے بعد ہڈیوں سے
فاسفورس، چارکول، خون کی کمی کا علاج حاصل ہوتے ہیں۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ تم غور
کرو گے تو گوشت کے علاوہ بھی تمہیں بہت کچھ ملے گا۔

دودھ کا احادیث نبوی ﷺ میں ذکر

1. حضرت جابر بن عبد اللہ روایت فرماتے ہیں:

جاء ابو حميد ، رجل من الانصار من النقيع باناء من لبن الی
النبي ﷺ فقال النبي ﷺ الاخمرته ولوان تعرض عليه عودًا۔

(بخاری و مسلم)

(نقیع سے انصار کا ایک شخص ابو حمید، نبی ﷺ کی خدمت میں دودھ کا ایک
برتن لے کر حاضر ہوا۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اسے ڈھانپ کر کیوں نہیں رکھا گیا۔ خواہ
اس پر لکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دیا جاتا)

2. حضرت عبد اللہ بن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ:

ان النبي ﷺ شرب لبنًا فمضمض وقال ان دسم اللبن ردی:
للمحموم وذی الصداع

(بخاری و مسلم)

(نبی ﷺ نے دودھ پیا اور اس کے بعد کلی کی اور فرمایا کہ اس کی چکنائی بخار
کے مریضوں اور سردی کے لئے بیکار ہے)

3. حضرت عبد اللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں:

كان رسول الله ﷺ يحب اللبن (ابوداؤد، ترمذی)
(رسول اللہ ﷺ کو دودھ بہت پسند تھا)

4. حضرت عبد اللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

وما انزل الله من داء الا وله دواء فعليكم بالبان البقر فانها ترم من

(النسائی)

كل الشجر۔

(اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لئے دوا نازل فرمائی ہے۔ پس گائے کا دودھ پیا کرو۔ کیونکہ یہ ہر قسم کے درختوں پر چرتی ہے)

5. حضرت ملیکہ بنت عمرؓ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

البان البقر شفاء وسمنها دواء ولحومها داء۔ (طبرانی)

(گائے کے دودھ میں شفا ہے۔ اس کا مکھن دوا ہے۔ اس کا گوشت بیماری ہے)

6. حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

عليكم بالبان البقر فانها دواء واسمانها فانها شفاء واياكم ولحو

مها فان لحومها داء۔ (ابن السنن ، ابو نعیم ، مستدرک الحاکم)

(تمہارے فائدے کے لئے گائے کا دودھ ہے۔ کیونکہ یہ اور اس کا مکھن مفید

دوائی ہے۔ البتہ اس کے گوشت میں بیماری ہے)

7. حضرت معمرؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

في البان الابل وابوالها دواء لذربكم (ابن حبان)

(اونٹنی کے دودھ اور اس کے پیشاب میں تمہارے پیٹ میں پڑنے والے پانی

کا علاج ہے)

8. نبی ﷺ نے فرمایا:

ان امة من بنى اسرائيل فقدت اخشى ان تكون الفار، وذلك انها

اذا وجدت البان الغنم شربته واذا وجدت البان الابل لم تشربه

(بخاری ، مسلم)

(بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی۔ اندیشہ ہے کہ ان کو چوبانٹا دیا

گیا۔ اور یہ اس لئے ہوا کہ جب ان کو بکری کا دودھ ملتا تھا تو وہ اسے خوشی خوشی پی لیتے تھے۔
مگر جب ان کو اونٹنی کا دودھ دیا جاتا تو اسے نہیں پیتے تھے)

9. وقد اتى رسول الله ﷺ بلبن شيب بالماء۔ فشرب وقال الايمن
فالايمن (بخاری)

(نبی ﷺ کی خدمت میں دودھ پیش کیا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے نوش فرمایا اور پھر حکم دیا کہ دائیں طرف سے تقسیم کرو)
10. حضرت عبداللہ بن عمر روایت فرماتے ہیں:

نهی رسول الله ﷺ عن اكل الجلالة والبانها

(ابن ماجہ، ابو دائود، ترمذی)

(رسول اللہ ﷺ نے گندگی کھانے والے جانور کا گوشت کھانے اور اس کا
دودھ پینے سے منع فرمایا۔)

11. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں:

اتی رسول الله ﷺ ليلة اسرى به بقدر لبن وقدر خمر (بخاری)
(معراج کی رات رسول اللہ ﷺ کو ایک پیالہ دودھ، اور دوسرا پیالہ شراب کا
پیش کیا گیا)

12. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں:

حلبت لرسول الله ﷺ شاة داجن و شيب لبنا بماء من البئر

التي في دار انس فاعطى رسول الله ﷺ القدر - فشرب (بخاری)

(مسلم)

(رسول اللہ ﷺ کے لئے گھری ہوئی بکری کا دودھ دوہا گیا اور اس میں انس کے گھریں واقع کنوئیں کا پانی ملایا گیا آپ ﷺ نے یہ دودھ قبول فرمایا اور پیا)

دودھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ دودھ کو ایک مکمل غذا کہا جاسکتا ہے اور شاید ہی کوئی اس سے بہتر غذا ہو دودھ تمام عمر کے افراد کے لئے یکساں مفید ہے دودھ میں چونے کی مقدار تمام غذاؤں میں سے بڑھ کر ہے جو جسم کی نشوونما کیلئے اہم جز ہے۔

دودھ انسان کی قدیم ترین غذا ہے جو سیال ہے اس میں ٹھوس مادوں کی مقدار تیرہ فیصد ہے جو بہت سے پھلوں اور سبزیوں سے زیادہ ہے پھر دودھ کے تمام اجزاء ناسوائے چکنائی کے پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر بھینس اور گائے کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ خصائص کے لحاظ سے تمام حیوانات کے دودھ یکساں ہوتے ہیں۔ عرب ممالک میں اونٹنی اور بکری کا دودھ بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے جس کی اپنی افادیت ہے۔

جسم انسانی کی صحت کے لئے ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جو متوازن ہوتا کہ جسم میں اس قدر توانائی رہے کہ جسم بجا طور پر بیماریوں کا مقابلہ کر سکے غذا جسم انسانی کی اس کمی کو پورا کرتی ہے جو اس کے نہ ملنے سے ظہور میں آتی ہے۔ غذا جسم میں داخل ہو کر خون بنتی ہے اور جسم کی پرورش کرتی ہے۔ اور تحلیل شدہ اجزاء کا بدل بنتی ہے۔ چونکہ غذا بدن انسانی کی کمی کو پورا کرتی ہے اس لئے غذا بناوٹ اور ترکیب میں جسم سے مشابہہ ہونی چاہئے۔ ہمارا جسم بظاہر ہڈیوں گوشت پوست رگوں اور ریشوں کا مجموعہ ہے ان کی بناوٹ اور نشوونما کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں گوشت کے لئے لحمیات (پروٹین) ہڈیوں کے لئے کیلشیم جسمانی حرارت اور طاقت کو قائم رکھنے کے لئے نشاستہ اور (کاربو ہائیڈریٹ) جسم کو امراض سے بچاؤ کیلئے حیاتین (وٹامنز) اور خون بنانے کیلئے معدنیات

ضروری ہیں۔

دودھ ایک ایسی مکمل غذا ہے جس میں جسم کی ضرورت کے متذکرہ بالا تمام اجزاء موجود ہیں جس سے جسم صحت مند و توانا رہ سکتا ہے۔

پروٹین (لحمیات): تقریباً آدھ کلو دودھ میں صحت مند و توانا جسم کے لئے درکار پروٹین کا ایک چوتھائی ہوتا ہے۔

روغنیات: عام دودھ میں تقریباً چار فیصد چکنائی ہوتی ہے جو اوپر تیرتی اور کریم بن جاتی ہے جو جسم میں حرارت اور توانائی کو قائم رکھتی ہے۔

حیاتین: دودھ میں بہت سی حیاتین ہوتی ہیں خاص کر الف، جو آنکھوں اور دانتوں کے لئے ضروری ہے۔ حیاتین ب کے کئی گروپ بھی موجود ہیں اور حیاتین ج کی تھوڑی مقدار بھی موجود ہوتی ہے۔ حیاتین کی کم کم کو مختلف امراض کا شکار کر دیتی ہے۔

کیلشیم: دودھ میں کیلشیم کی کافی مقدار بھی ہوتی ہے۔ کیلشیم ہڈیوں اور اس سے متعلقہ اعضاء کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔

دودھ ہمیشہ عمدہ اور خالص استعمال کرنا چاہئے اگر ترش ہو یا دودھ دینے والا جانور صحت مند نہ ہو تو مطلوبہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے بلکہ صحت کے لئے مضر ہوگا۔ فطری طریقہ تو یہ ہے کہ دودھ تازہ پی لیا جائے مگر چونکہ اس میں جراثیم ہوتے ہیں اس لئے ابال لینا بہتر ہے اس کا مناسب طریقہ یہ کہ تیز آنچ پر دو تین منٹ جوش دے کر پھر ٹھنڈا کر لیں زیادہ دیر تک ابالنے سے قدرتی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ پنجاب میں عام طور پر رات سونے سے قبل دودھ پینے کا رواج ہے جو غلط ہے بلکہ ہمیشہ صبح ناشتہ میں یا پھر سبہ پہر کو پیا جائے اہل پنجاب کی سندرستی مشہور ہے اس کی وجہ دودھ کا بکثرت استعمال ہے مگر افسوس کہ اب یہ رواج کم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ چائے لے رہی ہے جس سے صحت کا معیار گر رہا ہے۔

ہمارے ہاں عموماً بھینس، گائے، بکری اور بھیڑ کا دودھ استعمال ہوتا ہے۔ بھینس کے دودھ میں اجزاء گائے کے دودھ کے برابر ہیں مگر چکنائی زیادہ ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے پانی کا تناسب کم ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور دیر سے ہضم ہوتا ہے جن کا نظام ہضم صحیح نہ ہو دیر سے ہضم کرتے ہیں۔ کبھی قبض اور ریاح کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اس قسم کے لوگوں کو بھینس کی بجائے گائے یا بکری کا دودھ استعمال کرنا چاہئے اونٹنی کا دودھ مرض استسقاء (پیٹ میں پانی بھرنا) میں فائدہ دیتا ہے چونکہ اونٹنی کے دودھ میں بعض ایسے نمکیات ہوتے ہیں جو پیشاب آور ہوتے ہیں اس طرح جسم سے پیشاب کی زیادتی سے پانی کم ہو جاتا ہے یہ دودھ تلی کے ورم میں بھی مفید ہے بکری کا دودھ مرض مالخولیا جنون، ہسٹریا اور بے خوابی میں فائدہ دیتا ہے۔

دودھ سیال ہوتا ہے اس لئے جلد ہضم ہو کر جسم میں جزو بدن بنتا ہے۔ دودھ میں کیٹیم (چونے) کی مقدار متعلقہ اعضاء کی نشوونما کے لئے ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بعض تیزاب جو غذا کے ہضم ہونے کے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اعتدال پر آ جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تیزابیت اور زخم معدہ کے مریضوں کو دودھ کا استعمال بتایا جاتا ہے دودھ میں ترقیاتی خصوصیات بھی ہیں وہ زہر جو معدہ میں خراش پیدا کرتے ہیں ان کے لئے مفید ہے۔

چھوٹے بچوں کو جن میں لحمیات کی کمی ہو دودھ میں انڈا کچلا کر دینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ دائمی نزلے کے مریض گائے کے نیم گرم دودھ میں شہد ملا کر پیئیں تو فائدہ ہوتا ہے۔

تاریخ اور تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جن علاقوں کے لوگ دودھ یا اس سے بنی ہوئی اشیاء استعمال کرتے ہیں وہ صحت مند تو انازہ بن اور لمبی عمریں پاتے ہیں جیسے شروع مضمنا ۱۰۱ میں حدیث گزری ہے کہ آنحضرت ﷺ کو دودھ بہت عزیز تھا۔ اللہ تعالیٰ کے

فرستادہ پیغمبروں میں سے بیشتر نے دودھ کو غذا کے طور پر پسند فرمایا۔ بلغاریہ اور یورپ کے باشندے دیگر ممالک کی نسبت زیادہ عمریں پاتے ہیں۔ اسی فیصد سے زیادہ آبادی سو سال سے زیادہ عمر پاتی ہے۔ وہاں کے لوگ دودھ دہی کا بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسٹیفن سمٹھ کی عمر سو سال تھی وہ تمباکو اور شراب سے پرہیز کرتے تھے چائے اور قہوہ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ دودھ اور روٹی کا استعمال کرتے تھے۔ جرمن آمر ہٹلر لکھتا ہے کہ میں صبح کے ناشتہ میں دودھ دہی استعمال کرتا ہوں اور رات کو جب لوگ سیر ہو کر کھانا کھاتے ہیں تو میں پھر دودھ کا استعمال کرتا ہوں۔

انگلستان کے معروف قبرستان ویسٹ منسٹرایے میں ایک صاحب تھامس پارکی قبر ہے جو 1443ء میں پیدا ہوئے اور ایک سو باون سال کی عمر پا کر 1635ء میں فوت ہوئے۔ جب ان کی عمر ایک سو تیس سال تھی تو اپنے کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ بلکہ اجرت پر دوسروں کے کام بھی کرتے تھے۔ اسی عمر میں انہوں نے دوسری شادی کی موت سے چند ماہ قبل ان کی درازی عمر کارا نواز جاننے کے لئے بادشاہ وقت کے حضور پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے مہمان نوازی میں مختلف ایشیا پیش کیس جس پر وہ راغب ہو کر تھوڑے عرصے میں انتقال کر گیا۔ معروف سائنسدان ولیم ہاروے نے لکھا ہے کہ انتقال کے بعد اس کا معائنہ کیا گیا تو اعضاء صحیح تھے جس کی وجہ اس کی سادہ غذا روٹی اور دودھ تھا اور تازہ پھل و سبزیاں۔ انسان نے جب کھیتی باڑی کا کام شروع کیا تب معلوم تاریخ سے دودھ اسکی غذا میں شامل ہے۔ نومولود بچے کا سب سے پہلے جس غذا سے واسطہ پڑتا ہے وہ دودھ ہے اور جب تک کچھ اور کھانے کے قابل نہیں ہوتا صرف دودھ پر انحصار کرتا ہے اور مزید اگلی عمر میں جب کسی سبب کوئی غذا لینے کے قابل نہ رہے تو دودھ پر ہی چلتا ہے۔ دودھ کے اہم غذائی اجزاء میں ۲۰ رج ذیل شامل ہیں۔

لحمیات، چکنائی، نشاستہ، پانی، کپلشیم، پوٹاشیم فاسفیٹ، حیاتین الف، تھائی مین،
، راہو فلیون، نیا سین، حیاتین ج۔

دودھ کے مطلوبہ فوائد حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ خالص ہو۔ اب تو
بھینس یا گائے کو آمادہ دودھ کرنے کے لئے ہارمون کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں جس کے
نتیجہ میں آہستہ آہستہ اس ہارمون کے اثرات دودھ میں آجاتے ہیں اور وجہ امراض بن
جاتے ہیں۔

دودھ سے بنی ہوئی اشیاء

دہی: دودھ سے بھی زیادہ مفید ہے پچیس اور ذیابیطس میں اس کے فوائد مسلم ہیں
اس میں عفونت کو روکنے والے جراثیم بکثرت ہوتے ہیں۔ آنتوں میں جا کر مضر جراثیم
ہلاک کرتا ہے۔ ترش دہی مفید نہیں۔

بالائی: گاڑھی بالائی میں پچیس فیصد روغن ملا ہوتا ہے یہ خوش ذائقہ اور جسم کو
توانائی دیتی ہے۔

کھن: کھن میں پچاس فیصد روغن یعنی اجزاء ایک فیصد لحمیات 11 فیصد پانی اور دو
فیصد نمک ہوتے ہیں۔ چکنائی میں سب سے زیادہ زود ہضم ہے اس لئے کمزور بچوں
بوڑھوں کی عمدہ غذا ہے۔ باسی کھن نقصان دیتا ہے اچھے کھن کا رنگ قدرے زردی مائل
ہوتا ہے۔

چھاچھ: چھاچھ میں چکنائی والے دودھ کے تمام اجزاء ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو
چکنائی ہضم نہیں ہوتی دودھ یا کھن استعمال نہیں کرتے چھاچھ ان کے لئے بہترین غذا ہے
جو معدہ کو طاقت دیتی ہے۔

خطرناک بیماریوں کا غذائی علاج

جامع کبیر میں ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے زینت دیا کرو۔ اس لئے کہ سبز چیز اللہ کے نام کی برکت سے شیطان کو دور رکھتی ہے۔

سبز چیز سے لہسن، پیاز، مولیٰ بد بودار چیزیں مراد نہیں ہے۔ کیونکہ حضور اکرم ﷺ ان چیزوں کو ناپسند فرماتے تھے بلکہ سبز چیز سے مراد پودینہ اور ترہ تیزک (ساگ) وغیرہ ہیں کیونکہ پودینہ سے کھانا ہضم ہوتا ہے۔ مفرح ہے ڈکار لاتا ہے، ریاح کا معدہ سے اخراج کرتا ہے معدہ قوی کرتا ہے اور غلیظ خون کو رقیق کرتا ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے قوتِ باہ کو زیادہ کرتا ہے اور تیرہ تیزک سے پیشاب کھل کر آتا ہے اور اگر عورت کھائے تو خوب دودھ پیدا کرتا ہے مثانہ کی پتھری کے لئے مفید ہے اور منی پیدا کرتا ہے اور باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے نہار منہ کھانا بغل گند کے لئے مفید ہے اس کا بیج انڈے کی زردی کے ساتھ کھانا قوتِ باہ کو بڑھاتا ہے اور اسکا لیپ چھپ کے لئے مفید ہے۔

اس کے علاوہ جتنی بھی سبزیاں ہیں سب ہی مراد لی جاسکتی ہیں آج جدید میڈیکل سائنس نے سبزیوں کے فوائد اور شمرات کو ثابت کر دیا ہے خصوصاً جب آپ اپنے آپ کو مونا محسوس کرتے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنی غذا کی طرف

توجہ دینے کی ضرورت ہے عموماً ہوتا ہے کہ خواتین دن بھر الم غلم کھاتی رہتی ہیں جس سے ان کے وزن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی غذا میں تازہ سبزیوں اور پھلوں کو زیادہ جگہ دیں تو اس سے نہ صرف آپ کی صحت بہتر ہوگی بلکہ آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا۔

کیا آپ پھلوں اور سبزیوں کی افادیت سے آگاہ ہیں؟ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ خوراک زندگی کی بنیاد ہے آپ کتنے صحت مند نظر آتے ہیں یا اندر سے کتنی توانا اور تازہ دم محسوس کرتے ہیں اس کا انحصار اس غذا پر ہے جو آپ کے جسم کے اندر جاتی ہے یعنی آپ کی غذائیت کی کھپت۔ اچھی صحت کے لئے فطری غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو انسانی جسم کے لئے ضروری ہیں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ انسانی جسم تازہ غذاؤں سے بہت جلدی و نامنزا اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جبکہ ادویات اور کیمیائی اجزاء سے ایسا کرنے میں خاصا وقت درکار ہوتا ہے ریفائن، پروسس کئے ہوئے اور زیادہ مرغن غذائی اشیاء اپنی غذائیت کھو چکی ہوتی ہیں تاہم ان کی کیلوریز (حرارے) باقی رہتے ہیں۔ ڈائٹنگ کرنے والوں کیلئے تازہ پھل اور سبزیاں بہترین ہیں ان میں کیلوریز کم ہوتی ہیں اور وٹامنز اور معدنیات کی مقدار زیادہ۔ اس طرح کم کیلوریز کے استعمال کو یہ یقینی بنا دیتے ہیں۔

جسم کی بیشتر ضروریات تازہ پھل پورا کرتے ہیں پھلوں سے نہ صرف شکر، وٹامنز اور معدنیات حاصل ہوتی ہیں بلکہ یہ جسم کے اندر الکلی اور ایسڈ کے توازن کو درست رکھتے ہیں اس کے علاوہ ورزش جسم کیلئے ایک ٹانگ کا کام دیتی ہے پھلوں کے جوس خون کی صفائی کرتے ہیں اور اس طرح وہ جسم کے ذہریلے اثرات کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں پھل اور ان کے جوس بار بار پیشاب آنے کی بیماری رفع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ پیشاب کی کثافت کم کر دیتے ہیں اس طرح ٹائٹروجن کے فضلے اور اضافی نمک کے اخراج کی رفتار تیز ہو جاتی

ہے کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ اوسط سائز کے ایک اوسط آدم میں ۱۵۰۰۰ انٹر نیشنل یونٹس قابل اسٹور وٹامن اے موجود ہوتا ہے اتنی مقدار جسم کی ایک ہفتہ کی وٹامن اے کی ضرورت پوری کر سکتی ہے۔ مزید فائدہ یہ کہ زیادہ استعمال کے باعث حاصل ہونے والا اضافی وٹامن اے ذیلی اثرات سے پاک ہوتا ہے۔

اور وہ کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ پیتا، اورنج اور تمام زرد قسم کے پھل، ریئی ول (وٹامن اے) سے بھرپور ہوتے ہیں۔ شریفہ، امرود اور رس دار پھل جیسے اورنجز، بیٹھا، لیموں وغیرہ وٹامن سی اور لیسکو رہک ایسڈ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہو جانے کے باعث جسم انہیں اندر اسٹور نہیں کرتا ہے اس لئے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ روزانہ تھوڑے بہت پھل ضرور کھائیں گے۔

زیادہ سے زیادہ وٹامن جذب کرنے کے لئے ننگے سے قبل پھلوں کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح چبائیں۔ بچوں اور بزرگوں کیلئے پھل کے بجائے ان کا جوس لینا زیادہ فائدہ مند ہے۔ یہ خیال رہے کہ جوس نکالنے کے فوراً بعد ہی اسے پی لیں کیونکہ زیادہ دیر تک ہوا میں رکھنے سے اس کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔

پھلوں کی طرح سبزیاں ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہیں ان کے اندر موجود وٹامنز اور معدنیات کی کثیر مقدار ہماری صحت کیلئے اکثر ثابت ہوتی ہیں۔

کچی سبزیاں اور ان کے جوس ہمارے بدن میں نئے نئے خلیے پیدا کرنے میں مدد دیتے ہیں سبز پتوں والی سبزیاں وٹامن ای، فولک ایسڈ (وٹامن بی کی ایک قسم) اور آئرن کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اب ذرا سبزیوں کو پکانے اور استعمال کرنے کے چند ضروری اصول بھی ملاحظہ کر لیں۔

﴿ سبزیاں کاٹنے کے بعد انہیں مت دھوئیں کٹی ہوئی سبزیوں کو پانی کے اندر مت بھگوئیں کیونکہ وہ پانی میں حل ہونے والے اپنے تمام وٹامنز ضائع کر دیتی ہیں جیسے وٹامن بی اور وٹامن سی۔

﴿ وٹامن کے ضیاع کو مزید کم کرنے کے لئے سبزی کاٹنے یا چھیلنے کے فوراً بعد ہی اسے پکالیں کٹی ہوئی سبزی ہو، اس میں ویر تک رکھنے سے وہ اپنے وٹامنز کھونا شروع کر دیتی ہیں۔

﴿ سبزیوں کو پکاتے وقت تھوڑا سا کچا ہی رکھیں اس طرح نہ صرف ان کا ذائقہ برقرار رہے گا بلکہ وہ وٹامنز اور قدرتی ذائقہ بھی کم سے کم ضائع کریں گے۔

﴿ سبزیوں کو ضرورت سے زیادہ پکانے یا بار بار گرم کرنے سے ان کے وٹامنز اُٹل ہو جاتے ہیں۔

﴿ اگر یہ پوچھا جائے کہ پھل بمقابلہ سبزیاں میں کون زیادہ فائدہ مند ہے۔ پھل ایک مکمل غذا ہے کیونکہ ان کے اندر تمام غذائیت موجود ہے جن کی ہمارے جسم کو ضرورت پڑتی ہے۔ تاہم تجزیہ اور تجربات کے بعد ماہرین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ترکاریوں کو پھلوں پر کہیں زیادہ برتری حاصل ہے پھر بھی دونوں ہی غذائیں انتہائی اہم اور ضروری ہیں پھل اور سبزیاں دونوں ہی ریشہ دار ہیں اور کم کیلوریز مہیا کرنے کے ساتھ پیٹ خوب بھر دیتی ہیں ان دونوں اشیاء کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنالینے کے بعد آپ بہترین صحت کے مالک بن سکتے ہیں۔

پھل اور سبزیوں کے ذریعے وزن میں کمی

1- بریک فاسٹ: خوب دل بھر کر پھل کھائیں یا ہم مختلف اقسام کے پھل کھانے کے بجائے محض ایک ہی قسم کے پھل پر اکتفا کریں۔

2- دوپہر کا کھانا: خوب سبزیاں کھائیں (آلو سے پرہیز کریں) نصف خوراک

سبزی کچی حالت میں سلاد کے طور پر کھائیں۔ اس کے ساتھ ایک پیالہ دہی بھی کھا سکتے ہیں۔

3- شام کی چائے: جڑی بوٹیوں والی ایک کپ چائے اور دو سے چار ماری سکٹ کافی ہوں گے۔

4- رات کا کھانا: میڈیم سائز پیالہ چاول یا تین سے چار چپاتیاں ایک سو پچاس گرام دال، چکن یا مچھلی کے علاوہ ایک کپ سبزی اور سلاد۔

سبزیوں کے استعمال سے بھوک نہ لگنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے

پھلوں اور سبزیوں کے استعمال سے بھوک نہ لگنے کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے مطلب میں آنے والے اکثر مریض یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ انہیں بھوک بہت کم لگتی ہے دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں ایک دو توس۔ پانچ سات چائے کی پیالیاں اور دو پہر رات کے وقت ایک دو چپاتیاں نصیب ہوتی ہیں۔ بعض منچلے تو اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سارے دن میں پندرہ بیس دفعہ چائے پی کر ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بعض دفتری بھائی تو ایک کرسی سے دوسری کرسی پر گھومتے گھومتے کبھی ایک دو سکٹ، کبھی پیٹری، کبھی کریم رول اور کبھی ایک دو دانے لڈو برنی کے کھا کر ہی ڈکار مارتے سارا دن گزار دیتے ہیں جب میں کھانے والے بھائیوں کو صبح دہی مکھن کا ناشتہ تجویز کرتا ہوں تو ۸۰ فیصد حضرات یہ جواب دیتے ہیں کہ دہی مکھن کھا کر ہم پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے نیند آنے لگتی ہے اور روزمرہ کے کاروبار میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ بھائی یہ بتاتے ہیں کہ دہی مکھن کھانے سے ہمیں چھینکیں آنے لگتی اور نزلہ زکام کا حملہ ہو جاتا ہے جب دودھ پینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تو ساٹھ فیصد افراد یہ شکوہ کرتے ہیں کہ دودھ سے ہمارا پیٹ پھول جاتا ہے۔ میں پچیس فیصد حضرات یہ کہتے ہیں کہ انہیں دودھ پیتے ہی دست لگ

جاتے ہیں کچھ یہ رونا بھی روتے ہیں کہ ایک پیالی دودھ پینے سے سارا دن جلع بھنے ڈکار آتے رہتے ہیں ایسے حضرات تو آج کل ایک دو فیصد بھی نظر نہیں آتے جن کا معمول صبح سیر آدھ سیر دہی دودھ کا ناشتہ اور دن میں دو دفعہ پیٹ بھر کر سالن روٹی کھانا ہو۔

میری آنکھیں ایسے نوجوانوں کو دیکھنے کے لئے ترستی رہتی ہیں جو دن کے دو تین بجے کے شلغم، کچی، گاجر، کچا پیاز اور ہرے دھنیے کو چبا چبا کر دانتوں کو چمک دار، مسوز ہوں کو مضبوط، اور معدے کو تندرست اور بدن کو ہلکا پھلکا بنانے کے خواہش مند ہوں۔ جب پھلوں کو کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تو عام طور پر معاشرہ یہی جواب دیتا ہے کہ حکیم صاحب روٹی اور چائے پینے کے لئے پیسے نہیں ملتے مہنگے پھل کون خریدے۔ ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو ہر موسم میں قدرت نے ایسے پھل اور سبزیاں پیدا کرنے میں بڑی فراخ دلی سے کام لیا ہے۔ جو غریب سے غریب آدمی کا بھی پیٹ بھرنے کیلئے ضروری غذائی سامان مثلاً نشاستہ دار گوشت پیدا کرنے والے روغن اور مطلوبہ نمکیات کے علاوہ دنامنز (حیاتین) کی معقول مقدار سستے داموں ہر غریب آدمی کو مل سکتی ہیں طالب علم سکولوں کالجوں میں اور بابلوگ دفتروں میں روزانہ روپیہ دو روپے کے پھلوں کا جوس پی کر صحت بنانے کی خوشی میں پھولے نہیں ساتے۔

حالانکہ طبی نقطہ نگاہ سے پھلوں کا جوس پینے سے کچھ غذائیت کے علاوہ صرف گردے اور مثانے کے زہریلے مادے صاف ہوتے ہیں، سنگترہ، مالٹا، موسمی، کنو، سیب، امرود، ناشپاتی، آلو بخارا، ٹماٹر، گاجر، شلغم، گوبھی، مولی، مونگرے اور پیاز اگر چھلکے اور گودے سمیت بغیر چھیلے استعمال کئے جائیں تو جسم میں مناسب غذائی اجزا حاصل ہونے کے علاوہ ہاضمہ پر بوجھ کم اور قبض ہونے نہیں پاتی، شلغم گاجر اور سیب کو چھیلنے سے ہم ہڈیوں کو مضبوط بنانے والے اجزا سے محروم ہو جاتے ہیں قدرت نے ہمیں قرینہ سائیکس اٹھائیں

فٹ لمبی غذائی نالی جس میں معدہ انتڑیاں اور حلق شامل ہیں۔ غذا کو توڑنے پھوڑنے اپنے ہارمونز (باضم رطوبتیں) ملا کر نرم کرنے، خون، روغنی اجزا، شکر لیے اجزا انمکیات حیاتین جدا جدا کر کے دل، دماغ، اعصاب اور جگر گردوں کو مناسب مقدار مہیا کرنے کے لئے عطا فرماتی ہے۔

معدہ اور ملحقہ آنتیں تو غذا کا جو ہر اور فضلہ جدا کرنے کا کام کرتی رہتی ہیں۔ آخری دو آنتیں یعنی قولون اور مستقیم نامی بچے کچھ غذا کے ناکارہ فضلات کو مناسب پانی ملا کر آسانی کے ساتھ پاخانہ کی شکل میں خارج کرنے والا بناتی ہیں۔ جب فضلات مناسب وقت پر پیشاب پاخانہ، پسینہ اور تھوک کی شکل میں بدن سے خارج ہوتے ہیں تو ہماری آخری آنت سگڑتی اور دوسری آنت کو چھتی، دوسری تیسری کو اسی طرح چھ انتڑیاں چوستے چوستے معدے کو چوسنے لگتی ہیں۔ اطبا اس حرکت کو امتصاص کا نام دیتے ہیں یہ چوسنے کا عمل بھوک لگاتا اور کھانے پر مجبور کرتا ہے اب یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی کہ عمدہ بھوک لگنے کے لئے قبض دور ہونا اور نظام ہضم درست ہونا ضروری ہے۔ میرے تجربہ میں موٹے ان چھنے آٹے کی روٹی، کچی اور آدھ پکی موسمی سبزیاں اور جیب کے مطابق پھل، دودھ، دہی اور لسی استعمال کرنے سے تندرستی اور قابل رشک صحت حاصل ہو سکتی ہے۔

سبزیوں کے استعمال سے قبض کا خاتمہ

صدیوں سے یونانی حکیم قبض کو تمام بیماریوں کی جڑھ قرار دیتے چلے آئے ہیں۔ روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ قبض والے مریض روزمرہ کی دوڑ دھوپ میں عام طور پر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ قبض کے معنی رک جانا، جم جانا اور کسی جگہ دھرنا مار کر بیٹھ جانا ہے، قدرتی نظام کے ماتحت ہم اپنی غذا میں گوشت، وال سبزی، پھل، پانی، چاول، روٹی، حلوہ، ایک بسکٹ مٹھائی، دودھ، دہی، گھی، مکھن اور روغن استعمال کرتے ہیں اس کا بدن سے فضلات کی شکل

میں خارج ہونا ضروری ہے۔ پرانے حکیموں کی تحقیق کے مطابق ہم اگر روزانہ مجموعی طور پر سیر بھر غذا کھاتے ہیں تو رفع حاجت کے وقت اتنی ہی مقدار میں فضلات خارج ہونے صحت اور تندرستی کیلئے لازمی ہیں۔

تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں قریباً ساٹھ فیصدی افراد صبح سویرے ایک ہی دفعہ اپنے غذائی فضلات پاخانے کی شکل میں خارج کرنے کی عادی ہیں۔ یہی حضرات عموماً دن بھر خوشی خوشی کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں بیس فیصد اشخاص صبح و شام دو دفعہ رفع حاجت کیلئے جاتے ہیں چستی چالاکی میں یہ بھائی دوسرے نمبر پر آتے ہیں دس فیصد افراد کو دن میں تین چار دفعہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ بیت الخلاء میں جانا پڑتا ہے دس فیصدی پبلک کے افراد کئی کئی دن قبض کارونا روتے ہیں یہ اصحاب اکثر سر درد بدنی تکان بھوک کی کمی، بدن کی گرانی اور کاروبار میں طبیعت نہ لگنے کی شکایت کیا کرتے ہیں فضلات خارج ہونے کی قدرتی حالت کے متعلق اطباء کی چھان بین نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایک دفعہ دو تین انگشت موٹی رسی کی طرح تمام فضلات خارج ہو جانے عمدہ صحت کی نشانی ہے آج کے تعلیمی دور میں ہم چاند تک پہنچنے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس قبض کے ہاتھوں بچانوںے فیصد افراد نالاں ہیں مطب میں آنے والے مریضوں کا جائزہ ایسے بے معلوم ہوا کہ کوئی صاحب تو صبح اٹھتے ہی رفع حاجت کے لئے جاتے ہیں۔

دوبارہ چائے، دودھ لسی یا حلوہ پوری کا ناشتہ کرنے پر پھر بیت الخلاء جانا پڑتا ہے کچھ بھلا نا ابھی دفتری تیاری میں ہی مصروف ہوتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پھر حاجب ہو جاتی ہے یہ بھائی نو دس بجے تک نہ تو کسی کام کے لئے باہر جاسکتے ہیں اور نہ کسی عزیز دوست کی ملاقات کے لئے وقت نکال سکتے بعض بھائی یہ شکایت کرتے ہیں کہ دن میں جتنی دفعہ بھی منہ میں غذا ڈالیں اس کے بعد مجبوراً پاخانہ کی حاجت ہو جاتی ہے۔ عوام الناس تو عموماً

پاخانے کے وقت صبح طور پر خارج نہ ہونے کو ہی قبض قرار دیتے ہیں اور ساٹھ فیصد بیماریاں اسی بے قاعدگی سے ظاہر ہوتی ہیں مگر حکیموں کے خیال کے مطابق پیشاب پسینہ تھوک اور ناک کی رطوبتوں کا ٹھیک مقدار میں خارج ہوتے رہنا بھی صحت کے لئے ضروری اور لازمی ہے ان میں سے کسی فضلہ کا صحیح طور پر نہ خارج ہونا بھی پریشانی اور رنگ برنگ امراض پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم غذائیں جو کچھ بھی کھاتے ہیں پاخانے کی صورت میں اس کی بدلی ہوئی شکل خارج ہوتی ہیں۔

غذا کو منہ، مری معدہ اور انتڑیوں کے تیس فٹ لمبے میدان میں ادھر ادھر، دائیں بائیں دھکیلنے اور الٹ پلٹ کرنے اور اس میں معدہ جگر، لبلبہ اور پتہ کی ہاضم رطوبتوں (ہارمونز) کے ملنے سے اس کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ باسانی پاخانے کی شکل میں خارج ہو سکے اس کام کے پورا کرنے کے لئے معدہ جگر انتڑیاں زبان حلق مری اور اعصابی نظام کا درست کام کرنا ضروری ہے آج کل ہم زیادہ سوچ بچار کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو گئے ہیں۔

اس طرح ہمارے جسم کی رطوبات کم ہو کر بھی قبض ہو رہی ہے کم خوابی اور مصروف زندگی بسر کرنے سے بھی معدہ اور انتڑیوں کے ہارمونز قدرتی مقدار میں خارج نہ ہونے سے غذا آلات ہضم میں دیر تک رکی رہتی ہے اور قبض کی شکایت ہو جاتی ہے لیسا اور گاڑھی غذا بھی ہاضمہ کی نالی میں جم جاتی ہے اور جلدی نہیں نکلتی اسی وجہ سے پرہیز کراتے ہیں اعصابی کمزوری معدہ، انتڑیوں پتہ اور لبلبہ کے ہارمونز کے کم تراش پانے سے قبض ہو تو اس کا علاج انشاء اللہ کسی دوسری فرصت میں تحریر کیا جائے گا قبض رفع کرنے کے لئے عوام کو موٹے آٹے کی روٹی، بیج پورا (بھوسی) پتے دار سبزیاں اور موکی چالو پھل زیادہ سے زیادہ کھانے چاہیں قبض کے مریضوں کو میں میدہ اور نشاستہ والی غذائیں صبح ناشتہ میں استعمال

کرنے سے منع کرتا ہوں میں صبح چائے دودھ یا تسی کے ساتھ آلو بخارا، سیب، منقہ، انجیر، خوبانی، انگور، گرما، ناشپاتی، امرود، تارجل، (کھوپرا) استعمال کرا کے بغیر دوائی قبض رفع ہوتے دیکھتا ہوں۔ نوجوان اور گرم مزاج والوں کو رات کے وقت دو تین دانے ہلبلہ سیاہ (کالی ہرڑ) چھنا تک بھر پانی میں بھگو کر صبح نرم شدہ ہلبلہ چبا کر کھانے اور اس کا پانی پینے سے چند دن میں قبض کی عادت دور ہوتی دیکھتا ہوں، ٹھنڈے مزاج والوں کو دودھ یا چائے میں ایک سے پانچ عدد تک خرما دو تین جوش دے کر دودھ چائے بمع خرما ناشتہ کرنے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔

ہیومن نیوٹریشن ریسرچ سینٹر کے محقق ماہر نفسیات ڈاکٹر جیمز جی یو لنڈ کے مطابق سبزیوں اور پھلوں میں بورون کی وافر مقدار میں موجود گی دماغ کے خلیات کو چوکس رکھتی ہے اور انکی رفتار تیز ہو جاتی ہے عام طور پر انسان کی ضرورت روزانہ تین ملی گرام ضروری ہے ایک سیب میں ایک ملی گرام ہوتی ہے سیب کے علاوہ بعض سبزیوں میں اس کی کافی مقدار ہوتی ہے۔

جبکہ گوشت کے زیادہ استعمال اور بالخصوص بڑے گوشت کے استعمال سے دماغی طاقت صلاحیت کم اور مست پڑ جاتی ہے اس کی بنیادی وجہ غذا کے اہم جز بورون کی کمی ہوتی ہے جس سے جسم مست پڑ جاتا ہے اور چستی کی جگہ غنودگی کی کیفیت ہر وقت طاری رہتی ہے۔

اوپنچی ایرڈمی کے جوتے: اکثر خواتین اوپنچی ایرڈمی کے جوتے پہننا پسند کرتی ہیں ان کے استعمال سے وزن آگے کی جانب پڑتا ہے جس کے نتیجے میں پنڈلیوں کے پٹھے چھوٹے ہو سکتے ہیں اور ریزھ کی ہڈی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر خواتین ناگلوں کے درد کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔

چکنی روغنی غذاؤں سے مٹانے کا کینسر امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن کے مطابق زیادہ چکنی یا روغنی غذا کھانے والوں کو سرطان میں مبتلا ہونے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ ایسی غذاؤں کے کثرت استعمال سے ان کے جسم میں مردانہ ہارمون، ٹیسٹوسٹیرون کی سطح بلند ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایسی غذاؤں کی کثرت اور غذا میں ریٹے کی کمی سے یہ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔

چند ایک سبزیوں کی تفصیلات:

سبزیاں قدرت کا انمول تحفہ ہیں جنہیں ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال کرنے سے ہمارے بدن کو تمام حیاتین (وٹامنز) میسر آتے ہیں جن سے ہمارے بدن کی تعمیر ہوتی رہتی ہے سبزیاں بدن کو نشوونما میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور ہمیں کئی امراض سے بچاتی ہیں۔ سبزیاں خداوند کریم کی نعمتوں میں سے ایک ہیں جن میں غذا بھی ہے اور شفاء بھی۔ سبزیاں دیکھنے میں دلکش اور کھانے میں غذائیت بخش ہیں۔ قدرت کاملہ نے طرح طرح کی سبزیاں پیدا کی ہیں۔ جن میں قدرتی طور پر حیاتین پائی جاتی ہیں۔ جو کہ بدن انسانی خوراک کے وہ اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ جن کے بغیر صحت کو برقرار نہیں رکھا جاسکتا اور ان کی کمی سے آہستہ آہستہ کاہلی، ہڈی ہنسی، بھوک کی کمی، پریشانی، قبض، تھکاوٹ، عضلاتی اور اعصابی درد وغیرہ اکثر اس کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے ان کا مناسب اور صحیح علاج حیاتین کی کمی کو پورا کرنا ہی ہے۔ قدرت نے سبزیوں میں ایسے ایسے اجزاء پیدا کئے ہیں جو قدرتی طور پر بدن کا تغذیہ ہوتا ہے تاہم ایک ہی قسم کی ترکاری کا استعمال کرنا بھی صحت کے لئے مناسب نہیں صحت کو برقرار رکھنے کے لئے سبزیوں کو بدل بدل کر استعمال کرنا چاہئے تاکہ حیاتین کا توازن برقرار رہے۔ لہذا اب ہم مختلف سبزیوں کے خواص اور افعال الگ الگ بیان کرتے ہیں۔

آلو: آلو کو زیادہ تر تنہا یا گوشت کے ساتھ پکایا کر کھایا جاتا ہے۔ اگرچہ اس میں غذائیت کافی ہے لیکن نقل اور قابض ہوتا ہے۔ تاہم آلو کو بہترین غذایہ میں شمار کیا جاتا ہے کیسادی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ آلو میں کاربوہائیڈریٹ، فولاد، پوٹاشیم، کیلشیم، اور فاسفورس کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میگنیشیم، سوڈیم، گندھک، کلورین۔ آیوڈین اور تانبہ وغیرہ کی خفیف مقدار پائی جاتی ہے حیاتین (وٹامنز) میں اے بی اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ وٹامن بی اتنی ہی مقدار میں ہوتی ہے۔ لیکن نشاستہ بہت ہے۔ اس لئے جسم کے لئے غذائیت بخش ہے بچوں کی بہتر نشوونما کے لئے آلو بہترین چیز ہے۔ چھیلے ہوئے آلوؤں کی بہ نسبت بے چھیلے آلوؤں میں پکاتے وقت وٹامنز کم ضائع ہوتے ہیں۔ اسی لئے چھلکے سمیت پکائے ہوئے آلو قبض کشا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کو ایک دن میں ڈھائی سو گرام آلوؤں سے زیادہ نہیں کھانا چاہئے۔ آلو کھانے کی زیادتی سے پیٹ میں لٹخ (ہوا) ہو جاتی ہے۔ اس کی اصلاح قدرے نمک کے ساتھ استعمال کرنے سے ہو جاتی ہے۔

بھنڈی: بھنڈی مشہور ترکاری ہے۔ بھنڈی کو تنہا یا گوشت کے ہمراہ پکا کر کھایا جاتا ہے۔ دیر ہضم اور پیٹ میں گیس پیدا کرتی ہے۔ گرم طبیعت والوں کے لئے مفید ہے پیش، آنتوں کے زخم، سوزاک اور کھانسی میں اس کا کھانا بہتر ہے۔ بھنڈی میں گرم مصالحے اور اورک ڈال کر پکانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔

کیسادی تجزیہ سے پتہ چلایا گیا ہے کہ بھنڈی میں مواد لحمیہ، شحم، معدنی مواد، مواد نشاستہ، کیلشیم، فاسفورس، فولاد، میگنیشیم، پوٹاشیم، سوڈیم، گندھک، جست، ملنکیرہ، آیوڈین جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ بھنڈی، فولاد اور کیلشیم کا ایک اچھا ذریعہ ہے اس لئے

بھنڈی کو مقوی عام کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے جس سے خون کی افزائش اور انسانی بافتوں کی تعمیر میں کافی مدد ملتی ہے۔

بینگن: مشہور سبزی ہے جن کو بکثرت کھایا جاتا ہے بینگن کو تنہا یا گوشت کے ہمراہ پکا کر کھاتے ہیں۔ لیکن اس کو بری ترکاری سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ قبض، فاسد مواد اور پیٹ میں گیس اور اچھارا پیدا کرتا ہے۔ بوا سیر کے مریضوں کے لئے مضر ہے۔ بینگن کو گوشت یا زیادہ گھی یا سرکہ کے ہمراہ پکانے سے اسکی اصلاح کرتا ہے۔

پالک: مشہور ساگ ہے۔ اس کو تنہا یا گوشت کے ہمراہ پکا کر بکثرت استعمال کیا جاتا ہے اور گرم بخاروں میں اس کا استعمال مفید ہے۔ پالک میں زیادہ گھی یا ردغن بادام یا دار چینی ڈال کر پکانے سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کیمیاوی تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ پالک میں فولاد اور کیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ فولاد خون بڑھاتا ہے۔ اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ کیشیم ہڈیوں کی ساخت کو مضبوط سخت اور پائیدار بناتا ہے۔ اس لئے خون کی کمی میں پالک کی سبزی بہتر غذا اور دوا ہے اور زود ہضم ہے۔ اس لئے مریضوں کو اس کے کھانے میں فائدہ ہوتا ہے۔

ٹماٹر: مشہور سبزی ہے جس کو پکا کر اور نیز بغیر پکائے بکثرت کھایا جاتا ہے۔ بھوک لگاتا ہے، کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ قبض کشا ہے مرض کساح (رکٹس) میں جس میں کم عمر بچوں کے ہاتھ پاؤں میڑھے ہو جاتے ہیں ان کیلئے ٹماٹر کارس بہت فائدہ مند ہے۔ خون کی کمی، یرقان، ورم گردہ، ذیابیطس (شوگر) اور موٹاپا میں صبح نہار منہ ایک بڑا سرخ ٹماٹر استعمال کرنا ہزاروں دواؤں سے بہتر ہے۔ ایسی حالت میں ٹماٹر کا بنا پکائے پھل کی طرح استعمال کرنا چاہئے لیکن پاؤں سے زیادہ کھانا نقصان دہ ہے۔ کیمیاوی تجزیہ سے پتہ چلا ہے کہ ٹماٹر میں

پانی 92.8 فیصد پروٹین 0.9 فیصد چکنائی 1 فیصد چونا 2 فیصد پائے گئے ہیں۔
ٹینڈے: مشہور ترکاری جو تنہا یا گوشت کے ہمراہ پکا کر بکثرت استعمال کی جاتی ہے
 ٹینڈے صفر کی حدت اور خون کے جوش کو تسکین دیتے ہیں۔ گرم امراض مثلاً صفراوی
 بخاروں گرمی اور خشکی کی وجہ سے درد سر اور کھانسی میں نفع مند ہیں۔ جنون، المیخو لیا، حرارت،
 پیاس کو تسکین دیتے ہیں۔ اور دماغ کو قوت بخشنے ہیں۔ لہذا گرم طبیعت والوں کے لئے
 نہایت مناسب غذا ہے۔

چقندر: شلجم کی مانند مشہور ترکاری ہے باہر سے نفیسی اور اندر سے سرخ ہوتی ہے اس
 کے پتے پالک کے پتوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ چقندر کا مزہ گاجر کی مانند شیریں ہوتا ہے
 چقندر کو تنہا یا گوشت کے ہمراہ پکا کر یا بطور سلاڈ بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کافی
 غذائیت حاصل ہوتی ہے اور طبیعت کو نرم کرتا ہے۔ چقندر کے استعمال کرنے سے قبض بھی
 رفع ہو جاتی ہے۔ سر کی سکری کو زائل کرنے کیلئے چقندر اور اس کے پتوں کو پانی میں جوش
 دے کر سر کو دھوتے ہیں۔ نیز سر کی جوئیں مارنے کے لئے بھی چقندر اور اس کے پتوں کو پانی
 میں جوش دے کر کئی مرتبہ سر کو دھوتے ہیں اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کے پھٹ جانے کی
 صورت میں چقندر کے پتوں کے جوشانہ میں ہاتھ اور پاؤں کو بار بار رکھتے اور دھوتے ہیں
 جس سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے۔

شلجم: مشہور ترکاری ہے شلجم کو زیادہ تر تنہا گوشت کے ہمراہ پکا کر بکثرت استعمال
 کرتے ہیں اس سے کافی غذائیت حاصل ہوتی ہے اس کے استعمال کرنے سے طبیعت نرم
 ہو جاتی ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے۔ شلجم قبض، کھانسی، بدن کی کمزوری، بینائی کی کمزوری،
 گروہ اور شانہ کی پتھری، جوڑوں کے درد، نفرس، عرق النساء اور گردوں کی کمزوری میں یہ
 ایک نہایت مناسب غذا ہے لیکن شلجم دیر ہضم ہے اس لئے کالی مرچ اور معمولی ترشی استعمال

کرنے سے جوش دے کر سردی کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہاتھ پاؤں کو دھوتے ہیں جس سے کافی فائدہ ہوتا ہے۔

کریلا: کریلا زیادہ تر پیاز یا گوشت کے ہمراہ پکا کر بطور سبزی کھایا جاتا ہے۔ کریلا نہایت مناسب غذا ہے لہذا کریلا معدہ کو قوت دیتا ہے طبیعت کو نرم کرتا ہے بلغم کو خارج کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑوں کا قاتل ہے ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور بلغمی مزاج اشخاص کے لئے بے حد مفید ہے بلغمی امراض مثلاً جوڑوں کے درد، نقرس تلی کا ورم، کھانسی و دمہ اور استسقاء میں استعمال کرنے سے فائدہ بخشتا ہے۔ کریلے خاص طور پر ریح کو خارج کرتے ہیں اور قوت باہ اور اعصاب کو قوت بخشتے ہیں۔ کریلے خشکی پیدا کرتے ہیں۔ اس لئے ان کے ہمراہ زیادہ گھی، کالی مرچ یا دارچینی شامل کرنے سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ کریلا مرض ذیابیطس اور شوگر کے لئے نہایت مفید ہے۔

گاجر: گاجر کو پکا کر اور نیز بغیر پکائے بکثرت کھایا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ مقدار میں کھانے سے اچھار کی شکایت ہو سکتی ہے گاجر بڑی مفید چیز ہے کھانسی، دمہ، پیشاب کی سوزش، گردہ کے استعمال کرنے سے پیشاب کھل کر آتا ہے گاجر بدن کو قوت اور دل کو فرحت پہنچاتی اور دل کی گھبراہٹ کو دور کرتی ہے۔ گاجر کا حلوہ اور مرہ بھی بنایا جاتا ہے جو کہ دل کی تفریح اور خفقان کے ازالہ کے لئے کھلاتے ہیں۔ گاجر خاص طور پر دل کو فرحت، بلغم کا اخراج اور مقوی باہ ہے۔

گاجر ثقیل و دیر ہضم ہے اس لئے گاجر کو گرم اشیاء یا گوشت کے ساتھ پکانے سے اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جدید تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ گاجر میں شکر، نشاستہ، فولاد، کیلیشیم، فاسفورس کے علاوہ وٹامن اے بی اور سی جیسے قیمتی اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے گاجر جسمانی طاقت اور غذائیت کے لئے بے حد مفید ہے چونکہ حیاتین الف بھی ہوتا

ہے اس لئے دماغ، اعصاب اور ہڈیوں کے علاوہ آنکھوں کو تقویت پہنچانے میں نہایت موثر ہے۔ فولاد کی موجودگی خون کی تولید میں اضافہ کرتی ہے اس لئے خون کی کمی کے مریضوں کو گاجر کا استعمال کرنا فائدہ مند ہے گاجر کا جوس گیس کے مریضوں کے لئے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔

گوبھی: گوبھی کا پھول بطور ترکاری تنہا یا گوشت کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے جو نہایت خوش مزہ اور لذیذ ہوتا ہے۔ لیکن یہ گیس اور غلیظ خون پیدا کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے کبھی پیٹ میں اچھارے کی بھی شکایت ہو جاتی ہے اور دیر ہضم ہے۔ تاہم مقوی باہ بھی ہے لیکن روغن بادام یا گرم مصالحوں کے ساتھ گوبھی کا پکانا اس کی اصلاح کرتا ہے۔

مٹر: مشہور سبزی ہے جو تنہا یا گوشت کے ہمراہ آلووں کے ساتھ دیگر سبزیوں کے ساتھ پکا کر کھاتے ہیں۔ اس میں سلفر اور فاسفورس نسبتاً زیادہ مقدار میں ہوتی ہے۔ مادہ کے ساتھ مراکب ہوتا ہے۔ قبض اور پیٹ میں ہوا پیدا کرتے ہیں۔ لیکن مقوی بدن اور مقوی باہ ہے اس میں پروٹین تقریباً 23 فیصد کاربوہائیڈریٹس 50 فیصد اور حیاتین اے اور بی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ اگر اس سے پیٹ میں ہوا پیدا ہو تو بعد میں تھوڑا سا شہد خالص استعمال کرنا چاہئے جس سے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔

کمزوری کے خاتمہ اور قوت باہ کا غذائی علاج

ترمذی وغیرہ میں حضرت ام منذرؓ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت محمد ﷺ میرے پاس حضرت علیؓ کے ساتھ تشریف لائے اس وقت کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے حضور اکرم ﷺ نے ان کھجوروں میں سے کچھ تناول فرمائیں تو حضرت علیؓ بھی کھانے لگے اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے علی! تم کمزور ہو، اس لئے تم یہ نہ کھاؤ حضرت ام منذرؓ کہتی ہیں اس کے بعد میں نے چقدر پیش کئے تو حضور ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لئے مفید ہیں۔

حضرت علیؓ کی ان دنوں دونوں آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا مضر ہے اس لئے آپ نے حضرت علیؓ کو منع فرمایا اور جب آپ کے سامنے چقدر پیش کئے گئے تو آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ یہ تمہارے لئے مفید ہیں۔ اور یہ تمہاری ناطاقی کو دور کر دیں گے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پرہیز کرنا سنت ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چقدر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ اسی لئے حکماء نے لکھا ہے کہ چقدر معدے کی جلا کرتا ہے کھانا تحلیل کرتا ہے اور گرمی کو مارتا ہے سدوں کو کھولتا ہے بلغم اکھاڑتا ہے رعشہ کے لئے مفید ہے ضعف کو دور کر کے قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے۔

چقدر بے پناہ غذائی اور دوائی افادیت کی حامل یہ سستی سبزی کینسر کا بھی موثر علاج ہے ہمارے ایک عزیز پچھلے دنوں خاصے بیمار رہے علالت سے نجات پائی تو نقاہت اور کمزوری نے آلیا ان کی میز پر طرح طرح کے ٹانک اور وٹامنز کی گولیاں سجنے لگیں ایسے میں کراچی سے ایک بزرگ آئے انہوں نے دیکھتے ہی کہا: ”برخوردار! تم یہ سارے وٹامن کھانے کے بعد بھی اپنے کونا تو ان ہی تصور کرو گے۔ کیا تمہیں ارشاد نبوی ﷺ یاد نہیں۔ حضرت ام المندرؓ سے روایت ہے کہ ان کے گھر پیارے نبی ﷺ تشریف لائے آپ ﷺ کے ساتھ حضرت علیؓ بھی تھے۔ کھجور کے خوشے لٹک رہے تھے جو آپ ﷺ کی خدمت اقدس میں پیش کئے گئے۔ آپ ﷺ نے جی بھر کر نوش جان کئے پھر رسول ﷺ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: تم اب زیادہ نہ کھاؤ کہ ابھی بیماری سے اٹھنے کی وجہ سے کمزور ہو۔“ پھر میں نے ان کے لئے جو کی روٹی اور چقدر کا سالن پکایا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں، علیؓ! تم اس میں سے کھاؤ کہ یہ تمہارے لئے مفید ہے۔“

ان بزرگ نے کہا: تم بھی اپنی روزانہ کی غذا میں چقدر شامل کر لو انشاء اللہ جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ عزیز نے ایسا ہی کیا اور چند ہی روز میں صحت یاب ہو گئے چقدر ایک مفید سبزی ہے یہ پاکستان، بھارت، یورپ اور شمالی افریقہ میں کثرت سے کاشت کی جاتی ہے یورپ میں چقدر سے چینی تیار کی جاتی ہے۔ ایران میں چقدر کا گرم گرم رس شوق سے پیا جاتا ہے اس میں حیاتین ب اور ج کے علاوہ کپلشیم، فاسفورس اور فولاد پایا جاتا ہے۔ مغربی ممالک میں چقدر ایک کثیر الفوائد سبزی شمار ہوتی ہے۔

جو غذائیت سے بھر پور ہونے کے ساتھ ساتھ دور جدید کی مہلک بیماریوں کینسر کو بھی روکتی ہے۔ فرانس کے معالج اپنے مریضوں کو ایک کلو چقدر روز کھانے کا مشورہ دیتے ہیں آئر لینڈ کے ساحلی علاقوں میں اس کے پتے بہت پسند کئے جاتے ہیں پتوں کے

ڈنٹھلوں کو ساگ کی طرح پکا کر کھایا جاتا ہے۔ چقدر میٹھا ہوتا ہے اس لئے شوگر کے مریضوں کو نہیں کھانا چاہئے۔

سوگرام چقدر میں تینتالیس حرارے، ایک گرام پروٹین، سات گرام نشاستہ اور دو گرام ریشہ پایا جاتا ہے اسکی کھانڈ بھی بنتی ہے۔

یہ قبض کشا سبزی ہے ورم دور کرتی اور گیس تحلیل کرتی ہے جسم کو غذائیت بخشتی ہے عام طور پر خواتین چقدر کو ابال کر اس کا پانی پھینک دیتی ہیں تاکہ اس کا کھارا پن دور ہو جائے۔ اس طرح سالن تو مزے کا بنتا ہے مگر غذائیت کم ہو جاتی ہے۔

حضرت سہل بن سعدؓ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی ﷺ کے دروازے پر ہر جمعہ ایک بوڑھی خاتون چقدر اور جو کی دیگ تیار کر کے لاتیں اس کو خوب گھوٹ کر ہریسے کے مانند کر لیتیں جمعہ کی نماز پڑھ کر لوگ ان کے پاس جاتے، سلام کرتے اور خوشی خوشی چقدر اور جو کا پکوان کھاتے۔ (بخاری۔ مسلم)

بواسیر، جوڑوں کے درد، سرد اور پرانی قبض کے لئے بھی چقدر بہت مفید ہے ایک درمیانہ چقدر تھوں سمیت کاٹ کر ڈیڑھ دو کپ پانی میں ابال اور چھان کر ایک پیالی نہار منہ پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ صرف چقدر کاٹ کاٹ اور بال کر اس کا پانی پیالی بھر کر پینا بھی مفید ہے اس سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے اور بواسیر کی شدت میں کمی آ جاتی ہے۔

بال کورہ کے لئے

اس مرض میں بال اڑ جاتے ہیں چقدر کے نرم و نازک تھوں کارس نکالنے اور بال خورے پردن میں تین مرتبہ لگائیے۔ بال نکل آئیں گے۔

جوؤں کے لئے

چقدر کے پتے، ذنصل اور ایک چقدر کاٹ کر پانی میں خوب جوش دیجئے اور اس سے بال دھویئے جوئیں آئندہ نہیں ہوں گی۔ ایک ماہ مسلسل بالوں میں یہی عمل دہرائیئے۔

خشکی کیلئے

ایک چقدر رتوں سمیت پانی میں ابال کر سر پر خوب ملئے۔ آدھے گھنٹے بعد سر دھو لیجئے ہفتے میں دو بار یہ عمل کیجئے اس سے خشکی دور ہو جائے گی۔

چقدر کا تیل

دو بڑے چقدر لے کر انہیں کاٹ لیجئے گول قتلے کر کے ایک کلو سروس کے تیل میں خوب جلایئے جب قتلے سیاہ ہو جائیں تو اتار کر ٹھنڈا کر کے چھان لیجئے یہ تیل سر میں روزانہ لگائیئے اس سے بال مضبوط اور گھنے ہوں گے۔

سرور کے لئے

چقدر کا عرق نکال کر ناک میں ٹپکانے سے سر کا درد اور بعض دفعہ دانت کا درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دماغ بھاری رہتا ہو، کپٹی میں جکڑن ہو، سر میں درد ہو تو ایک درمیانی چقدر لیجئے اور ہلکا سا چھیل کر قتلے کر کے اور نرم نرم پتے کاٹ کر ایک گلاس پانی میں ابال لئے تین چار جوش آنے پر اتار لیجئے۔ حسب ذائقہ نمک ملا کر قتلے کھائیئے اور پانی پی لیجئے۔ چند روز میں فائدہ ہوگا۔

سیاہ داغوں اور چھائیوں کے لئے

چقدر کو پانی میں ابال کر منہ دھونے یا منہ پر روتی سے یہ پانی لگا کر پانچ منٹ بعد منہ دھونے سے فائدہ ہوتا ہے اس کے مسلسل استعمال سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔

دانت کے درد کیلئے

چقندر کے پتوں کا پانی نکال کر اس سے غرارے کئے جائیں یا اسے انگلی پر لگا کر مسوڑھوں پر ملا جائے تو دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔

گھنے بالوں کے لئے

سر پر چقندر کا رس لگائیے آدھے گھنے بعد سرد ہو لیجئے چقندر کو ابال کر اس کے پانی سے سرد ہونا بھی بالوں کے لئے بہت مفید ہے بال گھنے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔

گھٹیا کے ورم کے لئے

جوڑوں میں درد ہو یا وہ سوج گئے ہوں تو ایک کلو چقندر کے قتلے کر کے پانچ کلو پانی میں ابالنے خوب ابل جائیں تو اس پانی سے متاثرہ حصہ بار بار دھونے سے درد اور ورم دور ہوتا ہے۔

جوڑوں کے درد کے لئے تیل

چقندر لے کر دھو لیجئے پتوں سمیت ان کا ایک کلو پانی نکالئے۔ اسی طرح ارنڈ کے پتوں کا پانی آدھ کلو نکال لیجئے اب تیلوں کا تیل ڈیڑھ کلو لیجئے اور اس میں یہ پانی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیے۔ جب پانی خشک ہو جائے تو اتار کر کپڑے سے چھان کر رکھئے۔ جوڑوں پر مالش کرنے سے ورم آہستہ آہستہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ اور درد کو آرام آتا ہے۔

پسلی کے درد میں بھی اس تیل کی مالش آرام دیتی ہے۔ کان میں دانہ یا پھنسی ہو درد رہتا ہو تو اس تیل کے دو چار قطرے کان میں ڈالنے سے آرام آ جاتا ہے دن میں تین بار ڈالئے۔ اب چقندر کے چند سالن ملاحظہ کیجئے:

چقدر گوشت

آدھ کلو گوشت میں ایک کلو چقدر کاٹ کر نرم پتوں سمیت پکائے گوشت بھون کر چقدر ڈال دیجئے۔ پک جانے پر ہر ادھنیا گرم مصالحہ ڈال دیجئے۔ توانائی بخش سالن تیار رہے۔

چقدر قیمہ

آدھ کلو قیمہ بھون کر اس میں آدھ کلو چقدر پتوں سمیت ڈالئے اور بھون کر اتار لیجئے سب گھروں میں گوشت قیمہ بنتا ہے اپنے طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں۔

چقدر کی سالاد

ایک درمیانہ چقدر کاٹ کر اسے معمولی سے پانی میں ابال لیجئے اور اس کے گول ٹکڑے کاٹ کر نمک، کالی مرچ، کالا زیرہ پسا ہوا چھڑک دیجئے۔ آپ اس میں ابلے منر اور ہر ادھنیا بھی ملا سکتے ہیں۔

چقدر کالذیز حلوہ

ایک کلو چقدر چھیل کر کدو کش کر لیجئے۔ دودھ آدھا کلو۔ کھویا ڈھائی سو گرام، گھی، پستہ اور بادام حسب ضرورت، چینی ایک پاؤ۔
دودھ میں چقدر پکائے دودھ خشک ہونے پر چینی ملا دیجئے۔ چینی کا پانی خشک ہو جائے تو کھویا ڈال دیجئے اور ایک چمچ گھی ڈال کر بھون لیجئے اب اس میں پستہ بادام کاٹ کر ملائے چقدر کالذیز مقوی حلوہ تیار ہے۔

دل و دماغ کی تقویت کا غذائی علاج

ابو نعیم نے واثلہ بن الاسقع سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! کدو یعنی لوگی زیادہ کھایا کرو کیونکہ دماغ کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ اور حضرت عائشہؓ نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! جب تم ہانڈی پکاؤ تو اس میں کدو ڈال لیا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کے لئے تقویت کا باعث ہے۔

اس میں راز یہ ہے کہ اس کی ٹھنڈک گوشت کی حرارت کو دور کر کے معتدل کر دیتی ہے۔ قرآن حکیم میں کدو کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کے ضمن میں آیا ہے۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش کا ایک عرصہ مچھلی کے پیٹ میں محبوس ہو کر گزارنا پڑا جہاں وہ خدا سے توبہ کرتے اور اس کی عبادت کرتے رہے۔ پھر ان کا دور ابتلا ختم ہوا اور توبہ قبول کر لی گئی۔ مچھلی نے انہیں کنارے پر اگل دیا مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مقام یمن کا ساحلی علاقہ تھا اس باب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

فنبذنه بالعراء وهو سقیم - وانبتنا عليه شجرة من يقطين - وارسلنه الى مائة الف او يزيدون - فامینو فمعتنهم الى حين -

(یونس: ۴۸: ۱۴۶)

(پھر ہم نے ڈال دیا ان کو کھلے میدان میں جبکہ وہ بیمار اور کمزور تھے ان کے اوپر ہم نے کدو

کی بیل اگا دی ان کو ہم نے مامور کیا ایک لاکھ یا اس سے بھی زیادہ افراد پر۔ پس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے ان کو فیضیاب کیا ایک عرصہ تک)
حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں۔

(ایک درزی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی دعوت کی میں ان کے ساتھ گیا۔ اس نے جو کی روٹی اور سوکھے گوشت کے سالن میں کدو پیش کیا میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھالی کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ اس دن کے بعد سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔

حضرت انس بن مالک سے دوسری روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کدو سے محبت کرتے تھے حکیم بن جابر اپنے والد جابر بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا ان کے پاس ایک کدو تھا میں نے پوچھا یہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ یہ کدو ہے ہم اسے بہت کھاتے ہیں۔ اسی طرح کی متعدد روایات موجود ہیں جن میں آنحضرت ﷺ کا کدو کو پسند فرمانا بیان کیا گیا ہے۔

لہذا کدو بے شمار فوائد کی حامل سبزی ہے جو نہ صرف سالن کے طور پر استعمال ہوتی ہے بلکہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ ۶۵ء کی جنگ میں مجھے اچھی طرح یاد ہے لوگوں میں جذبہ ایمانی شہیت سے فروزاں تھا۔ کراچی میں ہمارے قریبی عزیز تھے۔ عمر ۲۵ برس تھی۔ محلے میں خندق کھودتے کھودتے انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے پھاؤ ڈالے کر خندق سے باہر نکلے اور دوسرے لوگوں کو بھارتی دشمن سمجھ کر حملہ کرنے لگے۔ صبح سے انہوں نے تن تنہا دو خندقیں کھود ڈالی تھیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے اس نے کہا ان کے دماغ پر گرمی چڑھ گئی ہے انہیں مینٹل ہسپتال لے جائیں کیونکہ یہ اپنے ہوش میں نہیں بمشکل تمام انہیں لاہور لایا گیا اور ہسپتال میں داخل کرادیا۔

انہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا جب کبھی وہ موقع پاتے ”اللہ اکبر“ کے نعرے لگاتے، زنجیریں توڑ دیتے۔ چہرہ خون کی حدت سے لال تھا۔ کھاتے پیتے بھی نہیں تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا تیسرے دن مجھ سے نہ رہا گیا حکیم امیر احمد صاحب سے پوچھا: ”ایسے حال میں کوئی دوا اثر کر سکتی ہے؟ انکو نیند آتی ہے نہ کھانا کھاتے ہیں چینیں مارتے ہیں مجھے چھوڑ دو۔ بھارت ہمارا دشمن ہے مجھے سرحد پر چھوڑ دو میں سب سے نمٹ لوں گا جسم میں قوت اس قدر ہے کہ بغیر کھائے پئے زنجیریں توڑ دیتے ہیں۔ آٹھ دس آدمی مل کر پکڑتے ہیں، پھر کہیں انجکشن لگتا ہے۔“

حکیم صاحب مسکرا کر کہنے لگے: ”پریشان مت ہوں۔ ہر اگلیا منگوائیے اسے کدو کش کر کے دہی یا چھاچھ میں ملائیے۔ اس کی مالش ہاتھ پاؤں پر خوب کیجئے۔ کھانے میں کدو کا راستہ، پودینہ کالی مرچ ڈال کر دیجئے روغن کدو منگا کر اس کی مالش سر اور کنپٹیوں پر کی جائے۔ کدو کا حلوہ بنا کر رکھئے وہ دن میں ایک بار کھلائیے۔ دو ہفتے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا۔“

حکیم صاحب نے تھوڑا سا دوا کا سنوف بھی دیا کہ کھانے میں چھڑک کر چپ چاپ کھلا دیا جائے۔ ہم لوگوں نے اسی طرح عمل کیا۔ دو روز بعد ہی جنونی کیفیت میں کمی آگئی اور چہرے کی سرخی بھی کم ہونے لگی تیسرے دن وہ تمام رات سوئے۔ صبح سب کو پہچانا دو ہفتے میں بالکل ٹھیک ہو گئے۔ احتیاطاً ایک ہفتہ انہیں ہسپتال میں رکھا پھر گھر لے آئے حکیم صاحب نے ایک ماہ کی دوا دی اور روغن کدو ہفتے میں تین بار مالش کرنے اور پینے کے لئے تجویز کیا۔ اس علاج سے بالکل ٹھیک ہو گئے اور آئندہ انہیں کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ کدو کو ہندی میں کڈتو نبی اور کاسی پھل اور عربی میں ”قرع“ اور ”ذہاء“ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں یاقطین کے نام سے گھے کا ذکر ہے۔ انگریزی میں Pumpkin یا

Gourd کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا نباتاتی نام Cucurbita Pepo ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں..... لبوترے کدو کو گھیا یا لوکی بھی کہتے ہیں۔

جیسا کہ احادیث میں گزرا ہے ہمارے پیارے رسول ﷺ کو کدو بہت مرغوب تھا۔ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہؓ سے کدو کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”اے عائشہ! جب خشک گوشت پکاؤ تو اس میں کدو اضافہ کے لئے ڈال لیا کرو کیونکہ یہ غمگین دل کو مضبوط کرتا ہے۔“

حضرت عطاء بن ابی رباح روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے لئے کدو موجود ہے وہ عقل کو بڑھاتا ہے اور دماغ کو طاقت دیتا ہے۔

حضرت انس بن مالک یوں بیان کرتے ہیں: ”ایک درزی نے رسول پاک ﷺ کی دعوت کی میں ان کے ساتھ گیا اس نے جو کی روٹی اور سوکھے گوشت کے سالن میں کدو پیش کیا۔ میں نے دیکھا کہ نبی اکرم ﷺ تعالیٰ کے اطراف سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کے کھاتے تھے۔ اس دن کے بعد مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔“

سنت نبوی ﷺ کے پیش نظر کدو کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اسے شوق سے کھلا جاتا ہے اس کی ڈنڈی سے لے کر تاج تک کارآمد ہیں روغن کدو کو آج سے نہیں پرانے حکماء برسوں سے دماغ کی بلڈ پریشر اور اعصاب کے کھپاؤ میں استعمال کر رہے ہیں نیند کے لئے دوائیں کھائی جاتی ہیں جبکہ گہری نیند کے لئے روغن کدو سے بہتر کوئی چیز نہیں پہلے تو یہ روغن کو ٹنڈی ڈنڈے سے نکالا جاتا تھا اب مشین کے ذریعے چند منٹوں میں نکل آتا ہے نزلہ بخار میں انٹی بائیوٹک دوا استعمال کرنے کے بعد عموماً سینے میں خراش، خشک کھانسی اور بلغم میں کبھی کبھی خون آنے لگتا ہے ایسے میں ہلکے گرم دودھ میں ایک چھوٹا چمچ روغن کدو ملا

کرم صبح و شام پینے سے نزلہ اور سینے کی خراش دور ہو جاتی ہے گلا صاف ہو جاتا ہے اور خون نہیں آتا۔ یہی روغن پیشاب کم آنے اور جلن اور درد کے لئے بھی مفید ہے۔ صبح و شام شربت بزوری کے ساتھ چائے کا چمچ روغن کدو پینے سے پیشاب کی جلن ختم ہو جاتی ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے۔

دائمی قبض کے لئے یہ روغن بے حد مفید ہے۔ معدے کی تیز ابیت اور آنتوں کی خشکی دو ہو جاتی ہے اسی طرح جن لوگوں کی ناک بند رہتی ہو یا بار بار چھینکیں آ کر ناک میں جلن ہو جائے تو وہ بھی روغن کدو استعمال کریں اور ناک میں اندر کی طرف دوبارہ لگائیں، فائدہ ہو گا جن لوگوں کو نیند نہ آتی تو وہ صبح کا کھانا جلدی کھا کر سوتے وقت روغن کدو پی لیں اور ایک چمچ تیل کی سرے سے گدی تک خوب مالش کریں ایک ہفتے کے اندر ہی خشکی دور ہو کر گہری نیند آنے لگے گی۔

جن لوگوں کے سر میں مسلسل درد رہتا ہو، تناؤ دماغی پریشانی سے مزاج چڑچڑا ہو گیا ہو، چکر آتے ہوں ان کیلئے بھی روغن کدو بہترین دوا ہے۔ رات کو روزانہ اس کی مالش کریں، اپنی غذا میں گھیا شامل کریں، انشاء اللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔

چہرے یا جسم پر داغ دھبے، خشکی، کھر دراپن ہو تو آپ یہ روغن لگائے بھی اور ایک چمچ رات کو پیا بھی کیجئے آہستہ آہستہ خشکی اور دھبے دور ہو جائیں گے۔ روغن کدو کی مالش سے پاؤں کی مونچ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ناک اور کان کی خشکی ہو تو یہ روغن ان میں ڈالئے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ روغن لبوب سب سے سات طرح کی گریوں اور مغزوں کا تیل ہے بے خوابی کے مریضوں کے لئے بہترین چیز ہے۔ اس میں بھی روغن کدو شامل کیا جاتا ہے۔

گرمی کے موسم میں بخار تیز ہو، مریض بے چین ہو جائے تو نرم گھیا کدو کوش کر

کے یا باریک ٹکڑے کاٹ کر سر پر رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ گول گھیا لے کر بیچ میں سے دو ٹکڑے کر لیجئے، پھر دونوں کو ملا کر ٹوتھ پک لگا دیجئے۔ اس پر گندھا ہوا نالگا کرتندور میں رکھ دیجئے۔ آنا سرخ ہو جائے تو نکال کر آنا بنائیے اور گھے کا پانی نچوڑ لیجئے۔ یہ پانی انار کے شربت یا شربت بزوری میں ملا کر پلانے سے بخار کی تیزی، بے چینی اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔

بخار بہت تیز ہو تو نرم گھے کے چار ٹکڑے کر کے دہی کی لسی میں بھگو کر ہاتھ اور پاؤں پر ملئے پانچ سات منٹ ملنے سے گھے کے ٹکڑے بخار کی حدت سے گرم اور سیاہ ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ سے نمیر پیچ کم ہو جائے گا۔

ایسے لوگ جو نازک طبع ہوں آئے دن بیمار رہتے ہیں جسمانی لحاظ سے بھی کمزور ہوں، کبھی کبھار دل کی کمزوری محسوس ہوتی ہو، چلنے پھرنے سے سانس پھولتا ہو، بکری کے گوشت کے ساتھ ہلکی آنچ پر پکائیے، بہترین غذا ہے۔ کمزور بچے بوڑھے، جوان سب کے لئے یکساں مفید ہے غریب لوگوں کے لئے چنے کی دال اور گھیا بہترین غذا ہے محنت مزدوری اور جسمانی مشقت کے بعد کھائی جائے تو جسم میں توانائی آ جاتی ہے ایک طرح سے یہ گوشت کا نعم البدل ہے اس میں گرم مصالحہ ادراک ملانے سے ذائقہ بہتر ہوتا ہے اور ہضم بھی جلدی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ چاولوں کا خشکا بھی اچھا لگتا ہے۔

سردی کے موسم میں ہے۔ ہونٹ پھٹنے لگتے ہیں جس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے بازار میں ہونٹوں پر لگانے کی چپ شک ملتی ہے مگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا بیٹھے کدو کے بیج اور گوند کثیر ابرابر مقدار میں لے کر باریک پیش لیجئے رات کو تھوڑے سے پانی میں ملا کر ہونٹوں پر لپ کیجئے۔ دو گھنٹے بعد گرم پانی سے صاف کر لیجئے۔ دو تین بار کے استعمال سے ہونٹ ملائم ہو جائیں گے، پھٹیں گے نہیں۔ گوند کثیر اندہ ہو تو آپ کدو کے بیج، چھلے ہوئے

پانی میں پیس پیس کرات کو ہونٹوں پر لپ کر کے سو جائیے صبح دھویئے اس سے بھی فائدہ ہوگا۔

بخار کی شدت سے بہراپن ہوتا ہے روغن کا ہوا روغن کدو ہم وزن لے کر ملا کر رکھ لیجئے کان میں ڈالئے اس سے فائدہ ہوگا اسی طرح ناک سے بد بو آتی ہو تو کڑوے کدو کا پانی کپڑے میں نچوڑ کر ناک میں ڈالئے آٹھ دس دن یہ عمل کیجئے بہراپن ٹھیک ہو جائے گا۔ جس خاتون کے ہاں بچی ہو اس کا رس ملائیئے اسے کان میں ڈالئے سے آرام آجاتا ہے۔ کدو کے پھلکے سائے میں خشک کر کے پیس کر رکھ لیجئے۔ اس میں ہم وزن چینی ملائیئے۔ منہ سے خون آ رہا ہو تو ایک پیچ روزانہ صبح کھائیئے، پانی یا دودھ کے ساتھ، آرام آجائے گا۔ یہی سنوف بوا سیر کے لئے بھی بے حد مفید ہے۔ صبح و شام کھانے سے خون بند ہو جاتا ہے۔ اسہال میں خون آ رہا ہو اس کے لئے بھی بے ضرر نسخہ ہے۔

کدو کی تیل کے پتے جہاں رکھے ہوں وہاں مکھی نہیں آتی کسی چیز کو مکھیوں سے محفوظ رکھنا، ہر خصوصاً دیہات میں تو آپ کدو کے پتے رکھ دیں، اچھا ٹوٹکا ہے۔

خواتین کو یہ پڑھ کر بے حد خوشی ہوگی کہ حمل کے دوران کدو چھیل کر اس کے چار پانچ تیلے مصری یا چینی چھڑک کر روزانہ کھائے جائیں تو بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ شروع حمل کے تین ماہ کے اندر روزانہ کدو کھائیئے تری نہ اولاد کے لئے کدو بیج سمیت کھایا جائے تو عام طور پر لڑکا ہوتا ہے۔ جن خواتین کے حمل گر جاتے ہوں، کمزوری ہو انہیں چاہئے کہ شروع کے چار ماہ کدو کا استعمال کسی نہ کسی طرح غذا میں ضرور کریں اس سے حمل محفوظ رہے گا۔

کدو کی جڑ میں بھی حمل رکھنے کی صلاحیت ہے۔ اس کی جڑ نکال کر گلے میں ہار کی طرح پہننے سے حمل محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جو بچہ روز بروز سوکھتا جا رہا ہو، کوئی دوا اثر

نہ کرتی ہو، اس کے لئے بھی گھئے کا عمل زور اثر ہوتا ہے۔ گھیا آیات قرآنی سے دم کر کے بچے کے گھر میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے گھیا سوکھتا جاتا ہے بچہ موٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ آزما یا ہوا نسخہ ہے۔

کدو کے چھلکے کا پانی نچوڑ کر عرق گلاب میں ملا کر آنکھوں میں ڈالنے سے سوزش کم ہوتی ہے جوڑوں کا درد زیادہ ہو تو کدو یا کدو کا پانی ملنے سے آرام آنے لگتا ہے۔ کدو کھانے سے پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ گرمی کے سردی میں کدو کھایا جائے تو آرام آ جاتا ہے۔ سر کی جلن کے لئے کدو بہترین دوا ہے بعض لوگوں کی کھوپڑی میں اتنی جلن ہوتی ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کدو پیس کر کھوپڑی پر چند روز لپک کرنے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔

ڈنڈی کا وہ حصہ جو کدو کے ساتھ ہوتا ہے اسے بھی سنبھال کر رکھئے کاٹ کر سکھائیے کوئی زہریلا کیڑا، بچھو کاٹ جائے تو کاٹنے کی جگہ پر اسے لگائیے اور شہد میں سکھو ملا کر بار بار چٹائیے، زہر دور ہو جائے گا۔

کدو کی ڈنڈی پانی میں گھس کر چوتھا حصہ لال پھٹکری ملا کر ناسور پر لگانے سے آرام آ جاتا ہے۔ کدو کا پانی بدن کی پھنسیوں کے لئے مفید ہے۔ گودے کا لپک کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کیلئے ایک چمچ مغز کدو چینی ملا کر رات کو کھلائیے صبح کسٹرائل پلائیے پیٹ کے کیڑے مرجائیں گے۔

قدرت نے کدو کے اندر کیلشیم، پوٹاشیم، فولادی اجزاء، فاسفورس، سوڈیم، میکنشیم سمودئیے ہیں یہ قبض کشا سبزی مادے کی سختی، جلن اور تیزابیت دور کرنے کے لئے دوا بھی ہے اور غذا بھی اور گرم طبیعت والوں کے لئے اکسیر کا کام کرتی ہے۔ یرقان زدہ مریضوں کیلئے کدو بہترین غذا ہے۔ ایک چھٹانک سے لے کر دو چھٹانک کدو کے گودے

میں ایک تولہ میٹھی زرشک اور پانچ سات دانے آلو بخارا ٹھنڈے پانی میں بھگو کر تمام دن یہ پانی پلائیں۔ یرقان سے آرام آجائے گا۔ معدہ کی تیزابیت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو اس وقت بھی یہی سبزی کام آتی ہے۔ دو ہفتے یہ سبزی پکا کر کھائیے، جلن دور ہو جائے گی۔

کدو کی بیشار ڈشیں بنتی ہیں۔ اس کے ستو بھی بنتے ہیں کدو خشک کر کے گرینڈر میں پس کر بوتل میں بھر کر رکھ لیجئے اسہال کی شکایت میں یہ ستو چینی ملا کر دن میں دو بار پی لیا کریں، ہر قسم کے دستوں کیلئے یہ مفید ہے

کدو کا مربہ

گرم مزاج جو شیلے نوجوان اس کا مربہ دو ہفتے کھائیں انکی گھریلو زندگی بہتر ہوگی۔ مزاج کی گرمی، خشکی اور چڑچڑاہٹ دور ہوگی۔ حسب مرضی کدو چھیل کاٹ کر دگنی چینی چھڑک کر رکھ دیجئے چینی چند گھنٹوں بعد گھل کر شیرہ بن جائے گی اب ہلکی آنچ پر پکائیے اور مغزیات شامل کر لیجئے۔

ترکیت یہ ہے:

آدھ سیر کدو چھلا ہوا

ایک سیر چینی

ایک چھٹانک مغز بادام

ایک تولہ چھوٹی الا پچی کے دانے

ایک تولہ مغز کدو

ناشتہ کے آدھ گھنٹہ کے بعد کھائیے۔

کدو پاک

کدو تازہ	ایک سیر (کدو کش کر لیجئے)
دودھ	اڑھائی سیر
موصلی سفید	پانچ تولہ
مغز بادام چھلے ہوئے	دس تولہ
مغز چلغوزہ	دو تولہ
اصلی تھی	حسب ضرورت
مغز پستہ	دو تولہ
چینی	حسب خواہش

کدو دودھ میں پکا کر کھوئے کی طرح کر لیجئے چینی ملائیے اور موصلی پس کر ڈالیئے مغزیات ملائیے اور ہلکی آٹھ پر اسے بھونتی رہیے۔ کھی ڈالتی رہیے جب بھن جائے تو اتار لیجئے۔ صبح کے وقت دو تین چمچے کھایا کیجئے۔ بدن کی کمزوری دور ہوگی۔ مردانہ کمزوری کے لئے بے حد مفید ہے۔ صحت قابل رشک بن جاتی ہے۔

شربت کدو

کدو تازہ کا پانی اڑھائی کلو لے کر ہلکی آٹھ پر پکائیے۔ جب آدھا رہ جائے تو ایک کلو چینی ملا کر شربت تیار کر رکھ لیجئے۔ یہ شربت دل کی کمزوری کے لئے اکسیر ہے۔ سردرد، ضعف، دماغ، شدت پیاس، خفقان، جنون میں کام آتا ہے۔

کدو کا اجار

ایک کلو کدو چھیل کر ٹکڑے کر لیجئے۔ پانی میں ایک ابال دے کر چار پائی پر کپڑا

بچا کر ٹکڑے خشک کر لیجئے۔ سیاہ مرچ ایک چمچ، سرخ مرچ ایک چوتھائی چمچی، زیرہ سفید پسا ہوا ایک چمچ، کلونجی ایک چمچ، نمک حسب خواہش، سچی رائی ایک چمچ ملا کر رکھ دیجئے۔ چار دن بعد استعمال کیجئے۔ اس میں آپ تھوڑا سا تیل ملا سکتے ہیں۔ یہ اچار معدے اور پیٹ کی بیماریوں کی دوا ہے۔ اچھارہ، قبض، کھٹی ڈکار، قبض کے لئے کھائیے۔ بھوک لگے گی ہاضمہ درست رہے گا۔

گھئے کارا سنتہ

ایک ڈبہ پرانم ذہی لے کر پھینٹ لیجئے۔ اس میں نصف چمچی سفید زیرہ، کالی، مرچ، نمک، سوکھا پودینہ، سب پیس کر ملائیے۔ ایک گھیا کدو کش کر کے ہلکی آٹھ پر پکائیے۔ گل جائے تو ٹھنڈا کر کے دہی میں ملا دیجئے۔ یہ رانیتہ پیٹ کے امراض میں مفید ہے۔ (صفیرہ بانو شیریں اردو ڈائجسٹ ۱۹۹۵ء لاہور)

سبزی کدو

آدھ کلو کدو کاٹ کر قتلے کر لیجئے۔ ایک چمچ گھی گرم کر کے اس میں نصف چمچی کلونجی، آدھا چمچ سفید زیرہ، آدھا چمچ پسا ہوا لہسن، چار ثابت سرخ مرچیں ڈال کر بھونیں۔ کدو ڈال کر معمولی سا پانی ملا کر ہلکی آٹھ پر پکائیے۔ گل جائے تو پودینہ ڈال کر اتار لیجئے۔ آنتوں کی جلن میں سالن کدو ہلکی مرچ کا کھائیے، دو ہفتہ میں فائدہ ہوگا۔

چنے کی دال میں گھئے کے موٹے ٹکڑے ڈال کر ہلکی آٹھ پر مسالے ملا کر پکائیے۔ بعد میں بگھار کیجئے۔ یہ بھی مقوی غذا ہے۔ بچوں کو چاولوں کے ساتھ کھلا سکتی ہیں۔ (صفیرہ بانو شیریں اردو ڈائجسٹ 1995ء)

کدو کی افادیت

کدو ایک بین الاقوامی سبزی ہے یہ چھ مہینے ہمارے بازاروں میں فروخت ہوتی رہتی ہیں۔ اس بھاجی ترکاری کا مزاج سرد اور تر ہے اس میں گوشت بنانے والے روغنی اور معدنی نمکیات کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں وٹامن اے اور بی بھی موجود ہیں۔ یہ کثیر الغذا سبزی قبض کشاد اور معدے کی سختی، جلن اور تیزابیت کو دور کر دیتی ہے۔ ایک پاؤ اس کا سالن دو چپاتوں کے ساتھ کھالینے سے بدن کو ایک وقت کی ضروری غذا حاصل ہو جاتی ہے۔ جو انوں گرم مزاجوں اور گرمی خشکی، قبض کے ستائے ہوئے مریضوں کے لئے یہ غذا بھی ہے اور دوا بھی۔ پرانے یونانی حکیموں کی دور بین نگاہوں نے گھیا میں پنے کی دال شامل کر کے ایک سستی اور مکمل غذا ہمارے لئے تجویز کر دی میرا تجربہ ہے گرم طبیعت والوں، محنت مزدوری کرنے والوں اور دائمی قبض کے مریضوں کے لئے اس اچھوتی غذا کا مقابلہ آج کل کی قیمتی سے قیمتی مروج غذائیں بھی نہیں کر سکتیں۔

گرمی کے موسم میں تیز بخار اور معیاری بخاروں میں اکثر سرسام ہو جاتا ہے۔ مریض بے چین اور سر مارتا ہے بیہودہ باتیں کرتا اور گھر بھر کے لئے پریشانی کا باعث بن جاتا ہے جیسا کہ ایک واقعہ پہلے گزر چکا ہے سرسام اور بخار کی تیزی دور کرنے کے لئے ایک لوکی لے کر اس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اسی لوکی پر جما کر اس کو گوندھے ہوئے آٹے کی لیپ کر کے تنور کی بھوبھل گرم میں دبا دیں جب آٹا پک کر سرخ رنگ ہو جائے تو گھیا کو تنور سے باہر نکال کر آنا دور کر کے اس کا پانی نچوڑ کر مریض کی عمر، طاقت اور حالات کے مطابق

آدھ سے تین چھٹا تک تک دیسی شکر، شربت انار یا شربت بزوری معتدل ملا کر پلانا مفید ہوتا ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ تیز بخاروں میں بے چینی، پیاس، گھبراہٹ اور خشکی دور کرنے کے لئے یہ ایک سستی گھریلو دوا بڑے بڑے انجکشنوں کو مات کر دیتی ہے، سرسام گرم اور سرد رد اور نیند اچاٹ ہو جانے کی صورت میں نرم گھیا کدو کش یا چھوٹے چھوٹے کر کے سر پر رکھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔

تیز بخاروں میں جب حرارت ایک سو پانچ سطح ڈگری پر پہنچ جائے تو دو نرم گھیوں کے چار ٹکڑے کر کے چار آدمی مریض کے ہاتھ اور پاؤں کو ایک ایک ٹکڑا سادہ یا دہی کی لسی میں بھگو کر رگڑنا شروع کرویں۔ دو چار منٹ میں لوکی کے رگڑنے والے ٹکڑے بخار کی حدت کو جذب کر کے سیاہ اور گرم ہو جائیں گے اور خدا کے فضل سے بخار کی تیزی سے تڑپنے والا مریض ہوش کی باتیں کرنے لگے گا۔

یرقان کے مریضوں کے لئے اس کے چھٹا تک دو چھٹا تک گودے میں ایک دو تولے میٹھی زرشک اور پانچ سات دانے آلو بخارا کے صبح ٹھنڈے پانی میں بھگو کر دن بھر مل چھان کر پلانے سے چند روز میں خدا کے فضل سے یرقان سے خلاصی ہو جاتی ہے۔

بعض گرم مزاج جوانوں کی غیر معمولی گرمی، خشکی اور غلط ماحول سے گرہستی زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آدھ سیر گھیے کے گودے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دو چند کھانڈ ان کے اوپر چھڑک کر رکھ دیں چند گھنٹوں میں کدو کے پانی اور کھانڈ کی ملاوٹ سے شیرہ بن جائے جب کھانڈ کا شیرہ بن جائے تو ایک چھٹا تک مغز بادام

اور ایک تولہ چھوٹی الائچی کے دانے ملا کر ہلکی آگ پر مرہبہ کا قوام کر لیں۔ یہ مرہبہ تیار ہونے پر مرتبان میں ڈال کر روزانہ ایک چھٹانک صبح ناشتہ کر کے اس کے ساتھ لسی دودھ پی کر ایک گولی حب دماغ افروز یا جواہر مہرہ چار برنج ایک دو ہفتے کھانے سے چستی چالاکی واپس آ جاتی ہے۔

ہسکسی رطوبت کا غذائی علاج

ابو نعیمؒ نے حضرت انس بن مالکؓ سے روایت کی ہے کہ رسول ﷺ کھیرے کو نمک کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے۔

کھیرے میں رطوبت ہوتی ہے اور نمک رطوبت کو مارتا ہے۔ اس کے علاوہ نمک کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ نمک بلغم اور سودا کا مسہل ہے۔ کھانا ہضم کرتا ہے۔ رنگ نکھارتا ہے۔ سرد غذا کو معتدل کرتا ہے۔ کھانے کے بعد بد ہضمی کو روکتا ہے۔ جذام کے لئے بھی مفید ہے۔ سکنجبین کے ساتھ فیون اور زہر کے اثرات ختم کرتا ہے۔ استقاء اور امراض سوداوی و بلغمی کو نفع بخشتا ہے۔ سکنجبین میں نمک ملا کر پینے سے قے کے ذریعے معدہ صاف کرتا ہے۔ اس کی کلی کرنے سے مسوزھوں کا لہو بند ہو جاتا ہے۔ صابن میں ہلا کر لیپ کرنے سے بلغمی ورم دور ہو جاتا ہے۔ چوٹ لگنے سے اگر خون جم جائے تو شہد کے ساتھ نمک ملا کر لگانے سے خون پھٹ جائے گا۔ بچھو وغیرہ کے کانٹے کے لئے بھی مفید ہے۔

اس تفصیل سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور ﷺ کا کوئی فعل یہاں تک کہ کھانا بھی جو آپ تناول فرماتے تھے، حکمت اور فائدہ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔

اب کھیرے کے متعلق چند فوائد ملاحظہ ہوں کھیرا ایک معروف ترکاری ہے جو

سلاد کے طور پر اور کچی کھائی جاتی ہے اس کے فوائد کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ شدت گرما اور جھلنے والی ہواؤں کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے قدرت کی طرف سے ہمیں انعام ملا ہے کھیرے کا مزاج سرد اور تر ہے اور رطوبت اس میں غالب اکثریت رکھتی ہے اس میں نوے فیصد مقطر پانی اور دس فیصد پوناشیم، کیلشیم، فولادی نمکیات، روغنی اجزاء نشاستہ اور گوشت بنانے والے اجزاء کے ساتھ وٹامن اے، بی اور ڈی شامل ہیں۔ اپنے وافر روغنی اجزاء کی وجہ سے ہاضمے کی نالی کی جلن، ورم اور معمولی زخم دور کر کے معدے کی تیزابیت کی اصلاح کرتا ہے۔ تندرست معدہ اسے تین چار گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ گرم طبیعت والے تیز دھوپ کھلے کھیتوں اور آگ تیل والی مشینری میں کام کرنے والوں کے لئے یہ بہت مفید ہے ایک خوش مزہ غذا ہونے کے علاوہ زیادتی پیاس کا بھی قدرتی علاج ہے، دل کی دھڑکن، جگر کی گرمی ہاتھ پاؤں کی جلن اور پیشاب کی گرمی اور بار بار کم مقدار میں خارج ہونے کی بیماری چند دن تک ایک سے چار کھیرے روزانہ استعمال کرنے سے صحت ہو جاتی ہے۔

ایسے افراد جنہیں پیشاب میں کیلشیم اور گزیٹ پس سیلز اور کمزور کرنے والی رطوبتیں خارج ہوتی ہوں۔ صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کثرت سے کھیرے استعمال کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ ضعف نازک میں پیشاب کی جلن اور کمی۔ پیڑوں کے مقام کا بوجھ اور ایام کی خرابی دور کرنے کے لئے دو تین ہفتے تک کھیرے کی قاشوں پر سفید زیرہ اور نوشادر پسا ہوا چھڑک کر دو تین کھیرے روزانہ کھائیں۔ گردہ اور مثانہ کی ریگ چھوٹی چھوٹی پتھریاں اور یورک ایسڈ پیشاب کے راستے خارج کرنے کے لئے متواتر ایک دو ماہ کھیرے کو سیاہ نمک اور نوشادر لگا کر کھائیں۔ گرمی کی وجہ سے منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ چند بار لگانے سے صحت ہو جاتی ہے۔ دبلے پتلے مگر مضبوط ہاضمے والے لوگ

کھیرے بکثرت کھانے سے موٹے ہو سکتے ہیں۔

یونانی طب کا مایہ ناز مشروب شربت بزوری جسے روزانہ ہزاروں طبیب معده، جگری، انتڑیوں اور مثانہ کی گرمی دور کرنے، گردوں اور جوڑوں کے یورک ایسڈ اور زہریلے فضلات کو صاف کرنے، گرم بخار دور کرنے اور بدن میں تروتازگی پیدا کرنے کے لئے استعمال کراتے ہیں۔ اس کے اجزا میں بھی کھیر شامل ہے۔ نسخہ ملاحظہ فرمائیں۔ تخم کھیرا، تخم خربوزہ، تخم کاسنی، تخم بادیان، ہر ایک آدھ چھٹانک، جڑھ سونف ہر ایک پون چھٹانک کوٹ کر سب کو سوا سیر پانی میں رات بھگو کر صبح جوش دے کر آدھ سیر پانی رہنے پر آگ سے اتار چھان کر تین پاؤ کھانڈ ملا کر آگ پر رکھ کر شربت کا قوام کر لیں۔

خون صاف کرنے کا غذائی علاج

حضرت معاذ بن زیدؓ سے ابو نعیم نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ پھلوں میں انگور کو بہت پسند فرماتے تھے۔

ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ انگور منہ سے لپک لپک کر کھا رہے تھے۔ اس پھل کو قرآن حکیم میں چھ مقامات پر ان نعمتوں میں سے شمار کیا ہے جو بندوں پر دنیا اور جنت دونوں جگہوں پر بطور انعام عطا ہوا ہے۔

انگور ایک ایسا پھل ہے کہ اس کا نام سنتے ہی منہ میں پانی بھر آتا ہے کیونکہ یہ ایک معروف ہر دلعزیز پھل ہے اور ہر فرد کا یکساں دل پسند میوہ ہے۔ یہ واحد پھل ہے جو غذا میں زیادہ اور حجم میں کم ہے۔ اسے تازہ تو استعمال کیا جاتا ہے مگر خشک کیا ہوا انگور بھی بے شمار فائدے رکھتا ہے۔ چھوٹے انگور کو خشک کر کے کشمش اور بڑے کو خشک کر کے مویر مٹھی بناتے ہیں۔ اقسام کے لحاظ سے تین طرح کا ہوتا ہے۔ ۱۔ بری ۲۔ کوہی ۳۔

بستانی۔ لیکن انگور خواہ کسی بھی قسم کا ہو اس کا مزاج گرم تر ہے۔ البتہ خام اور ترش انگور قدرے سرد خشک درجہ رکھتا ہے۔

اطباء قدیم اکثر بیماریوں کا علاج انگور سے کرتے تھے کیونکہ یہ انتہا درجے کا مقوی ہے اور اکثر بیماریوں میں آج بھی اطباء انگور یا انگور کا رس بطور غذا دیتے ہیں۔ انگور کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مقوی زیادہ ہے مگر جلد ہضم ہونے والا پھل ہے۔ معدے کو تقویت دے کر فعل ہضم کو تیز بھی کرتا ہے۔ وہ لوگ جو دبے پتلے ہوں ان کے بدن پر گوشت لاتا ہے۔ انہیں چاہئے کہ وہ تازہ انگور بکثرت کھائیں۔ دبے پن کے علاوہ انگور بواسیر، قبض، خون کی شدید کمی، معدہ کی کمزوری، ورم احشاء، پرانی پتھیش، دماغ کی کمزوری، پھیپھڑوں کے امراض، امراض طحال و جگر اور اکثر دل کے امراض میں بھی تیر بہدف ثابت ہوا ہے۔ نیز آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ تازہ اور شیریں انگور چہرے کے رنگ کو نکھارتا اور خون صالح پیدا کرتا ہے۔

کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا رس نکال کر دو حصے ویزلین ملا کر رات کو سوتے وقت چہرے پر مل لیں بلکہ ہلکے ہاتھ سے ماش کریں اور صبح صابن سے دھو لیں تو چہرے کی چھائیاں برداخ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور چہرہ صاف و شفاف اور جلد ملائم ہو جاتی ہے۔ انگور کے موسم میں تو یہ پھل باسانی مل جاتا ہے۔ مگر جب اس کا موسم نہ ہو تو اس کا رس محفوظ کیا ہوا بھی بہت کام دیتا ہے۔ شربت انگور بنا کر محفوظ کر کے اس کو بھی استعمال

کیا جاسکتا ہے۔ رب انگور بھوک بڑھاتا ہے۔ دل، دماغ، اور معدہ کو طاقت و فروخت بخشتا ہے۔ شربت انگور مقوی معدہ ہونے کے ساتھ ساتھ قے اور متلی کو روکتا ہے۔ ہاضمہ دست کر کے گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرتا ہے۔ صفراء کی تیزی کو ختم کرتا ہے کھانسی میں شربت انگور شیریں مفید ثابت ہوا ہے۔

انگور کے کیمیائی اجزاء

انگور میں ۷۲ فیصد گلوکوز ہوتا ہے۔ اس لئے ذیابیطس کے مریض اسے کم استعمال کریں۔ گلوکوز کو علاوہ اس میں وٹامن بی وافر مقدار میں ہوتا ہے اور کیشیم اور فاسفیٹ بھی بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔

درم طحام (تلی کا بڑھ جانا) میں انگور کارس قوی الاثر ہے۔

انگور کی دو اقسام سے سرکہ، شربت یا رب بھی بنایا جاتا ہے۔ اس کا سرکہ پیشاب کھولنے اور مثانہ کو تقویت دینے میں مدد دیتا ہے اور اس کا نفع خاص یہ ہے کہ پیٹ کی حرابی پگھلاتا ہے بشرطیکہ متواتر استعمال کیا جائے۔

دائی قبض میں دس سے پندرہ دن تک بڑے انگور جن سے بیج نکالا گیا ہو دس دانہ منہ نہار کھانے سے آنتوں کی طبعی حرکات منظم ہو جاتی ہیں اور دائی قبض سے ہمیشہ کے لئے چھنکار امل جاتا ہے۔

بڑا انگور بھوک بڑھاتا ہے اور صاف خون پیدا کرتا ہے فرحت و طاقت دیتا ہے۔

امراض سینہ میں بہت مفید ہے ہوا کی نالیاں کھولتا ہے کھانسی کو روکتا ہے اور گلے کے درم کو اتارتا ہے۔ اس کا متواتر استعمال آواز کو صاف کرتا ہے۔

رس نکالنے کا طریقہ ہے کہ صاف انگور لے کر ان کا چھلکا اور بیج دور کر کے ایک صاف فلائین کا کپڑا لے کر اس میں ڈالیں اور چھان لیں اور تھوڑی دیر بعد نتھار کر ہلکی آنچ پر ابال لیں اور محفوظ کر لیں۔ بوقت ضرورت ایک سے دو چمچ تک استعمال کر سکتے ہیں۔

انگور کا شربت بنانا مقصود ہو تو اس کے رب میں برابر وزن چینی ڈال کر ابال لیں اور چھان کر محفوظ کر لیں۔

انگور کا سرکہ بنانے کیلئے اس کا رس نکال کر کسی برتن میں ہر طرف سے بند کر کے ۴۰ روز تک زمین میں دبا دیں۔ اس کے بعد نکال کر چھان لیں اور استعمال کریں۔

تبخیر معدہ سے نجات کا غذائی علاج

ابونعیم نے عبداللہ بن جعفرؓ سے روایت کی ہے کہ عبداللہ نے کہا، میں نے حضور رسول اللہ ﷺ کو ککڑی یا کھیرا کھجور کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔

علماء نے لکھا ہے اس کے کھانے سے معدہ کا میل دور ہو جاتا ہے اور جلدی مضم ہوتا ہے۔ ککڑی کی ٹھنڈک اور کھجور کی گرمی مل کر معتدل ہو جاتی ہے۔ اور کھجور قوت باصرہ کو بڑھاتی اور بدن میں خون پیدا کرتی ہے۔ گردے قوی ہوتے ہیں۔ بلغم اور سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کھجور کا کھانا بہت مفید ہے۔ اور اگر قدرے پیٹھے کے ساتھ اس کو کھائے تو سنگ مثانہ کیلئے مفید ہے۔ اور کھیرا بول نہ آنے والے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے کھانے سے بول بہت آتا ہے طبیعت طین ہو جاتی ہے۔ صفر اوی مزاج والوں کے لیے اس کا کھانا بہت مفید ہے اور ککڑی خون اور صفر اوی حرارت کو مارتی ہے اور کھٹی ڈکار کے بہت مفید ہے۔ پیاس بجھاتی ہے اور کھجور کی افادیت پر ایک مفصل مضمون پیچھے گزر چکا ہے تاہم کچھ بنیادی باتیں یہاں بھی عرض کئے دیتے ہیں بول اور مثانہ کی پتھری کیلئے بھی مجرب ہے۔ خفقان و خارش بدن کیلئے بھی مفید ہے۔

کھجور پر غذا اور قدرتی اسپرین

لیبیا کے دار الحکومت طرابلس میں کئی سال رہنے کے دوران اندازہ ہوا کہ یہاں

کے لوگ بڑے مہمان نواز، سادہ اور مخلص ہوتے ہیں۔ مہمانوں کی خاطر تواضع میں کوئی کسر اٹھانے نہیں رکھتے۔ میزبانی کے فرائض انجام دینے میں شروعات چاکلیٹ سے ہوتی ہے جو بہت پر تکلف اور خوبصورت طریقے سے پیک ہوتی ہیں۔ پاکستان میں مہمانوں کی خاطر عموماً چائے یا مشروبات سے کی جاتی ہے۔ حالانکہ بیشتر عرب ممالک اور خود پاکستان میں بھی کھجور کثرت سے لگائی جاتی ہے اور بہت سستا پھل ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی خاطر مدارات کا رخ موڑ دیں۔ چائے اور مشروبات کے بجائے مہمانوں کو کھجور پیش کریں جو نہایت نفیس طریقہ سے پیک ہو کر خوبصورت ڈبوں میں چاکلیٹ کی طرح پیش کی جاسکتی ہے۔ یقیناً چائے، چاکلیٹ اور مشروبات کے مقابلے میں کھجور ایک صحت مند غذا ہونے کے ساتھ ساتھ تبرک اور سستی بھی ہے۔

قرآن مجید میں کھجور کا تذکرہ بار بار آیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو دورانِ حمل کھجور کھانے کی ہدایت دی گئی تھی جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ پھل نہ صرف مقوی غذا ہے بلکہ بچے کے لئے بھی انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ روزہ کھولنے کے لئے کھجور کا چناؤ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ فوری توانائی پہنچاتی ہے۔ کھجور سے افطار کرنا سنت نبوی ﷺ اور ہماری قدیم روایت ہے۔ سورہ یسین کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ کھجور کے فائدے بیان کئے گئے ہیں۔

جدید تحقیق نے بھی کھجور کے بے شمار فوائد تسلیم کئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں کھجور کی پیداوار پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ صرف پاکستان میں کھجور کی سالانہ پیداوار 60 ہزار ٹن سے تجاوز کر چکی ہے۔ تاہم ہمارے ہاں بد قسمتی سے اس کا استعمال اتنا عام نہیں ہے، جتنا ہونا چاہئے۔ اصل میں لوگوں کو اس کے بے شمار فوائد کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔

کھجور میں لوہا، پوٹاشیم، نیاں، ریشہ اور بہت زیادہ توانائی موجود ہے۔ اگر اسے دودھ یا پنیر کے ساتھ کھایا جائے تو یہ ایک مکمل غذا ہے۔ اس کے کیمیائی تجزیے سے اس کی افادیت ظاہر ہوتی ہے۔ تقریباً پانچ عدد درمیانی کھجور میں مندرجہ ذیل چیزیں پائی جاتی ہیں۔ توانائی 114 kcal، چکنائی 0.2 گرام (توانائی چکنائی کے ذریعے 1%) پروٹین 0.8 کو لیسٹرول 0، کاربوہائیڈریٹ 30.8 گرام، ریشہ 3.5 (fiber)، سوڈیم 1 ملی گرام، پوٹاشیم 270.6 ملی گرام، لوہا 0.5، نیاں 0.9 (یہ ایک بی کالمپلکس کا وٹامن ہے)

کھجور اور بیماریوں کا تعلق:

کھجور میں موجود پوٹاشیم ہمارے جسمانی پٹھوں اور اعصاب کو مضبوط بناتا ہے۔ اسی لئے بچوں کے لئے اس کا استعمال بہت ضروری ہے۔ اس میں موجود توانائی جو کہ کافی مقدار میں ہوتی ہے، آنتوں میں پہنچنے ہی فوری طور پر خون میں شامل ہو جاتی ہے اور طاقت پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا صحت بخش ہے۔ کیونکہ یہ جسم کی کھوئی ہوئی توانائی کو فوری بحال کرتی ہے۔

کھجور میں موجود ریشہ بہت سی بیماریوں سے نجات دلاتا ہے۔ مثلاً ہاضمہ کے لئے کھجور میں موجود کو لیسٹرول کو اپنے ساتھ ملا کر خون میں جذب ہونے سے روکتا ہے۔ اس طرح خون میں کو لیسٹرول کی مقدار کو کم رکھتا ہے۔ ریشہ دست، پچش اور تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ اس طرح کھجور بد ہضمی سے متعلق بیماریوں میں مفید غذا ہے کیونکہ توانائی بھی مل جاتی ہے اور مرض میں کمی بھی واقع ہوتی ہے۔ کھجور کو قدرتی اسپرین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے استعمال سے سردرد کم ہوتا ہے۔ کیونکہ اس میں موجود بورون (ایک ہارمون اسٹروجن) کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اسٹروجن عام طور پر خواتین میں ماہواری بند ہو جانے

کے بعد کم ہو جاتا ہے اور خواتین اس لئے مردوں کی بہ نسبت جوڑوں کے درد، آسٹیو پورس اور تھرائٹس میں زیادہ مبتلا پائی جاتی ہیں۔
کھجور کے دوسری غذائی اشیاء کے ساتھ فوائد:

کھجور میں وٹامن سی نہیں ہوتا اور اسی لئے اگر اسے سیب، کینو، مسمی، لیموں وغیرہ کے ساتھ کھایا جائے تو نہ صرف وٹامن سی کی کمی پوری ہو جاتی ہے بلکہ کھجور میں موجود فولاد آسانی سے خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ کھجور کو پنیر کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے شکر پہنچنے والے دانتوں پر جم کوان کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لئے پنیر اسے جمنے سے روکتی ہے۔
کھجور کی تہ نہ جم پائے۔

کھجور سے بنی اشیاء

دور جدید میں کھجور سے مختلف قسم کی لاتعداد اشیاء تیار کی گئی ہیں۔ مثلاً ملک شیک، آئس کریم، کھجور کا دہی (یعنی کھجور کو دودھ میں گھول کر پھر دہی جمانا) سو فٹ ڈرنکس کو لا وغیرہ۔ کھجور سے چاکلیٹ کرچی بار بھی بنائے جاتے ہیں۔ کھجور ناشتے میں دودھ اور لٹے کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے۔ اس کے ارکان فلکس بھی تیار کیے جاتے ہیں۔

سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ گھٹلیوں سے پیس کر کافی کے مزہ کا پاؤڈر بنتا ہے، جسے کافی کا متبادل کہتے ہیں۔ غرضیکہ نامعلوم کتنی طرح کی چیزیں گھر میں بھی بنائی جاسکتی ہیں۔ کھیر، کسٹرڈ، چنے کی دال کا حلوا، جیم جیلی جیسے مشروبات وغیرہ میں اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

کھجور ایک مفید، متبرک اور مقوی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس میں بے شمار فائدے پوشیدہ ہیں۔ کھجور سے بنے لذیذ کھانوں کو ہمارے دسترخوان کی زینت بنانا صحت کو مستحکم کرنا ہے۔ صحت سے پیار ہے تو کھجور ضرور کھائیے۔

دماغ کی خشکی اور خارش کا غذائی علاج

ابو حاتم نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ خربوزہ کو کھجور کے ساتھ تناول فرمایا کرتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ کھجور کی گرمی، خربوزہ کی ٹھنڈک کو زائل کر کے معتدل بنا دیتی ہے۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خربوزہ سرد تر ہے اس لئے صفاوی و سوداوی مزاج والوں کے لئے بہت مفید ہے۔ دماغ میں رطوبت پیدا کرتا ہے اور سدوں کو نکالتا ہے۔ اور پیشاب اس سے خوب آتا ہے۔ اور مٹانہ کی پتھری کو نکال دیتا ہے۔

پاکستان میں کھائے جانے والے پھلوں میں خربوزہ سے زیادہ سستا اور کوئی پھل نہیں۔ اس قدر سستا ہونے کے باوجود خربوزے میں بے انتہا غذائیت ہے اور یہ بہت جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ خربوزہ مزے مزے میں ضرورت سے زیادہ بھی کھا جائیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور آپ کی طبیعت تروتازہ رہے گی۔ خربوزہ اگرچہ ایک سستا پھل ہے اور غریب آدمی بھی اسے آسانی سے خرید سکتا ہے مگر اس کی افادیت کا یہ عالم ہے کہ اس پھل کا ہر حصہ انسانی جسم کے کسی نہ کسی حصہ کو ضرور فائدہ پہنچاتا ہے۔

سردا، گرما اور خربوزہ یہ تینوں ایک ہی خاندان کے پھل ہیں۔ اس پھل کی یہ بھی خوبی ہے کہ اس کا مغز اور گودے کے علاوہ چھلکا بھی غذائی اور دوائی ضرورت میں استعمال

ہے۔ گرمیوں کی تپتی دوپہر اور چلپلاتی دھوپ میں مشقت کے بعد جب آپ خربوزہ کھاتے ہیں تو آپ کو سکون پہنچتا ہے۔

خربوزے کی مزاج اور کیمیائی اجزاء

میٹھے خربوزے کا مزاج گرم، ترش خربوزہ سرد تر اور پھیکا خربوزہ معتدل مزاج رکھتا ہے۔ تندرست معدے کے لوگ خربوزے کو ڈیڑھ دو گھنٹے میں ہضم کر لیتے ہیں جبکہ ٹھنڈے مزاج کے بوزھے اسے ہضم کرنے میں تین چار گھنٹے لگاتے ہیں اور انہیں ذکار آتے رہتے ہیں۔

قدرت نے اس پھل میں زمین سے پانی، سورج کی روشنی سے فاسفورس، کپاشیم، پوٹاشیم، کیرے ٹین، تانبا، گلوکوز اور وٹامنز اور بی جمع کردئے ہیں۔ قدرت نے خربوزے میں وٹامن ڈی بھی وافر مقدار میں سودیا ہے جو انسانی جسم کو مضبوط اور موکسی تپش برداشت کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ اس پھل میں گوشت بنانے والے روغنی اجزاء بھی شامل ہیں۔

خربوزہ کھانے کے اوقات

خربوزہ یا دوسرے پھلوں کو ہمیشہ کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہئے یا شام کے وقت کھانا چاہئے۔ خربوزہ خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ تسکین بخش اور جسم کی نشوونما کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ خربوزے کو بھی دوسرے پھلوں کی طرح ہمیشہ کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہئے۔ موسم گرما میں جب شدت کی گرمی ہوتی ہے تو جسم کی تیزابیت بڑھ جاتی ہے ایسے موسم میں اگر خربوزہ شام کے وقت کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا چاہئے کہ خربوزہ اپنے مزاج کے اعتبار سے گرم و تر ہے اور

غذائیت کے ساتھ ساتھ خربوزہ ادویاتی اعتبار سے بھی اپنی چند خصوصیات کا حامل ہے۔ گرمی کی شدت سے جسم میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے۔ اور پیشاب میں جلن پیدا ہو جاتی ہے اور ذرا سی بھی اگر مرغن چیز کھالی جائے تو پیشاب جلن اور سوزش سے آگ لگتا ہے اکثر اوقات تو پیشاب کا رنگ بھی سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قدرت نے دوسرے پھلوں کی طرح خربوزے میں بھی موسمی تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے ایسے کیمیائی نمکیات رکھے ہیں جن سے گردہ، مثانہ اور آنتوں کے فاسد، پیشاب اور پاخانے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب جلن کے ساتھ ساتھ سرخی مائل ہو جائے تو خربوزے کا استعمال اس مرض اور حالت میں مفید ہوگا۔ خربوزہ کھل کر پینہ لائے گا اور پیشاب بھی کھل کر آئے گا۔

گوشت گلانے کا آسان نسخہ

اگر گوشت نہ کھتا ہو تو ایک پاؤ گوشت میں خربوزے کے صرف چھ ماشے چھلکے اس میں ملا کر پکائیں گوشت فوراً گل جائے گا۔

حسن و خوبصورتی

یہ پھل اپنی خوبصورتی اور دلربائی کی بھی ایک خاص ادا رکھتا ہے۔ اس کی ہری بھری نازک کئی کئی کلو وزن میں پر بکھرتی ہیں۔ حکماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ خربوزہ انسانی بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، بھوک کھولتا اور انسانی رنگ اور پھوں کی قدرتی چمک کو برقرار رکھتا ہے شدید بھوک کی حالت میں اگر آپ کو ایک خربوزہ میسر آ جائے تو یہ آپ کی پوری بھوک کا علاج کر دیتا ہے۔

خربوزے کے ادویاتی کرشمے

خربوزے کا سب سے اہم کام معدے، آنتوں اور غذا کی تالی کی خشکی دور کرنا،

آنتوں میں رکے ہوئے زہریلے فضلے کو خارج کرنا، قبض دور کرنا اور جسم کا رنگ نکھارنا ہے۔
یہ پھل پیشاب کے ذریعے زہریلے فضلات کو باہر نکال پھینکتا ہے۔

خربوزے کھانے والے کے گردے صحت مند اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔
اگر مثلاً یا گردوں میں پتھری پڑ جائے تو وہ خارج ہو جاتی ہے۔

عورتیں، جوان لڑکیاں اور خربوزہ

عورتوں اور لڑکیوں کو ایام کے دوران پیشاب کی جلن اور سوزش کی تکلیف ہوتی ہے ان کے لئے خربوزے غذا بھی ہے اور دوا بھی۔

خواتین اگر خربوزے ”ایام“ کے دوران کھائیں تو ان کی ایام کی شکایت دور ہو جاتی ہیں اور ان کے چہرے پر اگر خدا نخواستہ داغ دھبے ہوں تو دور ہو جاتے ہیں۔ دودھ کی کمی ہو تو یہ اس کی کو پورا کرتا ہے۔ یونانی حکماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ایسا سستا اور مفید پھل ہے جو اہم غذائی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور گھر کے کام کاج میں چستی پیدا کرتا ہے۔

گرم مزاج جوان اگر خربوزے کو دوا کے طور پر استعمال کریں تو ان میں تحمل اور بردباری پیدا ہوتی ہے اگر معدے میں ورم ہو تو خربوزہ اسے مندرل کرتا ہے۔

درد گردہ کا خربوزے سے فوری اور شافی علاج

اگر کوئی شخص درد گردہ میں تڑپ رہا ہو تو خربوزے کے ایک تولہ خشک چھلکے ایک پاؤ عرق گلاب میں جوش دے کر اسے چھان لیجئے پھر اس میں تین ماشے کالا نمک ملا کر مریض کو پلایا جائے تو انشاء اللہ فوری افاقہ ہوگا۔

خر بوزے کا لیپ

اگر چہرے پر داغ دھبے ہوں تو خر بوزے کے خشک چھلکے دال موگ یا بیسن میں پیس کو اس کا لیپ بنا لیں اس لیپ کو پتلا کر کے داغوں پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے اور کیل مہا سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر خر بوزے کے بیج ایک چھٹانک پانی میں رگڑ کر یا پیس کر ان کا شیرہ، گڑ کے چاولوں میں ملا کر پکایا جائے تو اس کے کھانے سے بدن کا رنگ نکھرتا ہے۔ داغوں میں کمی واقع ہوتی ہے اور خوب نیند آتی ہے۔

اسی طرح خر بوزے کے خشک چھلکے، دال موگ یا بیسن ہم وزن لے کر اور دہی میں ملا کر پتلا پتلا لیپ بنا کر چہرے کے کیل اور دھبوں پر لگایا جائے تو داغ غائب ہو جاتے ہیں اور چہرہ نکھرتا ہے۔

خر بوزے کے بیج، منقی کے چند دانے، کھیرے کے چند خشک بیج، مغز، کدوان سب کو برابر برابر وزن میں لیجئے۔ پھر اسے پیس کے چھان لیجئے اور شکر ملا کر نہار منہ اس کا شربت بنا کر پیجئے تو دل و دماغ کی گرمی کم ہوگی اور طبیعت بحال رہے گی۔

خر بوزے کے عام خواص

﴿ رگوں میں جلد نافذ ہوتا ہے۔

﴿ تری پیدا کرتا ہے اور بدن کو فربہ کرتا ہے۔

﴿ سدہ کھولتا ہے۔

﴿ گردے کی اصلاح کرتا ہے اور پیشاب خوب لاتا ہے۔

﴿ پتھری نکالتا ہے۔

﴿ دودھ بڑھاتا ہے اور پسینہ بھی لاتا ہے۔

﴿ استقا اور یرقان کو نافع ہے۔

﴿ صبح کے وقت کھانے سے صفراوی بخار پیدا کرتا ہے اور ایسا بلغم پیدا کرتا ہے جو صفراویت کی طرف مائل ہو۔

﴿ جو حصہ بیجوں کے قریب ہوا سے کھائیں اور جو چھلکے کے قریب ہو وہ نہ کھائیں۔

﴿ نہار منہ کھایا جائے تو وہ معدے کے اجزا سے طار ہتا ہے متلی اور قے لاتا ہے اور معدے کے منہ کو کمزور کرتا ہے۔

﴿ خربوزہ کھانے کا بہترین وقت دو کھانوں کے درمیان ہے۔

﴿ مقوی باہ ہے۔

﴿ کھانا کھا کر خربوزہ کھانا بدبضعی پیدا کرتا ہے۔

﴿ اور خربوزہ کھانے کے بعد کھانا کھانے سے وہ اس کو فم معدہ سے جلد نکال دے گا۔

﴿ اس کے سونگھنے سے سانس میں قوت آتی ہے اور دماغ میں سردی پہنچتی ہے۔

﴿ اس کے چھلکے کا لپ چھائیاں مٹاتا ہے۔

﴿ سردی یا برف سے آنکھ میں ورم پیدا ہو جائے تو اس کے چھلکے اور بیجوں کی دھونی سے نفع ہوتا ہے۔

مقدار خوراک: بقدر ہضم

مصلح: سککجبین

خربوزے کے بیج

﴿ جگر کا سدہ کھولتے ہیں

﴿ پیشاب زیادہ لاتے ہیں گردے مٹانے اور آنت کو صاف کرتے ہیں۔

﴿ پیشاب کی سوزش کو مٹاتے ہیں۔

آلہ تناسل کو خوب کھڑا کرتے ہیں منی زیادہ پیدا کرتے ہیں۔

پاخانہ صاف لاتے ہیں۔

غیر مقررہ بیجوں کا چہرے پر لپ رنگ کو صاف کرتا ہے چھائیاں دور کرتا ہے

سینہ اور ورم جگر اور حلق کی خشونت کو مفید ہیں۔

پھیکے خربوزے کے بیج گرم اور مرکب بخاروں کو نافع ہیں۔

ان کی بیٹکوں کو کھانے سے بدن فریب ہوتا ہے۔

ان کی بیٹکوں کو کالی مرچ اور مصری کے ساتھ پینے سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔

مقوی باہ ہے۔

چہرے کی سیاہی کو زائل کرتا ہے۔

ان کے بیجوں کو سکھا کر بوتل میں بھر کر مضبوط کاک لگا دیں کہ جس میں ہوانہ پہنچ

سکے جن دنوں میں خربوزے نہ ملیں ان دنوں میں ان بیجوں کو کاکھام میں لانے سے اتنا ہی

فائدہ ہوتا ہے جتنا خربوزے سے۔

مقدار خوراک: 17 ماشے سے 1 تولہ تک

اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی ضروریات اور تقاضوں کے مطابق پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں۔

موسم گرمی میں خربوزے اور تربوز اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانا

چاہئے خربوزے میں گلوکوز کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس لئے اسکے کھانے سے وزن

بڑھتا ہے۔ لہذا یہ کمزور اور لاغر جسم کے لوگوں کے لئے بہت مفید ہے۔

خربوزے کا مزاج گرم تر ہوتا ہے لیکن یہ فرحت اور طراوت بخشتا ہے یہ پیشاب آور ہے اگر

کسی وجہ سے پیشاب رک رک کر آتا ہو تو خربوزے بہت مفید ہوتے ہیں مثلاً یہ یا گردے

میں کسی وجہ سے پتھری بن گئی ہو یا چھوٹے چھوٹے ذرے رک گئے ہوں تو خربوزے

کھانے سے یہ ذرات نکل جاتے ہیں۔ چونکہ ان کا مزاج گرم تر ہے لہذا ان کا زیادہ استعمال گرمی کرتا ہے۔

خر بوزہ قبض کشا ہوتا ہے اس لئے انہیں اعتدال کے ساتھ کھانا چاہئے خر بوزہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کا ہر حصہ مفید ہے اس کے چھلکے ابال کر پینے سے گردے اور مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ بشرطیکہ بہت چھوٹی ہو۔ اسی لئے تمام اطباء اس کے چھلکوں کو سکھا کر محفوظ کر لیتے ہیں۔

اس کے بیج بھی بہت مفید ہیں ان کی تاثیر سرد ہے۔ انکا تیل بھی نکالا جاتا ہے جسے دودھ میں ملا کر پینے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے دماغ کی قوت کے لئے تیار کئے جانے والے گھریلو نسخوں میں چاروں مغزا کثر استعمال ہوتے ہیں۔ ان چاروں مغزوں میں ایک جزو خر بوزہ کے بیج ہیں۔

خون صاف کرنے کا غذائی علاج

صاحبِ شرعہ الاسلام نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ہر انار میں ایک قطرہ جنت کے پانی کا ضرور ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباسؓ بیان فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا یہ انار جہاں کہیں بھی ہے یہ جنت کے دانے سے قلم لگایا ہوا ہے قرآن حکیم نے سورہ رحمن میں دوسرے پھلوں کے ساتھ اس طرح ذکر کیا ہے۔

1- فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۝

ترجمہ: ان دونوں جنتوں میں پھل، کھجوریں اور میٹھے انار ہوں گے۔

2- وَجَنَّتْ مِنْ اَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّمَّانِ مِثْشَبًا وَغَيْرِ مِثْشَبٍ اَنْظُرْ و

الْحَلِي ثَمَرِهِ وَيَنْبَعُ اَنْ فِي ذَلِكُمْ لَا يَتَّ لِقَوْمٍ يَتُونِ ۝ (الانعام: ۹۹)

(اور۔ وہاں پر باغ ہیں جن میں انگور، زیتون، اور انار ہیں۔ ان میں سے کچھ

ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس میں ملتی بھی ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اپنی شکل اور ذائقہ میں مختلف ہیں۔ تم توجہ دو اور غور کرو پھلوں پر ان میں خدا کی قدرت کے کرمے نظر آتے ہیں)

3- وَهُوَ الَّذِي اَنْشَأَ جَنَّتْ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلِ

وَالزَّرْعِ مِخْتَلِفًا اَكْلَهُ وَالزَّيْتُونِ وَالرَّمَّانِ مِثْشَبًا وَغَيْرِ مِثْشَبٍ - كَلُوا مِنْ

ثمره اذا اثمرت و احقہ يوم حصادہ - ولاتسرفوا ہ انہ لایحب المسرفین

(انعام: ۱۴۱)

(تمہارا رب وہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے مختلف اقسام کے باغات بنائے ہیں، جن میں رنگ برنگ کی فصلیں جیسے کہ کھجور، زیتون اور انار آگتے ہیں۔ ان کی شکلیں اور ذائقے آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی، اللہ کے دیے ہوئے ان پھلوں کو اس وقت خوب کھاؤ جب وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن ان میں سے حقداروں یعنی غریب رشتہ داروں اور ان لوگوں کو جو انہیں خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کا حصہ ضرور دو۔ اور اسراف نہ کرو۔ غالباً اس سے مراد تنہا خوری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا)

احادیث نبوی ﷺ میں ذکر

1- حضرت انس بن مالکؓ روایت فرماتے ہیں:

انہ سأل من رسول ﷺ عن الرمان فقال مامن رمانة الا وفيه

حبة من رمان الجنة (ابو نعیم)

(میں نے ﷺ سے انار کے بارے میں پوچھا حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسا

کوئی انار نہیں ہوتا کہ جس میں جنت کے اناروں کا دانہ شامل نہ ہو)

2- انہ بلغنی ان لیس فی الارض رمانة تلقح الابحیة من جب الجنة

فلعلہا نہ (ذہبی)

(مجھے یہ خوشخبری میسر ہے کہ زمین پر ایسا کوئی انار نہیں ہوتا ہے کہ جس کے دانوں

میں جنت کے اناروں کے دانوں کی پیوند نہ لگی ہو۔)

3- اور علاوہ ذہبی نے یہ روایت سند کے بغیر روایت کی ہے:

ما اكل رجل رمانة الا ارتد قلبه اليه - وهرب الشيطان منه -

(جب بھی کسی نے انار کھایا اور شیطان اس سے بھاگ گیا)

4- حضرت علیؓ بیان فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

كلو الرمان بشحمه فانه دباغ المعدة (ابن القيم)

(انار کھاؤ اس کے اندرونی چھلکے سمیت کہ یہ معدہ کو حیات نو عطا کرتا ہے،)

5- محمد احمد ذہبی نے سند کے بغیر حضرت علیؓ سے یہ روایت منسوب بھی کی ہے:

من اكل رمانة نور الله قلبه -

(جس نے انار کھایا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دے گا)

انار ایک بین الاقوامی پھل ہے ہماری منڈیوں میں اس کی تین قسمیں فروخت

ہوتی ہیں۔ بیٹھا انار ترش اور بے وانہ، میٹھا انار پاکستان بھر میں ہوتا ہے۔ ترش قدھار اور

بے دانہ کابل سے آتا ہے یونانی حکیموں نے اس پر ریسرچ کر کے اس کے دانوں کا پانی، بیج

اور پھل کا چھلکا اپنے فارما کو پیما میں داخل کیا ہوا ہے اس کا مزاج سرد ہے اور اس میں کوٹ

کوٹ کر غذائی اور شفائی اثرات بھرے ہوئے ہیں، اس میں گوشت بنانے والے اور روغنی

اجزاء کے ساتھ کیلشیم، پوٹاشیم، فاسفورس، فولاد اور ہائیڈروکلارک ایسڈ موجود ہوتے ہیں۔

نشاستہ دار اجزاء اس میں کم ہوتے ہیں۔ اس میں وٹامنز اے، بی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے

ایک پاؤ پانی میں دو چمباتوں کے برابر غذائیت ہوتی ہے اس میں شامل نمک کا تیزاب معدہ

کو طاقت دینے اور غذا ہضم کرنے میں بے مثل اثر رکھتا ہے، یہ دل کو طاقت دیتا، جوانوں

اور گرم مزاج والوں کے معدہ کو مضبوط بناتا، معدے کے بخارات روکتا غذا کو جلد ہضم کرتا،

جگر اور آنتوں کو طاقت دیتا، عمدہ خون بناتا، ورم جگر، یرقان درد سینہ، گرم کھانسی اور تلی کے

امراض میں ایک مفید غذا اور دوا ہے، انڈے پھلی اور شراب کی خرابی دور کرتا ہے اور بخار آنے لگے تو اس کا پانی ایک سے تین چھٹانک تک دن میں چند بار پینا بے چینی دور کرتا ہے اور بخار کا زور کم کر دیتا ہے، میٹھا نار، نزلہ اور گلے کی خراش روکتا اور آواز صاف کرتا ہے پیاس بجھاتا اور صفرا کے غلبے کو کم کرتا ہے۔ کثرت سے استعمال کرتے رہنے سے بدن کی سفیدی اور زرردی دور ہو کر ہنرخی دوڑنے لگتی ہے۔

معدہ کی کمزوری اور سردی کی وجہ سے جب ہونٹ سفید ہو جائیں تو اس کو زیادتی میں استعمال کرنے سے سرخی کی جھلک آ جاتی ہے۔

اس کے پانی کو چھان کر اس میں پانچواں حصہ شکر اور دسواں حصہ سونف باریک کر کے بوتلوں میں بھر کر مگر بوتل کا تیسرا حصہ خالی رہے ایک ہفتہ دھوپ میں رکھ کر روزانہ تین چار مرتبہ ہلاتے رہیں ایک ہفتہ گزرنے کے بعد اسے چھان کر محفوظ کر لیں، روزانہ تین تو لے سے دس تو لے تک چند روز استعمال کرنے سے دل جگر مضبوط اور صحت قابل رشک ہو جاتی ہے، بد ہضمی دست اور ہمیشہ پتلا پاخانہ آنے والوں کو کثرت سے اس کا استعمال کرنا چاہئے۔

جب دست زیادہ آتے ہوں تو چھلکے سمیت اس کا پانی نکال کر آدھ سے دو چھٹانک تک دو دو گھنٹے بعد پینے سے خدا کے فضل سے صحت ہو جاتی ہے۔

ایک پاؤ وزنی اتار کے سر میں سوراخ کر کے کچھ دانے نکال کر ایک چھٹانک بادام روغن اس میں ملا کر پندرہ منٹ بالکل ہلکی آگ پر گرم کر کے رکھ لیں۔ ان دانوں کو چوسنے سے سینے کی درد اور پرانی کھانسی چند روز میں دور ہو جاتی ہے۔

اس کے دانوں کا پانی اور گل روغن ایک ایک چھٹانک ہلکی آگ پر پکائیں جب پانی جل کر روغن باقی رہے تو آگ سے اتار کر شیشی میں محفوظ کر لیں اس روغن کو کان میں

ڈالنے سے درد کو فائدہ ہو جاتا ہے اور ناک کے اندر لگانے سے اس کی پھنسیاں دور ہو جاتی ہیں۔

اسکے پانی سے غرغره کرنے سے حلق کی سوجن بہت جلد اتر جاتی ہے۔
 نکسیر والے کو اس کے پتوں کا پانی پینے سے خون بند، ریاح دور اور طبیعت میں سکون آ جاتا ہے، حاملہ عورتوں کی قے بند کرنے کیلئے نہار منہ اس کا پانی برف سے ہلکا ٹھنڈا کر کے پینا قے بند کرتا ہے۔

اناردانہ، سونف اور ہلیہ سیاہ تینوں ایک ایک چھٹانک پہلے ہلیہ سیاہ اور سونف کو باریک کر لیں پھر اناردانہ کو ثنا شروع کریں اور تھوڑا تھوڑا ہلیہ اور سونف کا سفوف ڈال کر کوٹے اور چھانتے جائیں سارا اناردانہ پس جائے تو تینوں کو ملا کر شیشی میں رکھ لیں۔ ایک سے چھ ماشے تک اس کی خوراک ہے۔ دست، بد ہضمی اور ہچکوش خواہ کتنی ہی سخت ہو۔ دن میں دو تین خوراک دیں، چائے یا ہنقہہ کے شربت کے ساتھ استعمال کرنے سے فوری افاقہ ہوتا ہے۔

انار کا چملا جیسے ہم بے کار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں بڑے کام کی چیز ہے، یونانی حکیموں کی دور بین نگاہوں نے اپنی ریسرچ میں اسکے اندر گیملک ایسڈ ہونے کی وجہ سے اسے پرانے سے پرانے زخموں کو بھرنے کے لئے مفت کی دوا سمجھتے ہوئے اپنے فارما کو بیجا میں داخل کیا ہوا ہے یہ ترش پھل حقوی معدہ ہے، آنتوں کے زخم اور ورم اس کے استعمال سے بفضل خدا درست ہو جاتے ہیں اس کے استعمال سے کچھوڑے (بڑے بڑے کیڑے جسے عوام مہیپ) کہتے ہیں بدن سے مگر خارج ہو جاتے ہیں، جب منہ آجائے اور زبان حلق زخموں سے بھر کر کھانا پینا مشکل ہو جائے تو ایک تولہ انہال (انار کا چملا) آدھ سیر پانی میں جوش دے کر اسے دن میں دو تین دفعہ کلیاں کرنے سے زبان اور تالو کی سوجن دور اور

منہ سے پانی کا بہنا بند ہو جاتا ہے، جب بواسیر کا خون جاری ہونے سے پاخانہ کی جگہ درد کرنے لگے یا سے پھول کر بیٹھنا اٹھنا مشکل ہو جائے تو اس کاڑھے سے آبدست کرنا فائدہ تسکین کی صورت پیدا کر دیتا ہے۔ بچوں میں عموماً اور بعض دفعہ بڑوں میں کانچ نکلنے کی بیماری ہو جاتی ہے جس میں مقعد (پاخانے کی جگہ) باہر نکل جاتی اور چلنے پھرنے میں دقت ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اس کا چھلکا پس کر دی جاوے چار چند میں ملا کر چند روز صبح و شام لگانے سے صحت ہو جاتی ہے۔ پرانے رسنے والے زخموں پر نسیپال جلا کر آٹھ حصے مکھن ملا کر چند روز لگاتے رہنے سے خدا کے فضل سے شکار ہو جاتی ہے۔

جب لمبے لمبے کیڑے پیٹ سے نکلے ہوں اور مریض دن بدن کمزور ہو جائے تو آدھ سے ایک چھٹا تک تک کھٹے انار کا چھلکا اور خشک شاہ توت تین پاؤ پانی میں تین چار بار جوش دے کر مل چھان کر اس کا پانی ایک پاؤ شام پانچ بجے پلا دیں اور ایک پاؤ صبح نماز سے فارغ ہونے پر پلائیں اس کے دو گھنٹے کے بعد مریض کو آدھ سے ڈیڑھ چھٹا تک روغن بید انجیر (مشہور کیسٹر آئل) یا ایک چھٹا تک گلقد میں دو تین رتی ستمو نیا پس کر ملا کر سونف کے عرق کے ساتھ کھلانے سے زندہ اور مردہ مہپ (لمبے کیڑے) خارج ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد ایک ہفتہ تک روزانہ صبح کشتہ فولاد ایک دورتی، کشتہ ابرک اس کے برابر صبح دودھ یا دہی کی لسی کے ساتھ کھلائیں، کھانے کے دونوں وقت بعد ایک جوارش جالینوس تین سے چھ ماشے تک کھلائیں اور شام کو جب جدید ایک دو گولی انار یا بیٹھوں کے پانی کے ایک دو چھٹا تک کے ساتھ کھلا کر آٹھویں دن دوبارہ نسیپال اور شاہ توت کا جو شانہ پلائیں اس طرح دو تین دفعہ یہ عمل کرنے سے ہمیشہ کے لئے کیڑوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔

اس کے بیج یعنی انار دانہ ایک چھٹا تک متقی بیج نکالا ہوا ایک چھٹا تک اور سیاہ زیرہ دو تولے پس چھان کر تین سے چھ ماشے تک صبح و شام کھانا، معدہ کو طاقت دینا غذا ہضم کرتا،

کھئے ڈکاروں اور بدہضمی کو خدا کے فضل سے چند روز میں دور کر دیتا ہے۔ ایک تولہ ترش انار دانہ ڈیڑھ چھٹانک پانی میں رات کو بھگو کر صبح ہلکا جوش دے کر چھان کر اس میں ایک ماشہ پھٹکری اور دورتی افیون خام ملا کر ایک گھنٹہ بعد نتھار کر شیشی میں بند کر لیں یہ آنکھ دکھنے کے لئے ایک عمدہ بے ضرر روشن بن گیا۔

انار دانہ ایک تولہ، فلفل دراز (مگھ پہلی) چھ ماشے، مرچ سیاہ تین ماشے اور جو کھا رڈیڑھ ماشہ سب کوٹ چھان کر شربت بنقشہ ملا کر گولیاں مٹر کے دانے کے برابر بنا لیں۔ یہ گولیاں دن میں دو تین دفعہ چائے یا شربت اعجاز کے ساتھ کھانے سے پرانی بلغمی کھانسی اور کالی کھانسی چند دنوں میں کافور ہو جاتی ہے۔

پیشاب میں شکر روکنے کے لئے ایک تولہ برادہ چاندی کو کھراں میں ڈال کر ترش انار کا تین چھٹانک پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھراں کرتے کرتے جب پانی خشک ہو تو چاندی کا روپیہ برابر نکیہ بنا کر مٹی کی دو پیالیوں میں بند کر کے منہ کو اچھی طرح مٹی سے بند کر کے پیالیوں پر چکنی مٹی کی تہ چڑھا کر خشک ہونے پر پانچ سیر تھاپیوں کو گڑھا میں رکھ کر درمیان میں یہ پیالیاں رکھ کر آگ لگا دیں۔ صبح احتیاط سے چاندی ہی کی نکیہ نکال کر دو بارہ انار ترش کے پانی میں کھراں کر کے اسی طرح سات آگ دینے پر خوشنما ہلکے زرد رنگ کا کشتہ چاندی تیار ہو جائے گا۔ یہ کشتہ دل کو طاقت دیتا ہے، زیادتی پیشاب اور ذیابیطس کی شکر اور زیادتی پیاس کو دور کر دیتا ہے خوراک اس کی آدھی سے چار رتی تک دودھ دہی یا مکھن کے ساتھ دن میں ایک دو دفعہ دی جا سکتی ہے۔

ایک تولہ برادہ فولاد، ترش انار کے ۱۰ اتولے پانی میں کھراں کر کے پانی خشک ہونے پر چاندی کی طرح نکیہ بنا کر دس دس سیر تھاپیوں کی تین آگ دنے کر چوتھی اور پانچویں آگ میں چھ ماشے نوشادر ملا کر آگ دیں تو خون کے رنگ کا کشتہ فولاد تیار

ہو جائے گا جو کمی خون اور ضعف جگر میں ایک سے چار رتی تک صبح و شام دہی کی لسی یا دودھ چائے کے ساتھ چند روز میں جگر مضبوط اور رنگ سرخ ہا جاتا ہے۔

دل و دماغ کی کمزوری ختم کرنے کا غذائی علاج

حضرت ابو نعیم نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک سب سے پیارا کھانا ٹرید تھا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہؓ کو تمام عورتوں پر ایسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسی ٹرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔

روٹی شوربہ میں بھگو کر کھانے کو ٹرید کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ کھانا قلب و دماغ کو تقویت دیتا ہے اور زود ہضم ہے اور اگر ایک سیر بھجوریں بھگو کر اوپر سے تھوڑا سا مکھن ملا دیا جائے تو اس کو ٹرید کہتے ہیں۔

”ٹرید“ حضور رسول خدا ﷺ کا ایک نہایت محبوب ترین کھانا تھا۔ اس کے بارہ میں ہم حضور ﷺ کے قرہمی عزیز صحابی حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت نقل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ أَحَبَّ الطَّعَامِ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ التَّرِيدُ مِنَ الشَّجْبِزِ وَالتَّرِيدُ مِنَ الْحَمِيسِ۔

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حضور رسول خدا کا محبوب ترین کھانا (ان پر اللہ کا درود و سلام ہو) ”ٹرید“ تھا۔ ”حمز“ سے تیار کیا ہوا بھی

اور ”حیس“ سے تیار شدہ بھی۔ (ابوداؤد۔ مشکرۃ شریف)

۱۔ ”ثرید من الخبز“۔ یعنی روٹی کے ٹکڑے سالن میں اس طرح بھگلوائے جائیں کہ وہ خوب تر ہو جائیں۔ مثلاً شوربے یا پتلی دال میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر انہیں نرم کر لیا جائے۔ اس طرح چبانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ غذا نرم اور زور ہضم ہو جاتی ہے۔

۲۔ ”ثرید من الحیس“۔ یعنی حیس کا ثرید جو کہ ستو میں کھجور، پنیر اور گھی ملا کر مالیدہ کے مانند تیار کیا جاتا تھا۔ مقصد اس سے بھی یہی تھا کہ غذا نرم ہو جائے اور اسے چبانے کی چنداں ضرورت نہ رہے اور ہضم کرنے میں بھی دشواری نہ ہو۔ اول تو ستو بجائے خود زود ہضم اور دافع امراض ہے اور پھر اس طرح تیار کرنے سے اور بھی مفید ہو جاتا ہے۔ یہ ثرید حضور ﷺ کا مرغوب ”حلوہ“ تھا۔

بدن کی کمزوری دور کرنے کا غذائی علاج

کتاب الطب میں حضرت ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کی ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ گوشت تمام سالنوں کا سردار ہے دنیا اور آخرت میں اور کتاب الطب میں حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا اے لوگو! گوشت اختیار کرو اور گوشت خوب کھایا کرو کیونکہ گوشت کھانے سے حلق اچھا رہتا ہے۔ اور رنگ کو صاف کرتا ہے اور پیٹ کو گھٹاتا ہے یعنی گوشت کھانے والے کی توخیم نہیں نکلتی اور حضرت علیؓ نے فرمایا کہ جو شخص چالیس روز تک گوشت نہ کھائے اس کا حلق بڑا ہو جاتا ہے اور کتاب الطب ہی میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا گوشت کھانے کے وقت دل کو فرحت ہوتی ہے۔

حضرت ابو نعیم نے لکھا ہے کہ ایک بار رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حضور بدن کے ضعف کی شکایت کی جو اب ملا کر شیر میں پکا کر کھایا کرو۔

موجودہ گرانی نے خوراک کے بارے میں معاشرہ کو کافی پریشان کر رکھا ہے کنبہ کے ذمہ دار ارکان دن رات خون پسینہ ایک کر کے سو روپے اگر کمالائیں تو گھر کے افراد کے پیٹ بھرنے کیلئے بدن پرورد غذا مشکل ہو رہی ہے۔ پرانے مسلمان طبیبوں نے کھانے پینے کی مختلف چیزوں پر خوب تحقیق کر کے ہر دور میں معاشرہ کیلئے سستی اور بدن پرورد غذا کا ایک

عمدہ نقشہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے جس کی مدد سے ہمیں غذاستے داموں بھی مل سکتی ہے اور ہمارے بدن کی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت ہونے کے علاوہ طاقت اور بیماریوں کا مقابلہ کرنے کیلئے قوت مدافعت بھی حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان بھر میں بھیڑ، بکرے اور دنبے کا گوشت 150 روپے، مرغ 80 روپے، مچھلی 80/90 روپے اور گائے بھینس کا گوشت 80 روپے کل فروخت ہو رہا ہے۔

کھاتے پیتے بھائی چھوٹے یعنی بکرے کے گوشت کو پسند کرتے اور اللہ کے فضل والے مرغ اور چوزے سے نیچے اترا پسند نہیں فرماتے۔ مچھلی کی بھی اندرون ملک اور باہر بھیجنے کیلئے کافی مانگ ہے بڑے گوشت کو اکثر کم آمدنی والے اور محنت و مشقت کرنے والے استعمال کر رہے ہیں قدیم اطباء نے چھوٹے گوشت کو بجا طور پر لطیف اور جلد ہضم ہونے والا اور بڑے گوشت کو ثقیل اور دیر ہضم ہونے والا قرار دیا ہے۔

اطباء کی قابل قدر تحقیق کے مطابق موجودہ غذائی اجزاء کا جائزہ لینے والے ماہرین ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک چھٹانک گائے کے بھنے ہوئے گوشت کو کھانے سے ہمیں چار سو غذائی حرارے یعنی بدنی گرمی تاپنے والے جوہر حاصل ہوتے ہیں جب کہ اس کو شوربا دار بنانے سے دو سو حرارے ملتے ہیں مولے آنے کی روٹی ایک چھٹانک ہمیں دو سو حرارے دیتی ہے۔ مکھن نکلا ہوا دہی کی لسی گاؤں میں مفت اور شہر میں چائنی کی لسی کے نام پر ایک دو روپے میں ایک گلاس پاؤڈر یا پاؤڈر والا مل جاتا ہے اس ایک چھٹانک لسی سے ہمیں سولہ سو حرارے مل جاتے ہیں۔ پالک یا با تھویا چولائی یا سرسوں میں سے کوئی ایک یا دو تین ملا کر کھالیں تو اس ایک چھٹانک کچی سبزی سے پچیس تیس حرارے مل جاتے ہیں۔ یہ بات تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ بڑا گوشت بائے بادی ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ریسرچ کے کس قدر ماہر تھے کہ انہوں نے دنیا کو حقیقت بتائی کہ بڑا گوشت زیادہ غذائی اجزاء سے مالا مال

ہے۔ اس میں رطوبت یعنی تری زیادہ ہوتی ہے۔ صدیوں سے پرانے حکیموں نے اس بات کو رواج دیا ہے کہ بڑے گوشت کو شوربے کی بجائے بھون کر کھانا چاہئے تاکہ اس کی پوری غذائیت سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ آج کا جدید سائنس دان رطوبت اور بیدار غذائی اجزاء کو پروٹین یعنی لحمی اجزاء کا نام دے کر ایک جدید تحقیق بتلا رہا ہے حالانکہ پرانے حکیم بدن پرور رطوبت کو اچھی طرح سمجھتے تھے اور وہ زیادہ رطوبت والی غذا کو دوسرے تیسرے اور چوتھے درجے میں گرم تریا سرد تریا کر اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں۔ محدود آمدنی والے لوگوں کے لئے ایک پاؤ بھنا ہوا گوشت جس میں معمولی گھی، ڈالڈایا کوئی تیل سرسوں، بنولہ، کھوپرہ اور تل کا تیل ملا کر مرچ مصالحہ اور برائے نام پانی ملا کر بھون لیا جائے دو روٹیاں ایک پاؤ آنے والی، آدھ پاؤ کچی سبزی یا پاؤ بھراہلی ہوئی سبزی اور ایک لسی کا پیالہ، ایسی غذا تیار ہوگی جس سے دن بھر کی ٹوٹ پھوٹ ختم ہو جائے گی۔ اور صحت مند چستی آپ کے قدم چومے گی۔ پاؤ گوشت نے ہمیں سولہ سو، پاؤ وزنی روٹیوں نے آٹھ سو، ڈیڑھ پاؤ چائی کی لسی نے چھیانوے اور آدھ پاؤ کچے ساگ پات نے پچاس حرارے یعنی بیسٹ کلوریز دے دیئے ہیں۔

اس قدر غذا اگر ہم نے استعمال کر لی تو کل دو ہزار پانچ سو پچاس حرارے ہمیں حاصل ہو جائیں گے ایک دفتری اور کاروباری آدمی کو دن بھر کے لئے دو ہزار حرارے درکار ہیں اور محنت مزدوری کرنے والے لوگوں کے لئے تین ہزار حراروں کی ضرورت ہے۔ دس پندرہ سال کی عمر کے بڑھنے پھولنے والے بچوں کو ایک ہزار چھ سو حرارے پورے دن کے لئے کافی ہیں گوشت خریدتے وقت بابو کلاس دوکاندار سے کھیرے یعنی بڑے دانت کے بغیر سے چار دانت والے جانور کا گوشت خریدیں۔ محنت مشقت کرنے والے لوگ ہر عمر والا گوشت کھا کر ہضم کر سکتے ہیں۔

بین الاقوامی منڈیوں میں گائے، بھینس، ہرن، نیل گائے، خرگوش، مرغ، بئیر، تیترا اور زنگارنگ حلال گوشت فروخت ہوتے ہیں۔ مگر بکری کا گوشت دنیا بھر میں ہر گوشت سے زیادہ مقدار میں فروخت ہو کر ہمارے بدن کی غذائیت کے کام آتا ہے۔ پرانے یونانی حکیموں نے اسے انسانی بدن کے لئے نسب سے زیادہ مفید اور معتدل قرار دیا ہے۔ مالک الملک کا کس قدر احسان ہے کہ روزانہ کروڑوں بکرے بکریاں، دنبے اور بھیڑیں ذبح ہو کر ہماری غذا میں استعمال ہوتے ہیں۔ مگر اس کی نسل روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ میدانی علاقوں میں بسنے والوں کے لئے بکری، بکرے اور پہاڑی علاقوں کے لئے دنبہ، چھتر اور بھیڑ کا گوشت زیادہ مناسب ہے۔ چھ ماہ کے بچے کا گوشت زیادہ رطوبت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اور چالیس دن کا بچہ تو بٹیر اور تیترا ہی سمجھنا چاہئے۔ اس کے گوشت کا مزاج گرم تر اور اس میں سترہ فی صد پروٹین (گوشت پیدا کرنے والے اجزاء) چار فی صد روغنی اجزاء ایک فی صد معدنی نمکیات، فولاد دو فی صد اور تھوڑی مقدار میں فاسفورس اور چونے کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ پانی اکہتر فی صد، ریشہ دار اور نشاستہ دار اجزاء اس میں نہیں رکھے گئے۔ حیاتین الف اور ب بھی اس گوشت میں موجود ہوتے ہیں۔ اور ایک چھٹانک میں ایک سو دس حرارے بھی قدرت نے رکھ دیئے ہیں۔ نشاستہ دار ساخت نہ ہونے کی وجہ سے اناج کے مقابلے میں آج کل گیس اور اچھارہ کے ستائے ہوئے مریضوں کے لئے نرم گوشت کا شوربا اور بخنی زیادہ موافق آتی ہے۔ گرم ملکوں، گرم طبیعت والوں، کمزوروں، بیماری سے اٹھے ہوئے اور سل کے مریضوں کے لئے سبزی ملا کر بکری کا گوشت ایک نعمت خداوندی ہے۔ کمزور اور بوڑھے جانور کے گوشت میں غذائی اجزاء کم ہوتے ہیں۔

عمر، پلے ہوئے موٹے جانور کا گوشت خریدنا اپنے مال کا صحیح خرچ سمجھنا چاہئے کھیرے (بے دانت والے) سے لے کر چار دانت یعنی دو سال تک کی عمر کے جانور کا

گوشت جلدی گل جاتا ہے۔ لذیذ اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں کیشیم اور روغنی اجزاء زیادہ ہوتے ہیں۔ بوڑھے جانور کا گوشت گہرے سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔

چوٹ لگنے، حادثہ ہونے یا گر پڑنے سے بدن کے کسی حصے کو درد، تکلیف یا ورم ہو جائے تو بکرے، بکری کا گوشت کھانے اور اس حصے پر قیمہ کر کے باندھنے سے آرام ہو جاتا ہے۔

چوٹ والی جگہ پر کھال نم گرم لپیٹنے سے ورم دور اور درد میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کوڑے لگنے سے کتنی ہی سخت درد اور ورم ہو جائے گرما گرم گوشت باندھنے اور کھال لپیٹنے سے سب تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ جب کسی مریض کو سر سام ہو جائے۔ یعنی تیز بخار اور مریض حواس کھو بیٹھے اور یہودہ باتیں کرنے لگے اور بستر سے اٹھ کر بھاگے تو بکری کے بچے کے سر کا چمڑا گرما گرم مریض کے سر پر لپیٹنے سے منٹوں میں بخار کم، ہوش، بحال اور مریض بے مقصد بولنا کم کر دیتا ہے۔

دماغ کی کمزوری، کھوپڑی کی خشکی، سختی اور سر کے بال جھڑنے کے لئے دو سے بارہ ماہ تک کے جانور کا بھیجا نکال کر سر پر ملنا، تری پیدا کرتا، دماغ کی بلکہ ہر حصہ بدن کی سختی، خشکی اور لاغری دور کرتا ہے۔ چھوٹی عمر کے جانور کا بھیجا (دماغ) زیادہ فائدہ مند ہے۔ بعض افراد کو آنکھ کی خشکی اور تڑپنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے حضرات بکرے کا حرام مغز چند روز لگائیں اور جو اہر مہرہ دو چار چاول دودھ کے ساتھ کھائیں تو انشاء اللہ صحت ہو جائے گی۔

نظر کی کمزوری دور کرنے کیلئے اس کے پتے میں سونف کے دانے بھر کر دھاگہ باندھ کر لٹکا دیں۔ چند روز میں سونف کے دانے پتے کی رطوبت جذب کر کے پھول جائیں گے۔ ان کو نکال کر پیس کر شیشی میں ڈال دیں اور بطور سرمہ آنکھوں میں لگایا کریں۔

اس کے ساتھ معجون دماغ افزا چھ ماشہ بکری کے دودھ کے ساتھ چند ہفتے استعمال کرنے سے نظر تیز ہوگی بلکہ ابتدائی حالت میں لگاتے رہنے سے موتیا بند کا پانی اترتا بھی بعض مریضوں میں رک جاتا ہے۔

بعض افراد بھوؤں کے بال گر جانے سے غمگین ہوتے ہیں۔ اس کا پتہ جلا کر زیتون کے تیل میں ملا کر بھوؤں پر چند روز لپیٹ کرنے سے یہ عیب دوہو جاتا ہے اور بال دوبارہ اگ آتے ہیں۔

یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسانی جسم میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے معدہ کی خرابی پیدا ہوتی ہے اور معدے میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ غذا کی بے اعتدالی زیادہ کھانا، دیر ہضم، ثقیل اور مرغن غذائیں کھانا ہیں۔

ڈاکٹروں، حکیموں اور ویدوں کا تسلیم شدہ مقولہ ہے کہ آدمی کم کھانے سے بیمار نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کھانے میں زیادتی اور بے اعتدالی ہی کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہے جس طرح انسان زیادہ محنت کرنے سے تھک جاتا ہے اسی طرح اگر معدے پر زیادہ بوجھ ڈال دیا جائے تو بھی تھک جاتا ہے اپنا قدرتی فعل چھوڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے نظام ہضم خراب ہو کر مختلف بیماریاں پیدا کرتا ہے یورپ کے ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ عام طور پر ہضم کا فضل چھ سات گھنٹے میں ختم ہوتا ہے عام لوگ ناسمجھتے ہوئے یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ مقدار میں کھائیں گے تو زیادہ قوت پیدا ہوگی جو کہ بالکل غلط ہے۔

اللہ تعالیٰ نے مختلف غذائیں پیدا کی ہیں اور یہ اس لئے پیدا کی ہیں کہ انسان اسے اعتدال سے استعمال کر کے زندگی کی گاڑی کو ٹھیک طرح چلا سکے۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس زندگی کا مقصد صرف کھانا تصور کر لیا ہے سادہ اور زود ہضم غذائیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ان غذاؤں میں بعض ایسی ثقیل جو کہ چھ سات گھنٹے میں ہضم نہیں ہوتیں اس طرح

معدہ میں مختلف اوقات میں ہضم ہونے والی غذا میں ایک ساتھ موجود ہوں تو لازمی خرابی پیدا ہوگی۔ صحت قائم رکھنے کا بہترین اصول یہ ہے کہ ایک وقت میں انسان کو صرف ایک ہی قسم کی غذا کھانا چاہئے اور وہ بھی وقت مقررہ پر اور مناسب مقدار میں یہی تندرست رہنے کا بہترین اصول ہے جس پر بد قسمتی سے ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔

چونکہ یہاں بات گوشت کے حوالے سے ہو رہی ہے تو عموماً جو گوشت کھا جاتے ہیں ان کے فوائد لکھے جاتے ہیں گوشت کے متعلق مختلف اور متضاد نظریے میں فاضل حکیموں اور ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ گوشت بطور غذا اور دوامفید ہے اس کی تاثیر گرم تر ہے خون اور گوشت بڑھاتا ہے بادی کو دور کرتا ہے اور طاقت بخشتا ہے بدن کو موٹا شہوت کو تیز اور مادہ تولید اور چربی پیدا کرتا ہے البتہ دماغ کو کندھ کرتا ہے۔ چنانچہ جن ممالک میں گوشت وافر مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وہاں کے باشندے جنگجو اور خونخوار ہوتے ہیں۔ مگر دماغی طور پر صفر ہوتے ہیں اتنا گوشت دنیا میں کوئی اور قوم نہیں کھاتی جتنا افغانی اور آفریدی اسی کثرت کا نتیجہ ہے کہ وہ بہادر جنگجو اور ذرا ذرا سی بات پر مشتعل ہو جاتے ہیں احتلام کی شکایت میں لحمیات اور خون پیدا کرنے والے اجزاء چربی نمک اور پانی ہوتا ہے اس کی چربی میں وٹامن اے ہوتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔

اجزائے لحمیات زیادہ ہونے سے یہ غزائیت بخش ہوتا ہے گوشت جلدی ہضم نہیں ہوتا بلکہ گوشت کا پروٹین اور چربی اعضائے ہضم پر کافی بار ڈالتی ہے گوشت کی کثرت سے گردوں میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے گردے اسے با آسانی خارج نہیں کر سکتے گوشت بدن میں صفرا کو زیادہ کرتا ہے جگر گردوں، قلب مثانے پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے اس کا استعمال کرنا چاہئے گوشت اور مچھلی کے ساتھ دودھ دہی چھچھو کھیر شہد سرکہ اور مولی کے استعمال سے خون اور دماغ خراب ہوتا ہے اس لئے گوشت کے ساتھ ان چیزوں سے

پر ہیز کرنا چاہئے۔

گوشت کو اکثر خوب بھون کر پکایا جاتا ہے اس طرح پکانے سے تمام مقوی اجزاء جل جاتے ہیں اور وٹامنز ضائع ہو جاتے ہیں گوشت کے اصل فوائد حاصل کرنے کے لئے ابلا ہوا گوشت استعمال کریں یا پھر سبزی وغیرہ ڈال کر پکایا جائے تو بہتر ہے اور زیادہ صحت مند بن جاتا ہے۔

بکرے کا گوشت

یہ گرم تر اور طاقت بخش ہے خون پیدا کرتا ہے لقوی باہ اور مادہ تولید پیدا کرتا ہے تپ دق (ٹی بی) سنگرہنی اور کمزوری میں اسکی بخنی مفید ہے فاضل ڈاکٹروں کا قول ہے کہ بکری یا بکرے کے جس عضو کا گوشت کھایا جائے انسان کے اسی عضو کو طاقت ملتی ہے

مرغ کا گوشت

طبیعت گرم تر اور زود ہضم ہے خون گوشت چربی ہڈی اور منی کو طاقت بخشتا ہے بھوک کو تیز کرتا ہے جسم کو خوبصورت اور شہوت کو تیز کرتا ہے۔ اس کا شور با گرمی کے سوا ہر قسم کے بخاروں کے لئے مفید ہے زود ہضم ہونے کے باعث تپ دق اور سنگرہنی میں بہت مفید ہے مرغ جتنی کم عمر کا ہوگا اتنا ہی گوشت عمدہ اور طاقت بخش ہوگا۔

بھینز کا گوشت

کسی قدر گرم اور معتدل ہے کمزوری دور کر کے بدن کو طاقت بخشتا ہے اور موٹا کرتا ہے بھوک لگاتا اور معدہ کو طاقت دیتا ہے قوت باہ کو بڑھاتا ہے تپ دق کے مریضوں کے لئے اسکا شور با بہت مفید ہے مرگی کے مریض کے لئے مضر ہے۔

خرگوش کا گوشت

مزانج کے اعتبار سے گرم تر ہے بادی اور سردی کی بیماری میں فائدہ مند ہے ادھر ننگ، لقوقہ درد پشت وغیرہ میں مفید ہے گرم مزاج والوں کے لئے مضر ہے کثرت استعمال سے انسان ڈرپوک اور بزدل بن جاتا ہے۔

مرغابی کا گوشت

مزانج کے اعتبار سے گرم تر ہے جسم کو موٹا اور گوشت کو بڑھاتا ہے ثقیل اور دیر ہضم ہے اس کے انڈے بہت طاقت بخش ہوتے ہیں۔

گائے کا گوشت

گرم خشک ہے خون کو خراب اور اُپھارہ پیدا کرتا ہے دماغ میں زہریلے مواد پیدا کرتا ہے جوڑوں کے درد اور گھٹیا میں نقصان دہ ہے اس کا زیادہ استعمال ہونٹوں اور مسوزھوں کے لئے نقصان دہ ہے۔

جوانی بھاء کے خطر میں یہ دیر ہضم غلیظ اور خراب خون پیدا کرتا ہے گویا کہ صحت کے لئے بے حد نقصان دہ ہے۔

مچھلی کا گوشت

مزانج کے اعتبار سے گرم تر ہے دماغ کو تقویت دیتی ہے بلغم خون اور منی کو بڑھاتی ہے قوت باہ میں اضافہ کرتی ہے مچھلی میں اکاسفورک ایسڈ بہت مقدار میں ہوتا ہے جو دماغ کو خاص تقویت دیتا ہے بنگالیوں کی یہ مرغوب غذا ہے یہی وجہ ہے بنگالی زبردست دماغ کے مالک ہوتے ہیں مچھلی دیر ہضم ہے اس لئے اسے کھانے کے چار گھنٹے بعد تک کوئی اور چیز نہیں کھانی چاہئے مچھلی کے ساتھ فوراً دودھ، دہی، کھیر، چھاچھ، شہد اور سرکہ وغیرہ مسور کی دال کھانا منع ہے۔

گوشت خوری میں بے اعتمادی

امریکیوں کا خیال ہے کہ اچھی صحت کے لئے صرف ایسی غذا فائدہ مند ہوتی ہے جو لحمیات پر مشتمل ہو و اسی طور پر امریکی گوشت خور قوم ہے یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں ایک شخص ایک مہینے میں پندرہ پونڈ گوشت کھاتا ہے جبکہ اس کے برعکس جاپان میں ایک شخص اتنی ہی مدت میں صرف آدھ پونڈ گوشت کھاتا ہے۔ ایک عام اندازے کے مطابق پاکستان میں ایک شخص ایک مہینے میں چھ سے آٹھ پونڈ تک گوشت کھاتا ہے اس قدر گوشت کھانے والے امریکی اور ہم پاکستانی کیا واقعی غذا کے بارے میں کوئی سوچ بوجھ رکھتے ہیں اور کیا واقعی گوشت ہماری صحت کے لئے بہت ضروری ہے؟ یہ وہ دو سوال ہیں جو ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہوں گے۔

گوشت انسان کا سب سے پرانا بلکہ اولین کھانا ہے اس وقت جب آدم نے اس کڑھ ارض پر اس زندگی کا آغاز کیا تو اس وقت وہ پھل اور پتے وغیرہ کھا کر پیت کی آگ کو سرد کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے ہتھیار بنائے اور شکار کو جانے لگا تو جانوروں کو شکار کر کے ان کے گوشت سے آتش شکم کو سرد کرنے لگا اور پھر گوشت اس کے منہ کو ایسا کاکہ آج تک آدم کی اولاد گوشت سے نجات نہیں پاسکی۔ ہر روز دنیا بھر میں کروڑوں جانور ذبح کئے جاتے ہیں اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گوشت انسان کی خوراک اور غذائے ایک بنیادی جزو ہے یہی وجہ ہے کہ ماہرین خوراک کی شروع ہی سے گوشت کو اول درجے کی پروٹین کا حاصل قرار دیتے چلے آئے ہیں اور سبزیوں کو درجہ دوئم کی پروٹین کا حاصل لیکن حالیہ تحقیقات و تجربات کے نتائج اس سے کچھ مختلف ہیں۔

اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گوشت خوری کے مقابلے میں سبزی خوری زیادہ مفید ہے گوشت خوروں کے مقابلے میں سبزی ور _____ Vegetarians زیادہ اچھی

صحت کے مالک ہوتے ہیں ان کے جسم سڈول خوبصورت اور تندرست ہوتے ہیں وہ طویل عمر پاتے ہیں اول میٹر بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں اور نہ ہی وہ فشارخون Blood Pressure کا شکار ہوتے ہیں جبکہ اسکے برعکس

۱۔ گوشت کی زیادہ مقدار جسم کیلئے باعث نقصان ہوتی ہے۔

۲۔ سبزی سے حاصل ہونے والی پروٹین گوشت سے حاصل ہونے والی پروٹین کا بہترین نعم البدل ہوتی ہے خاص طور پر جب اس کا مقابلہ دودھ اور انڈے سے کیا جائے۔ پروٹین انسانی زندگی اور صحت کے لئے لازمی ہوتی ہے یہ پروٹین ہی ہے جو انسانی زندگی کو پھلنے پھولنے اور نھود کی نشوونما میں مددگار ثابت ہوتی ہے جلد چمکی ہڈی ناخن بال عضلات اور ہڈیاں پروٹین ہی کی بدولت نشوونما پاتی ہیں۔

ہمارے جسم کے لئے جس قسم کی پروٹین درکار ہوتی ہے وہ بائیس قسم کے تیزابی مادوں پر مشتمل ہوتی ہے ان میں سے چودہ قسم کی تیزابی مادے انسانی جسم میں طاقت و قوت پیدا کرنے والے اعضاء کا نظام Metabolic System از خود پیدا کر لیتا ہے لیکن بقیہ آٹھ قسم کے تیزابی مادے خوراک سے حاصل ہونا ضروری ہوتے ہیں اچھی صحت کے لئے ضروری ہے کہ مذکورہ بالا تیزابی مادے انسانی جسم میں ایک خاص تناسب سے موجود ہوں۔ انکی عدم موجودگی انسانی جسم کے پٹھوں، رگوں اور انرجی کے عمل کو روک دیتی ہے۔

گوشت ایک مکمل پروٹین ہے کیونکہ اس میں مذکورہ بالا آٹھ تیزابی مادے Ameno Acids صحیح تناسب سے شامل ہوتے ہیں۔ سبزیوں میں تیزابی مادوں میں سے ایک یا دو کی کمی ہوتی ہے دوسری طرف گوشت کے زیادہ استعمال سے گوشت کی قیمتیں جڑھی ہیں اور اب یہ قیمتیں عام صارفین کے بس سے باہر ہو گئی ہیں اس

کے علاوہ گوشت کی کوالٹی بھی گھٹیا ہوتی جا رہی ہے۔ ان دنوں جو گوشت فروخت ہو رہا ہے وہ حد درجہ مضر صحت ثابت ہو رہا ہے اس کے استعمال سے ہر کسی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ گوشت صحت مند مویشیوں کا نہیں۔

سبزی خوری کو اپنانے والوں کو ماہرین خوراک نے بے چند مفید مشورے دے دیئے ہیں جن کا جاننا ہر شخص کیلئے ضروری ہے:

﴿ چینی، چکنائی اور تیل کا استعمال کم کر دیا جائے ﴾
 ﴿ پنے کی دال تازہ گاجر، جزوالی سبزیاں خشک پھل اور سلاد زیادہ استعمال کرنا چاہئے ﴾

﴿ بنیر لسی اور انڈے خوراک میں شامل کئے جائیں ﴾
 ﴿ وہ لوگ جو خالصتا سبزی خور ہیں انہیں مندرجہ ذیل ہدایت پر عمل کرنا چاہئے ﴾
 ﴿ پتوں والی سبزیاں مثلاً مولیاں، شلغم استعمال کریں۔ ﴾
 ﴿ پنے کی دال، پھل اور خشک میوہ جات استعمال کریں تاکہ ان کے جسموں میں حراروں کی کمی کو پورا کیا جاسکے۔ ﴾

﴿ وٹامن بی استعمال کریں تاکہ جسم میں پروٹین کی مقدار کو مطلوبہ مقدار کو مطلوبہ مقدار تک لایا جاسکے۔ ﴾

پاکستان ایک ترقی پذیر اور خوش قسمتی سے زرعی ملک ہے ہم اپنی آمدنی کا سب سے زیادہ حصہ خوراک پر خرچ کرتے ہیں اس لئے خوراک میں ایسی اشیاء کو شامل کرنا ضروری ہے جو صحت کے لحاظ سے جسم کو تقویت بخشن اور بجٹ کے حساب سے سستی بھی ہوں۔ لیکن ہم ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گوشت کھانے کی فکریں رہتے ہیں حکومت کی طرف سے دودن گوشت کا ناغہ ہوتا ہے لیکن ہم گوشت کے بغیر نہیں رہ سکتے ناغہ والے دنوں کیلئے

گوشت پہلے ہی خرید کر رکھ لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم سے زیادہ لوگ روزانہ گوشت، مچھلی، اور انڈے نہیں خرید سکتے ان چیزوں کی کمی کو سبزیوں اور دالوں کے استعمال سے پورا کیا جاسکتا ہے اسی طرح آمدنی کے مطابق خالص گھی کی جگہ خالص تیل، دہی لسی وغیرہ کا استعمال مناسب ہو سکتا ہے سبزیوں کو مختلف طریقوں سے پکا کر ان کے ذائقہ میں تبدیلی لائی جاسکتی ہے۔ پاکستان میں گوشت خوری کا استعمال کم کر کے سبزیوں کے استعمال کو فروغ دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو اکثر گھروں میں سبزیوں کی کاشت کی ترغیب دی جائے تو لوگوں کو سبزیوں کے استعمال کی طرف راغب کیا جاسکتا ہے ہمیں اب یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہئے کہ بعض سبزیاں اور دالیں نہ صرف صحت بخش ہیں بلکہ غذائیت کے اعتبار سے وہ گوشت کا بہترین نعم البدل ہیں اگر ہم سبزیوں اور گوشت کو ایک مناسب توازن کے ساتھ استعمال کریں تو یقیناً ہماری صحت کا معیار بلند ہو سکتا ہے اور ہمیں صحت مند جانوروں کا گوشت بھی حاصل ہو سکتا ہے یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ گوشت کی طلب میں تھوڑی سے کمی واقع ہو۔

لیکن یہ کمی چند ایک سبزیوں کو ایک ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے پوری کی جاسکتی ہے مثلاً گندم میں Lysine نہیں ہوتا لیکن اگر اسکے ساتھ Beans ملا کر استعمال کی جائے تو اس کمی کو پورا کیا جاسکتا ہے کیونکہ بنیز میں Lysine کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔

ماہرین خوراک کے نزدیک پروٹین میں اضافہ کے ذرائع کے بارے میں دو بنیادی نظریات ہیں ایک نظریہ مقدار اور دوسرا نظریہ معیار یعنی کونسی چیز کتنی مقدار اور کس کوالٹی کی استعمال کی جائے۔ اقوام متحدہ کے خوراک و زراعت کے ادارے کے ماہرین کی رپورٹ کے مطابق پروٹین کی مقدار مختلف اشیاء میں مختلف ہوتی ہے۔ گوشت چاول پنیر

مچھلی دودھ انڈوں وغیرہ میں کافی مقدار میں پروٹین ہوتی ہے ان ماہرین نے اپنے نتائج میں یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ایک شخص کو گوشت کے مقابلے میں سبزیاں زیادہ کھانی چاہئیں لیکن گوشت کے متبادل کے طور پر ایسی سبزیاں استعمال میں لانی چاہئے جو اچھی ہوں تازہ ہوں کیونکہ زیادہ گوشت خوری انسانی صحت کے لئے نقصان کا باعث بنتی ہے اس کے استعمال سے انسان کے جسم میں حراروں Calories کی تعداد ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے جس سے جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے چربی بھی زیادہ ہو جاتی ہے جس سے نہ صرف یہ کہ وزن بڑھتا جاتا ہے بلکہ دل کی بیماریاں بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔

زیادہ گوشت خوری کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے مینائی بھی متاثر ہوتی ہے نیز گوشت نظام انہضام کے عمل سے گزرنے کے بعد خشک یا سخت پاخانے کی صورت اختیار کر لیتا ہے جس سے اجابت میں دقت پیش آتی ہے جسے عام لفظوں میں قبض _____ Constipation کہتے ہیں اور طب کے ماہرین کے مطابق قبض "ام الامراض" ہے جبکہ اس کے برعکس سبزی خوروں کا نہ تو وزن بڑھتا ہے نہ جسم میں چربی بڑھتی ہے نہ ہی مینائی متاثر ہوتی ہے اور نہ یہی اجابت میں کسی قسم کی دقت ہوتی ہے لیکن یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ کیا گوشت کے مقابلے میں سبزی کا استعمال صحت کے لئے واقعی فائدہ مند ہوتا ہے؟

ماہرین خوراک اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وہ ممالک یا وہ اقوام جو کم گوشت خور ہیں ان کی صحت زیادہ اچھی رہتی ہے اور وہ طویل عمر پاتے ہیں اس سلسلے میں بہترین مثال پاکستان کے شمال مغربی صوبہ سرحد کی ریاست ہنزہ کے باشندے ہیں اور امریکہ میں ریاست میکسیکو کے اوٹومی انڈین ہیں انکی صحت قابل رشک ہے اس کے علاوہ جنگ عظیم

اول کے دوران ڈنمارک کے لوگوں نے برطانوی افواج کی طرف سے بحری ناکہ بندی کی بدولت کم گوشت استعمال کیا اور نتائج نے ثابت کیا، ان لوگوں کی صحت پہلے کے مقابلے میں کافی بہتر ہو گئی ہے اس طرح ناروے نے بھی دوسری جنگ عظیم کے دوران گوشت کا استعمال کم کر دیا، جس سے وہاں کے لوگوں میں دل کے امراض میں یک دم کمی واقع ہو گئی لیکن دونوں ملکوں کے لوگوں نے جو طبی حالات کے بدلنے اور جنگ کے بادل چھٹنے کے بعد گوشت خوری شروع کی نتیجتاً عارضی طور پر ان کی صحت کے معیار میں جو اضافہ ہوا تھا وہ ختم ہو گیا یہ شواہد اس حقیقت کو تسلیم کرانے کے لئے کافی ہیں کہ گوشت کا کم استعمال صحت کیلئے زیادہ بہتر نتائج پیدا کرتا ہے لیکن بعض لوگ اب بھی اس سے منکر ہیں ان کا کہنا ہے کہ سبزی کھانے والوں کو کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں ان لوگوں کو ہم تنگ نظر کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ آج امریکہ یورپ کے کئی روشن خیال لوگ گوشت کے استعمال کو کم کر رہے ہیں اور انہوں نے سبزی خوری کو اپنانا شروع کر دیا ہے بلکہ اب تو وہاں سبزی خوروں کی باقاعدہ تنظیمیں Vegetarians Societies قائم ہو چکی ہیں۔

روٹی انسان کی بنیادی احتیاج ہے جب یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ایک قسم وہ ہے کہ جن سے جسم بڑھتا ہے اور ٹوٹے پھوٹے حصوں کی مرمت ہوتی ہے دوسری وہ جن سے جسم مضبوط بنتا ہے اور تیسری وہ جن سے انسانی جسم میں بیماریوں سے بچاؤ اور محفوظ رہنے کی قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے ہم لوگ ایک ہی قسم کا کھانا روز روز استعمال کرتے

ہیں اس طرح جسم میں خوراک کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس لئے ضروری ہے کہ اپنی حیثیت کے مطابق جسم کی خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لئے اشیاء بدل بدل کر کھائی جائیں۔

ہم پاکستانی بھی گوشت خور ہیں اور گذشتہ چند سالوں میں (کڑا ہی گوشت، تکہ شاپس کی بدولت) ہم نے زیادہ گوشت خوری شروع کر دی ہے اس سے ایک طرف جہاں ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے۔ وہاں لا علاج امراض کا بھی اضافہ ہو رہا ہے۔

کھانا ہضم کر نیکا غذائی علاج

ابوداؤد میں حضرت ام معبد سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور آپ نے فرمایا اے خدا سرکہ میں برکت عطا فرما۔ جامع کبیر میں ہے کہ سرکہ میں یہ حکمت ہے کہ یہ کھانے کو ہضم کرتا ہے ابن حبان نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے نزدیک تمام سالنوں میں سب سے پیارا سالن سرکہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور حضور ﷺ کو سبز ترکاریاں بھی بہت مرغوب تھیں۔

کنز العباد میں ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے کہ جس دسترخوان پر سبز ترکاری ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔

کھانے کو ذائقہ دار بنانے اور اچار چٹنیوں کی تیاری کے لئے سرکہ کا استعمال صدیوں سے ہوتا آیا ہے۔ ترش ذائقہ رکھنے والا یہ مائع اپنے اندر لذت کے ساتھ ساتھ بہت سے طبی فوائد بھی رکھتا ہے۔ اس لئے طبی فوائد کا علم بھی انسان کو زمانہ قدیم سے ہے حتیٰ کہ بقراط نے بھی اسے مختلف دواؤں میں استعمال کیا ہے۔

سرکہ ہر اس چیز سے تیار کیا جاتا ہے جس میں مٹھاس یا نشاستہ موجود ہو۔ عام طور

پرگنا، انگور، جامن کا سرکہ بنایا جاتا ہے تاہم کھجور، گڑ، راب، کھانڈ، انجیر، جو، چقدر، مٹی، چاول اور گندم سے بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے۔ دراصل کسی علاقے میں جو پھل کثرت پیدا ہوتا ہے اس علاقے میں اسی پھل کا سرکہ تیار کرنے کا رواج پڑ جاتا ہے، مثلاً پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں انگور کا سرکہ بنایا جاتا ہے، جبکہ پنجاب اور صوبہ سرحد میں گنے کا سرکہ بنتا ہے اور سندھ میں کھجور کا سرکہ عام ہے۔

حضور نبی کریم ﷺ نے سرکہ کو مکمل سالن قرار دیا ہے، آپ ﷺ کا ارشاد ہے: ”جس دسترخوان پر سرکہ موجود ہو وہاں پھر سالن کی کیا ضرورت ہے؟“ سرکہ کی آمیزش سے بہت سے اچار اور چٹنیاں بنائے جاتے ہیں۔ سرکہ اپنی کھٹاس اور مخصوص ذائقہ کی بدولت ان میں ترشی پیدا کر کے انہیں چھپا بنا دیتا ہے اور خراب ہونے یا سڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ چینی طرز کے کھانوں میں سرکہ کا استعمال خاصا ہوتا ہے۔

سرکہ کو بطور سالن استعمال کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی رائج ہے کہ پیاز کو باریک باریک تراش کر یا چھوٹی ڈالیاں چھیلنے کے بعد ان میں شکاف دے کر، انہیں بری مرچ کے ساتھ سرکہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چند دن میں پیاز کی یہ ڈالیاں سرکہ کو اپنے اندر اچھی طرح جذب کر لیتی ہیں اور نہ صرف بہت ذائقہ دار ہو جاتی ہیں بلکہ اس کے فوائد میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ سرکہ میں یہ خصوصیت بھی موجود ہے کہ اگر کچے گوشت کو پکانے سے قبل سرکہ سے تر کر لیا جائے تو وہ آسانی سے گل ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ مزید اچھا ہو جاتا ہے۔

سرکہ بہت سے طبی فوائد کا حامل ہے۔ اسے کھانے والی اور لگانے والی دونوں طرح کی دواؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان کے استعمال سے بھوک کھل جاتی ہے اور غذائے ہضم ہونے لگتی ہے۔ شدید بد ہضمی، ہیضہ اور طیر یا یا بخار میں سرکہ خاص طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ سرکہ چونکہ خود تیزاب (ایسٹک ایسڈ) ہے، اس لئے اگر معدہ میں تیزابی اجزاء اور ہاضم رطوبت میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے شدید بد ہضمی ہو جائے تو سرکہ مدد کو پہنچتا

ہے۔ معدہ میں موجود تیز ابیت کی کمی کو دور کرتا ہے اور غذا کو گلانے اور ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سرکہ میں یہ خوبی ہے کہ یہ ہیضہ کے جراثیم پر براہ راست اثر انداز ہو کر انہیں ہلاک کر دیتا ہے اور سرکہ کی موجودگی کی وجہ سے معدے اور آنتوں میں ہیضہ کا مکمل علاج تو نہیں کہہ سکتے، البتہ یہ ہیضہ سے محفوظ رہنے کی ایک اچھی احتیاطی تدبیر ضرور ہے۔

ملیریا یا بخار کی صورت میں مریض کا جگر بری طرح متاثر ہوتا ہے اور ملیریا یا بخار پیدا کرنے والے لطفیلی خرد نامی جگر اور خون میں مستقل گھر کر لیتے ہیں، اسی لئے بار بار ملیریا یا بخار ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جگر کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سرکہ میں یہ خوبی ہے کہ یہ جگر کے فعل کو درست رکھتا ہے، اس طرح ملیریا یا بخار کے انسداد میں مدد ملتی ہے۔ موسم برسات میں چونکہ ہیضہ اور ملیریا یا بخار پھیلنے کا خدشہ رہتا ہے اس لئے ان دنوں میں سرکہ کو اپنی غذائیت کا لازمی حصہ بنالینا چاہئے۔

ملیریا یا بخار میں مریض کے خون کے سرخ جیسے بہت بڑی تعداد میں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ ان جسموں میں سے بعض کام کے اجزاء تلی میں جا کر جمع ہو جاتے ہیں، چنانچہ تلی کی جسامت بڑھ جاتی ہے۔ سرکہ میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کے استعمال سے تلی کی ساخت اور فعل درست رہتے ہیں اور بڑھی ہوئی تلی کو معمول پر لانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس غرض سے خشک انجیر کو سرکہ میں بھگو کر رات بھر رکھا جاتا ہے اور صبح استعمال کیا جاتا ہے۔ کچا پیتا بھی اسی طرح سرکہ میں بھگو یا جاتا ہے، لیکن ایک ہفتہ کے لئے۔۔۔ یہ بھی بڑھی ہوئی تلی کے علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ معدے میں جو ہاضم رطوبتیں بنتی ہیں، ان میں ایک صفرا (پت) بھی ہے۔ اگر صفراء کی زیادتی ہو جائے تو متلی اور قے کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ ایسی صورت میں سرکہ نوش کرنے سے یہ شکایت دور ہو جاتی ہے۔ اگر بد ہضمی کی وجہ سے شدید قے اور دست آرہے ہوں تو چائے کا ایک چمچ سرکہ نصف لیموں کے رس کے ساتھ ایک گلاس پانی میں ملا کر اور شکر سے میٹھا کر کے پلائیں، فائدہ ہوگا۔

سرکہ کی مدد سے سکنجبین بھی تیار کی جاتی ہے۔ سکنجبین کو تے، متلی، بدہضمی، دست، زہر خوردہنی (خود پواز رنگ) کی صورت میں استعمال کروایا جاتا ہے۔ لفظ ”سکنجبین“ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ ”سکجن“ یعنی ”سرکہ“ اور ”انگین“ یعنی ”شہد“۔ پرانے وقتوں میں سکنجبین، شہد کی آمیزش سے تیار کی جاتی تھی، لیکن اب شہد کا رواج کم ہو گیا ہے اور شکر استعمال ہونے لگی ہے۔ سکنجبین مختلف امراض کے علاج کیلئے مختلف طریقوں سے تیار کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر تے کے تدراک کیلئے لیموں اور سرکہ کی مدد سے سکنجبین تیار کی جاتی ہے۔ بدہضمی کے علاج کیلئے لیموں کی بجائے پودینہ شامل کر دیتے ہیں۔ متاثرہ جگر کو درست کرنے کیلئے لکڑی، تربوز اور خربوزہ وغیرہ کے بیجوں کے جوشاندے میں سرکہ کی سکنجبین تیار کی جاتی ہے۔ ورم کو تحلیل کرنے کے لئے ایک اور طرح کی سکنجبین جنگلی پیاز کی مدد سے بنائی جاتی ہے۔

بعض دواؤں کی تیاری کے دوران میں، پہلے ان کے بعض اجزاء کو سرکہ میں بھگو کر خشک کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقے کا فائدہ یہ ہے کہ جس شے کو سرکہ میں بھگو یا جا رہا ہے، اس کے نقصان دہ اثرات دور ہو جائیں اور سرکہ کے فائدہ مند اثرات اس شے میں شامل ہو جائیں۔ مثال کے طور پر جوارش کمونی بناتے ہوئے، سیاہ زیرے کو سرکہ میں کوئی بار بھگو کر خشک کیا جاتا ہے، پھر اسے باریک پس کر جوارش میں شامل کیا جاتا ہے۔

سرکہ میں تسکین دینے کی خاصیت بھی ہے۔ اسی لئے تیز بخار اور شدید درد کی صورت میں اسے بیرونی طور پر استعمال کروایا جاتا ہے۔ شدید درد اور تیز بخار میں سرکہ کو پانی یا عرق گلاب میں حل کر لیا جاتا ہے، پھر اس میں پٹیاں یا تولیہ کو بھگو کر مریض کے سر اور کنپٹیوں پر رکھا جاتا ہے۔ اس طرح مریض تسکین محسوس کرتا ہے اور بخار کم ہو جاتا ہے۔ سرسام اور ہڈیان کی صورت میں بھی اسی طرح سرکہ کو استعمال کروایا جاتا ہے۔ سرکہ بہت

رقیق اور لطیف ہوتا ہے، اسی لئے یہ جلد کے مسامات میں تیزی سے داخل ہو کر اندر تک پہنچ جاتا ہے اور اپنے ساتھ دیگر دواؤں کے اثرات بھی لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے بہت سے مریضوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ سرکہ بہت سے جلدی امراض اور سرکی خشکی میں بھی تنہا حالت میں یا دیگر دواؤں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔

کان میں درد ہو یا پیپ خارج ہوتی ہو تو وہ خالص سرکہ کے دو تین قطرے کان میں دن میں دو بار چمکاتے رہیں۔ آرام آجائے گا، کیونکہ سرکہ میں زخموں کو بھرنے اور جراثیم کو ہلاک کرنے کی خاصیت موجود ہے۔ دانتوں میں اگر گرمی کی وجہ سے درد ہو یا مسوزھوں سے خون جاری ہوتا ہو تو سرکہ کی کلیاں کرنے سے شکایت رفع ہو جاتی ہے۔ سرکہ میں داغ دھبے اور زائید تل صاف کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔

سرکہ کو استعمال کرنے سے قبل یہ اطمینان کر لینا چاہئے کہ یہ اصلی بھی ہے یا نہیں عام طور پر بازاروں میں جو سرکہ دستیاب ہے، اسے مصنوعی طریقہ سے پانی میں تیزاب شامل کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ مصنوعی طریقے سے تیار شدہ سرکہ کارنگ پانی جیسا ہوتا ہے اور اچھی کپنیاں اپنے تیار کردہ سرکہ کی بوتل پر لکھ بھی دیتی ہیں کہ یہ ”سنٹھے ٹک“، یعنی مصنوعی ہے۔ خالص سرکہ پھلوں کے رس سے تیار کیا جاتا ہے اس لئے اس کی رنگت عموماً کتھی ہوتی ہے۔ ہمیشہ کسی معتبر دوا ساز ادارے کا تیار کردہ سرکہ خریدنا چاہئے یا پھر خود ہی گھر میں بنالینا چاہئے۔

گھر میں سرکہ تیار کرنا بہتر آسان ہے۔ پرانے زمانے میں جن پھلوں کی مدد سے سرکہ تیار کرنا ہوتا تھا انہیں کسی کاغذ یا چینی کے مرتبان یا مٹی کے گھڑے میں بھر کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا اور اس میں سرکہ کو ضامن کے طور پر ملا دیا جاتا تھا۔ روزانہ برتن کو ہلاتے رہتے تھے۔ چند دنوں میں اس خمیر پیدا ہو جاتا تھا تو ان پھلوں کو مل کر اور چھان کر عرق کاغذ کی بوتلوں میں بھر لیتے تھے۔ یہی سرکہ ہوتا ہے۔

اس طریقہ میں قباحت یہ تھی کہ پھلوں میں کیڑے پڑنے کا احتمال رہتا ہے، چنانچہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھلوں کا رس نکال کر چھان لیتے ہیں، پھر اسے ایسے برتن میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں جس میں پہلے بھی سرکہ بنایا جاتا رہا ہو یا پھر ضامن کے طور پر سرکہ ملا دیتے ہیں۔ برتن کو دھوپ میں رکھ کر ہلاتے رہتے ہیں اور ہر ہفتے کیڑے کی مدد سے چھان کر گاؤ علیحدہ کرتے رہتے ہیں۔ جب پھلوں کے رس میں پوری طرح خمیر پیدا ہو جاتا ہے تو اسے چھان کر صاف بوتلوں میں بھر لیتے ہیں۔ سرکہ تیار ہے، اس طرح اس میں کیڑے پڑنے کا اندیشہ عام طور پر نہیں رہتا۔ سرکہ جس قدر پرانا ہو جائے اتنا ہی تیز اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔

سرکہ کی تیاری میں خاص قسم کے جراثیم اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ جراثیم انسان کے دوست کہلاتے ہیں۔ یہی جراثیم شراب کی صنعت میں بھی کام آتے ہیں، لیکن شراب کی تیاری کے لئے پھلوں کے رس میں خمیر اٹھانے کے بعد اسے کشید بھی کیا جاتا ہے، جبکہ سرکہ کو بھسکے (ڈی لیشن) کے ذریعہ کشید نہیں کیا جاتا، چنانچہ شراب آور حرام سرکہ غیر نشہ آور اور حلال ہے۔

سرکہ تو بہت مفید ہے، لیکن بعض امراض میں جتنا مریضوں کے لئے بے حد مضر ہے، کیونکہ اس کا مزاج بہت ٹھنڈا اور تیزابی ہے۔ ایسے مریضوں کو سرکہ ہرگز استعمال نہ کرنا چاہئے جو معدے کی بڑھتی ہوئی تیزابیت کے شکار ہوں۔ معدے اور آنتوں زخم یا پتھیس کے مریض سرکہ استعمال نہ کریں۔ سرکہ کی تاثیر بہت سرد ہے، اس لئے نزلہ، کھانسی اور گلے کی خراش کی صورت میں بھی سرکہ سے پرہیز کرنا چاہئے۔ ایسے مریض جن کے جوڑوں میں سردی کی وجہ سے بہت درد رہتا ہو، انہیں بھی سرکہ کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہئے۔ جو افراد بجز اللہ امراض سے محفوظ ہیں وہ بلا تکلف سرکہ استعمال کر سکتے ہیں اور قدرت کی عطا کردہ اس نعمت کے فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔

نامردی اور قوت باہ کا غذائی علاج

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اور شکایت کی کہ میرے گھر میں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ حضور ﷺ نے یہ علاج تجویز فرمایا کہ تو انڈے کھایا کر۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبرائیل سے اپنی قوت باہ کی شکایت فرمائی۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ ہریرہ تناول فرمایا کریں کیونکہ اس میں چالیس مردوں کی قوت ہے۔

حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ تم حنا کا خضاب کیا کرو کیونکہ حنا قوت باہ پیدا کرتی ہے۔

اور مزمل ابن الحکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کو جلد دور کرنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ (غایت الافکار)

حضور اکرم ﷺ نے ایسے شخص کے جواب میں (جس کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی تھی انڈا کھانے کو فرمایا۔

انڈہ یہ بیضی شے ایک پاورشل ہے کیونکہ اس میں تقریباً ہر اس غذائیت کی متوازن مقدار پائی جاتی ہے جو کہ انسانی جسم کیلئے ضروری ہے موازنہ کرنے سے یہ بات

پتہ چلی کہ دیگر اکثر غذا میں ایک یا دو غذائی اجزاء کا عمدہ ذریعہ ہیں لہذا ”کھانے میں ایک انڈا“ دیگر اکثر کھانوں سے غذائی اہمیت کے لحاظ سے سبقت لے جاتا ہے۔

انڈا تین حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ خول، سفیدی اور زردی! خول کیلشیم سے بھر پور ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی میں وٹامنز کی وافر مقدار کے ساتھ، چونا، آئرن اور دیگر نمکیات کا بھر پور خزانہ ہوتا ہے زردی میں چکنائی (فیٹ) اور لیستھین کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جو کہ زردی سسٹم کی افزائش اور غذائیت کیلئے نہایت اہمیت رکھتا ہے چونکہ اس میں آئرن اور فاسفورس شامل ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔

دوسری جانب انڈے کی سفیدی میں البیوں میں وافر مقدار میں ہوتی ہے اور یہ کچی حالت میں یہ زردی کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے۔
مرغی کے انڈے عام طور پر کھائے جاتے ہیں بلخ کے انڈے بڑے اور طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی مہک بھی بہتر ہوتی ہے۔

انڈے کو مختلف انداز سے پکایا جاسکتا ہے اسے ابالا جاسکتا ہے ابلتے پانی میں پکا سکتے ہیں فرائی کیا جاسکتا ہے اسکریمبلڈ اور آلیٹ کی شکل بھی دی جاسکتی ہے۔ ایک کچا ہلکا ابلا ہوا انڈا یا ابلنے ہوئے پانی میں پکا ہوا انڈا ایک ہارڈ بوائٹڈ (مکمل طور پر ابلے ہوئے) انڈے کی بہ نسبت زیادہ آسانی سے ہضم ہو سکتا ہے۔

2 انڈے استعمال کرنے سے 160 کیلوریز حاصل ہوتی ہیں اور ڈائٹ کی اہمیت کے لحاظ سے روزانہ ضرورت کی 20 فیصد مقدار مہیا ہو جاتی ہے۔ انڈے کی قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی اس لئے یہ ہر عام آدمی کی با آسانی قوت خرید میں ہوتا ہے۔

انڈے کی غذائی اہمیت کی بناء پر اسے مختلف بے شمار ورائٹیمز میں استعمال میں لایا جاتا ہے اور اسے وسیع پیمانے پر پسند کیا جاتا ہے اس کی مقبولیت کا ثبوت یہ ہے کہ دنیا

کے ہر خطے میں لاکھوں افراد سے ذوق و شوق سے کھاتے ہیں اور یہ ان کی من پسند غذا ہے لہذا ہماری ڈائٹ میں اس کا استعمال کم اہمیت کا حامل نہیں ہے اور اس کے فوائد کو خاموشی کے ساتھ قبول کر لینا چاہئے ایک عرصہ ہوا کاروباری حضرات اور تاجروں نے پولٹری فارم میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی تاکہ مرغی اور انڈوں کی فروخت سے منافع کما سکیں۔ بازار میں انڈوں کی بے پناہ مانگ کے پیش نظر زیادہ دیتے کیلئے مرغیوں کو اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ انجکشن لگا دیئے جاتے ہیں انڈوں سے چوزے بھی نکالے جاتے ہیں۔ البتہ مصنوعی طریقے سے۔

انڈے میں اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں۔

پروٹین

تعداد اور معیار دونوں کے لحاظ سے انڈے پروٹین کے بہترین ذریعوں میں سے ایک ہیں مزید یہ کہ لازمی امائنو ایسڈز جو کہ ہمارا جسم پیدا نہیں کر سکتا، وہ قدرتی طور پر پروٹین کی تعمیراتی اینٹیوں کا واحد کچھ کتے ہیں۔

پودوں میں بھی پروٹین موجود ہوتا ہے لیکن ڈائٹ کے لحاظ سے ان میں ایک یا زیادہ لازمی امائنو ایسڈز کی کمی ہو سکتی ہے حقیقت میں اگر ایک بھی امائنو ایسڈ ڈائٹ میں کم ہو تو جسم میں ”نشو پروٹین“ کی تشکیل نہیں ہو پاتی۔

لہذا روزانہ کے پروٹین کے دوبارہ حصول کے لئے 2 انڈے لازمی وٹامنز اور معدنیات (منرلز) کی مناسب شرح فیصد مہیا کر دیتے ہیں۔

اس بات کا مطالعہ واقعی دلچسپی کا باعث ہو گا کہ انڈا ہماری غذا میں جو وٹامنز، معدنیات اور چکنائی مہیا کرتا ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔

وٹامنز

تیزی سے حل ہو جانے والے وٹامنز اے ڈی اور ای انڈے کی زردی میں مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں پانی میں حل ہو جانے والے وٹامن سفیدی اور زردی دونوں حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ انڈوں میں ہر ایک وٹامن موجود ہوتا ہے اور وہ ریو فلاون، پیٹوٹھینک ایسڈ، نیاں، وٹامن بی سکس اور وٹامن بی بارہ (B 12) کا عمدہ ذریعہ ہوتے ہیں۔

معدنیات (منرلز)

زردی خاص طور پر آئرن اور فاسفورس کا ایک عمدہ ذریعہ ہوتی ہے۔ انڈے میں کیلشیم، سوڈیم، کلورین، پوناشیم، سلفر، میگنیشیم، زنک، کاپر اور آیوڈین بھی شامل ہوتے ہیں۔

چکنائی (فیٹ)

غذائی چکنائی دو قسم کی ہوتی ہے۔ عیاں اور پوشیدہ۔ عیاں چکنائی۔ گوشت، کوکنگ فیٹ، بکھن اور ماجرین ہے۔ پوشیدہ چکنائی کم چربی یا بغیر چربی کے گوشت دودھ سے بنی ہوئی اشیاء اور یقینی طور پر انڈے میں پائی جاتی ہے۔

غذائی چکنائی کی غیر سیر شدہ (ان سچو ریٹڈ) نرم اور مائع کی شکل میں اور سیر شدہ (سچو ریٹڈ) سخت یا ٹھوس) میں درجہ بندی کی جاتی ہے یہ انڈے میں 2:1 کے تناسب سے موجود ہوتی ہے۔

انڈوں میں گیر سیر شدہ (ان سچو ریٹڈ) چکنائی میں بیشتر اہلی اک ایسڈ کی شکل میں ہوتی ہے جو کہ کولیسٹرول پر اثر نہیں کرتا اور نہ ہی صحت کے لئے مضر ہوتا ہے۔

انڈے لائینولک ایسڈ کا بھی ایک عمدہ ذریعہ ہیں جو کہ جسمانی نشوونما کیلئے ایک اور لازمی غیر سیر شدہ (ان سچو ریٹھ) ہے۔

پولی ان سچو ریٹھ چکنائی میں تعمیراتی اجزاء شامل ہوتے ہیں جو جسم کی نشوونما اور نمو پذیری میں مدد دیتے ہیں۔ یہ چکنائی (فیٹ) لازمی طور پر اہم ہے۔ اگر آپ ”انڈے“ کو پکانے کا ارادہ نہیں رکھتیں تو ”انڈے کے ساتھ“ پکانے سے نہ ہچکچائیں آپ خود دیکھ لیں گی کہ اس کے نتائج کتنے حیرت انگیز ہوں گے۔

انڈہ دیگر غذائی اشیاء کو گاڑھا کرتا، شیرہ بناتا اور آپس میں مربوط کر دیتا ہے ان کے پروٹینز بلبلوں کو یکجا رکھتے ہیں اور انکی چکنائی بریڈ کیٹک اور پیسٹری میں نرمی اور ملائمت پیدا کرتی ہے جس سے وہ مزید پھول جاتے ہیں مزید یہ کہ اس چکنائی کے کاربوہائیڈریٹس غذائی اشیاء کی رنگت کو گاڑھا کرنے میں مدد دیتے ہیں۔

ان کی زردی کیمیکلز اور خوشبودار شیمپوز میں بھی استعمال ہوتی ہے جو کہ بالوں کی صفائی، چمک دار اور تانہا کی برقرار رکھتی ہے۔ یہ کاسمیٹکس میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

انسانی جسم میں قوت حیات جسمانی طاقت اور ذہنی قوت کی تعمیر کے لئے انڈا نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ گرم جوشی اور توانائی کی تخلیق کرتا ہے جو کہ انسانی سرگرمی کے لازمی اجزاء ہیں۔ لہذا خود کو سرگرم اور پر جوش رکھنے کے لئے تیزی سے کچن میں جائیں اور انڈا توڑ کر پھینٹ لیں، پین گرم کریں اور ایگ ٹیرین (انڈا کھانے والے) گردہ میں شامل ہو جائیں۔

مالک الملک نے ہماری حسین لہلہاتی دنیا کو سرسبز اور قائم رکھنے کے لئے افزائش نسل کا سلسلہ جاری فرما دیا۔ ننھے ننھے بچوں سے درخت پیدا فرما کر ان کے خوش ذائقہ پھلوں کو ہماری غذا بنا دیا۔ ان کے پھولوں کے رس سے مکھیوں کے پیٹ میں شہد جیسی غذائی

اور دوائی نعمت ہمیں عطاء فرمائی ہمارے دسترخوان کی رونق بننے والے جانوروں اور پرندوں کے پیٹ سے ہماری غذا کے لئے انڈے پیدا کرنے کا سلسلہ جاری فرمادیا۔ انڈے دینے والے پرندے اور جانور حضرت انسان کے بہترین خدمت کار ہیں ان کا گوشت کھا کر ہمارے جسم میں چمک دمک پیدا ہو جاتی ہے انڈوں میں ہمارے لئے زود ہضم خوش ذائقہ طوے کیک، کسٹرڈ اور چاکولیت بنانے والے صحت بخش اجزاء موجود ہیں، ہماری مارکیٹ میں، مرغی، بطخ، تیتڑ، مور اور چڑیا کے انڈے دستیاب ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ سب پیش قیمت صحت بخش اجزاء کا قدرتی خزانہ ہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں مرغی کے انڈے کی سب سے زیادہ کھپت ہے۔ صدیوں سے عرب حکما انڈے کی زردی، سفیدی اور چھلکے کو بہترین غذا کے علاوہ مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انڈے کی زردی میں گوشت بنانے والے روغنی اور نشاستہ دار کے علاوہ فولاد فاسفورس اور لیسے تھین شامل ہیں سفیدی میں چونہ، مقطر پانی اور البیومن جیسے تسکین دینے والے بدن پرور اجزا شامل ہیں چھلکے میں بہترین قسم کے کیمیشم کے اجزا بکثرت پائے جاتے ہیں جسے آگ میں کشتہ کر کے صدیوں سے پرانے حکیم سل دق اور ہڈیوں کی کمزوری دور کرنے کے لئے استعمال کر رہے ہیں۔

انڈا زود ہضم، مقوی اعصاب، خون پیدا کر کے حرارت غریزی پیدا کرنے والی غذا ہے۔ معدہ اسے ڈیڑھ دو گھنٹوں میں ہضم کر لیتا ہے دو انڈوں میں اس قدر غذائیت ہوتی ہے جتنی کہ آدھ سیر دودھ یا ایک بڑی چپاتی میں، یہ بوڑھوں، ناتوانوں، دماغی کام کرنے والوں ٹھنڈے مزاج کے مرد عورتوں کے لئے ایک نعمت ہے۔ یہ بدن میں گرم خون پیدا کر کے حرارت غریزی اور امراض سے بچنے کے لئے قوت مدافعت پیدا کرتا ہے۔ بلغم کی جگہ خون پیدا کرنے میں مدد دیتا اور زیادہ پیشاب کو روکتا ہے۔ حکیموں نے موسی سردی کا

مقابلہ کرنے کے لئے نیم برشت (ہاف بوائے) انڈوں میں سیاہ مرچ اور نمک لگا کر کھانے کی عادت صدیوں سے جاری کی ہوئی ہے۔ ایک انڈا کی زردی میں قریباً پندرہ قطرے روغنی اجزا ہوتے ہیں جو حکیموں کی تحقیق کے مطابق گھی سے چار چند طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دودھ پیتے بچوں کو انڈا کھلانے کا رواج دن بدن زور پکڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے تجربہ میں جہاں ہزاروں بلغمی طبیعت والے، سرد مزاج، ضعف اعصاب کی خون اور زیادتی پیشاب کے شایکوں کو حسب عمر و موسم ایک سے چھ انڈوں تک روزانہ دو چار ہفتے بطور ناشتہ چائے یا دودھ کے ساتھ استعمال کرا کے نئی طاقت اور نئی جوانی حاصل کرتے مشاہدہ کیا ہے وہاں تیز حس رکھنے والے سینکڑوں گرم مزاج طالب العلموں کو اس کے استعمال سے بے خوابی، زیادتی یورک ایسڈ اور کمزور کرنے والی رطوبتوں کے خارج ہوتے رہنے کی بیماری میں مبتلا پایا ہے۔ زیادتی پیشاب اور ضعف اعصاب کے مریضوں کو انڈوں کے ساتھ مغز بادام مغز پستہ، مغز چلغوزہ سات سات دانے اور سیاہ مرچ تین دانے کوٹ ملا کر صبح یا شام استعمال کرنا مفید ہے شادی شدہ دماغی کام کرنے والے کچا انڈا یا گرم دودھ میں انڈا ملا کر کے یا نیم برشت (فرائی یا ہالف بوائے) سیاہ مرچ اور نمک خوردنی بطور مصالحہ لگا کر صبح یا شام استعمال کر سکتے ہیں، موسمی سردی سے تکلیف محسوس کرنے والے افراد ایک دو انڈوں کو فرائی کر کے چار ماشے سے ایک تولہ تک۔

مجموع فلاسفہ ملا کر بطور ناشتہ سادہ یا ڈبل روٹی لگا کر استعمال فرمائیں، کم خون، ضعف اعصاب اور کمزوری سے درد کر کے شاک اور کورک اور پیانہ کا پانی کمی اور شہد سے ایک ایک خول خالی انڈے کا بھر کر دھیمی آنچ پر باری باری ڈالتے جائیں اور فرائی پان کو چھپچھپ سے ہلاتے رہیں۔ پانچ دس منٹ میں گاڑھا ہونے پر دو انڈے ملا کر آگ سے اتار کر بطور

ناشتہ شوق فرمائیں اور دوپہر کے کھانے تک سوائے موسمی یا خشک پھلوں کے کچھ نہ کھائیں تو دو چار ہفتوں میں عوارض دور ہو کر صحت قابل رشک ہو جائے گی جوڑوں اور پٹھوں کے درد کا مریض خواہ کیسا ہی تڑپ رہا ہو تین چار انڈوں کی زردی میں چھ ماشے پسا ہو البان کو ڈیہ ملا کر فرائی پان میں ڈال کر تیز آنچ پر کڑھ کر لت پت کریں چند منٹ میں انڈے روغن چھوڑنے لگیں گے۔ اس روغن کو احتیاط سے علیحدہ کر کے جوڑوں پر ماش کرنے سے درد فوراً دور ہو جائے گا۔ سردیوں میں پسلی کا درد عموماً ہو جاتا ہے۔ ایک انڈا کی زردی میں دو تین ماشے سوئڈھ اور صبررز (ایلووا) پس کر ملا کر نیم گرم کپڑے پر لگا کر مقام درد پر لگائیں انشاء اللہ درد دور ہو جائے گا۔

ایک انڈے کی سفیدی چھٹا تک دو چھٹا تک پانی میں ملا کر بیٹھا کر کے چائے کے تچھے برابر دن میں تین چار مرتبہ پلانے سے بچوں کے رنگ برنگ دستوں کو صحت ہو جاتی ہے۔ سوکھے بچوں میں روزانہ ایک عدد زردی انڈا کسی موٹے گف کپڑے پر لگا کر بچے کے پاخانے کی جگہ رکھ کر اوپر سے ننگوٹ باندھیں چند روز اسی طرح ایک زردی سوکھے بچے کی پیٹھ کے راستے جذب کرانے سے بفضل خدا بچہ موٹا تازہ ہو جائے گا۔ انڈے کی سفیدی پھریری سے منہ کے چھالوں اور آگ سے جلے ہوئے مقامات پر لگانے سے فوری تسکین ہو جاتی ہے انڈے کا چھلکے ایک پاؤ جھلی سے صاف کر کے دو دن لیموں کے پانی میں کھل کر کے ایک سیر اور لیموں کا پانی ملا کر کسی مٹی کے کوزے میں ڈال کر اسے اچھی طرح مٹی اور روئی ملا کر کپڑا اوٹی کر کے خشک ہونے پر ایک من کوٹوں کی آگ میں رکھیں۔

انڈوں کے چھلکے بھسم ہو جائیں گے کھل کر کے چھان کر شیشی میں محفوظ کر لیں یہ سفوف دورتی سے ایک ماشہ تک دودھ دہی لسی یا چائے کے ساتھ چند روز میں زیادتی پیشاب، سل دق، پرانی کھانسی، کمی کشیم اور مردوں عورتوں کو کمزور کرنے والی رطوبتوں کے

اخراج کو روک دیتا ہے انڈے کو آگ پر پکانے سے اس کے قیمتی اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں اور تیز آگ پر نکیہ بنا کر کھانے سے فائدہ کی جگہ پیٹ کا درد اور بد ہضمی ہو جاتی ہے انڈوں کا زیادہ استعمال گرمی چڑچڑاپن اور یورک ایسڈ بڑھ جانے سے جوڑوں کا درد پیدا کر دیتا ہے دنیا بھر کے محققین کی تحقیقات اور تجزیات کے مطابق انسانی غذا کیلئے قدرت کے انعامات میں سے صرف دو نعمتیں ایسی ہیں جنہیں مکمل غذا قرار دیا گیا ہے ان میں سے ایک انڈہ اور دوسرا دودھ ہے آج کے اس دور میں دستیاب دودھ کا خالص اصل اور ملاوٹ سے پاک ہونا کسی معجزہ سے کم نہیں ہے انڈے کے ساتھ بھی شاید یہی ہوتا اگر قدرت نے اس پر خول چڑھا کر خود نہ پیک کر دیا ہوتا لہذا ملاوٹ اور بناوٹ کے اس دور میں انڈہ ہی وہ واحد غذا ہے جو نہ صرف ایک مکمل غذا ہے بلکہ قدرت کی طرف سے ہر ملاوٹ، کثافت سے پاک اور پیک شدہ ہے۔

شائد بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ کی بنیاد، بناوٹ، اور نشوونما پروٹین ہی سے ہوتی ہے۔ یورپ اور دیگر ترقی یافتہ ممالک میں تمام ڈاکٹر اور انسانی صحت کے ادارے، حاملہ ماؤں کو روزانہ دو انڈوں کے استعمال کی ہدایت کرتے ہیں اور سکول جانے والے بچے جن کے جسم اور ذہن دونوں نشوونما پا رہے ہوتے ہیں انہیں انڈوں کے روزانہ لازمی استعمال کی تلقین کرتے ہیں اور آپ کے لئے شائد یہ بات بھی بہت دلچسپ ہوگی کہ یورپ کے بہت سے سکولوں میں صبح اسمبلی میں سب سے پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آیا کوئی ایسا بچہ ہے جو صبح ناشتے میں انڈے نہ کھا کر آیا ہو تو بمشکل ایک دو بچے ہاں میں جواب دیتے ہیں۔ جنہیں سکول کے ڈائیننگ ہال میں لیجا کر انڈے کھلائے جاتے ہیں یا پھر دودھ پلایا جاتا ہے جو بالکل خالص ہوتا ہے اور پھر انہیں کلاس روم جانے کی اجازت دی جاتی ہے۔

انسانی غذا کے لئے ضروری کوئی ایسا پروٹین یا وٹامن نہیں ہے جو انڈے میں موجود نہ ہو اور خاص طور پر انسانی جسم کی ضرورت کے لئے لازم کو لیسٹرول جو انسانی صحت، توانائی اور چستی کو برقرار رکھتا ہے انڈے میں موجود ہے۔

پچھلے دنوں امریکی ادارہ صحت سے ایک تحقیقی رپورٹ جاری ہوئی جو دنیا بھر کے میڈیا اور ہمارے تمام قومی اخبارات میں شائع ہوئی جس کے مطابق ایک لاکھ افراد کو مسلسل اور متواتر انڈے کھلا کر خصوصی رپورٹس اور چیک اپ کئے گئے جس کے مطابق یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ متواتر انڈے کھانے والے افراد کو دل کی کوئی بیماری لاحق نہیں ہو سکتی۔

ہمارے ہاں انڈے کی خوراک کو گرمی اور سردی سے مشروط کر دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی جیسے ہمارے حکیم اور طبیب سردیوں میں نہانے سے منع کیا کرتے تھے جبکہ انڈہ تو پروٹین اور وٹامنز کا ایک کپسول ہے جس کا کسی سردی یا گرمی سے کوئی تعلق نہیں یہ تو قدرت کے انعامات میں سے ایک نعمت ہے جیسا گرمیوں میں اور طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں سردیوں میں اور طرح کے اگر قدرت کی حکمت میں گرمیوں میں ممنوع ہوتا تو مرغیاں گرمیوں میں کبھی انڈے نہ دیتیں قانون فطرت کے مطابق جو چیز سارا سال انسان کے لئے قدرت نے مہیا کر دی ہے اس کا مسلسل استعمال اس کی فطری ترغیب دیتا ہے اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں سب سے زیادہ تحقیق انسانی نشوونما صحت اور اس کے لئے خوراک و ادویات پر ہوتی ہے وہاں عالمی ادارہ صحت نے اپنی تحقیقات کی روشنی میں ہر موسم اور ہر اک عمر میں انسانی صحت کیلئے دو انڈوں کا روزانہ استعمال ضروری قرار دیا ہے۔

امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل کی ایک حالیہ اشاعت میں ایک مطالعہ شائع ہوا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ فقط ایک انڈہ روزانہ کھانے سے مرض قلب کا خطرہ نہیں بڑھتا بلکہ خطرے کا باعث وہ چکنائی ہے جیسے گھی اور کھن ہے جس میں انڈا ہلا جاتا

ہے یا وہ غذائیں جو اٹھے کے ساتھ ناشتے میں کھائی جاتی ہیں مثلاً امریکہ اور یورپ کے لوگ روایتی طور پر اپنے ناشتے میں دواٹھے بیکن (سورکا گوشت) سائیج مکھن اور ٹوسٹ کھاتے ہیں لیکن ان میں سیر شدہ لچکنائی پائی جاتی ہے۔ سائیج میں گوشت کی آنت تاجھلی کے اندر تلا ہوا مسالے دار قیمہ ہوتا ہے اس قسم کی غذا مضر صحت ہوتی ہے یہ مطالعہ نیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے صحت کے مالی تعاون سے ہارورڈ پبلک سکول کے ماہر غذائیات ڈاکٹر فریڈک بی ہوکی سربراہی میں تکمیل کو پہنچا اس میں بریکم میں واقع نرسز ہیلتھ انسٹیٹیوٹ اور عورتوں کے ہسپتال میں 80082 خواتین سے اعداد و شمار جمع کئے گئے نیز ہارورڈ کے پبلک ہیلتھ سکول کے 37851 مردوں کو بھی شامل کیا گیا 1980 سے 1994 تک 939 خواتین کو مرض قلب لاحق ہوا اور 563 کو فالج ہوا 1984 سے 1994 تک 866 مردوں کو مرض قلب اور 258 کو فالج ہوا رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ روزانہ ایک انڈ استعمال کرنے والوں میں مرض قلب کے خطرے میں کوئی خاص فرق نہیں تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ذیابیطس کے مریض افراد کیلئے انڈوں سے بہت زیادہ استعمال کے حملہ قلب یا فالج کے امکانات ہوتے ہیں۔

جن افراد کا کولسٹرول پہلے ہی سے بہت زیادہ ہے انہیں بہر حال کسی حد تک احتیاط کرنا پڑے گی۔

ہومیوپیتھی کی جدید تحقیق نے بھی یہ بات سچ ثابت کر دکھائی ہے کہ انڈے جیسی فطری غذائی نعمت کا نعم البدل دنیا میں نہیں انڈے کا باقاعدہ استعمال بہت سی بیماریوں میں قوت اور نعمت مدافعت کا کام بھی کرتا ہے۔

الغرض انڈوں کا مسلسل استعمال انسانی صحت اور خاص طور پر حاملہ خواتین اور بچوں کیلئے از حد ضروری ہے۔

ایک تحقیقی ادارے MSNBC نے انکشاف کیا ہے کہ اگر صبح کے ناشتے میں چند انڈے، بیکن اور مکھن لگے ہوئے تو استعمال کئے جائیں تو دل کے مریض کے لئے یہ چیزیں نقصان دہ ہیں لیکن ایک جامع تحقیق سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ روزانہ ایک انڈہ کھانا صحت کے لئے مضر نہیں ہے۔

محققین کو ریسرچ سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جن صحت مند لوگوں نے ہفتے میں سات انڈے کھائے ان میں دل کے دورے کے امکانات اس گروپ سے کم تھے جنہوں نے ہفتے میں چند انڈے استعمال کئے۔

اب ماہرین بڑے محتاط اندازے سے اور آہستہ آہستہ اس نظریے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ انڈا ایک جان لیوا غذا ہے۔ گزشتہ تین برسوں سے دل کے مریضوں کو ہفتے میں ایک انڈا کھانے کی اجازت تھی لیکن اب ماہرین کے نزدیک روزانہ ایک انڈہ کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ ماہرین تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ محدود پیمانے پہ انڈوں کا استعمال صحت کیلئے مفید ہے کیونکہ انڈوں کے استعمال سے پلازمہ (خون) میں جو کولیسٹرول کا اضافہ ہوتا ہے وہ اس سے حاصل شدہ فوائد کی نسبت تشویشناک نہیں ہے۔ یہ بلاشبہ ایک جرات مندانہ بیان ہے۔

امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے جرنل (jama) میں سائنسدانوں نے انڈے کی خوبیوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انڈوں میں موجود اینٹی آکسائیڈینٹ فولیٹ بی ویٹا منز اور غیر سیر شدہ چربی بلاشبہ صحت کے لئے فائدہ مند ہے۔ ایک بڑے سائز کے انڈوں میں اوسطاً 215 ملی گرام کولیسٹرول ہوتا ہے جبکہ لوگوں کی صحت کے بارے میں امریکہ میں جو سفارشات مرتب کی گئی ہیں ان کے مطابق امریکیوں کو روزانہ 300 ملی گرام سے زائد کولیسٹرول استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ ٹفٹس یونیورسٹی بوسٹن کے ڈیپارٹمنٹ آف

ایگری کلچرز نیوٹریشن کی پروفیسر ڈاکٹر ہیلسن کا کہنا ہے کہ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے بنیادی نظریے میں ان نئی سفارشات سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور ایک صحت مند امریکی کو واقعی 300 ملی گرام سے زائد کولیسٹرول استعمال کرنے سے پرہیز کرنی چاہئے۔ ہارڈ کے محققین کا تجزیہ یہ ہے کہ وہ مرد اور خواتین جو روزانہ ایک انڈہ استعمال کر رہے تھے اور وہ جو ہفتے میں ایک سے بھی کم انڈہ کھا رہے تھے ان کی صحت میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا۔

ایک دن میں دو انڈے کھانا سخت نقصان دہ تصور کیا جاتا ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر روزانہ ایک انڈہ صحت کے لئے فائدہ مند ہے تو ایک زائد انڈے کا روزانہ استعمال بھی مفید ہونا چاہئے امریکن ایگ بورڈ نیوٹریشن سینٹر کے سربراہ ڈونلڈ میک نمادہ کا کہنا ہے کہ انڈے پر کی گئی نئی تحقیق سے اس شاندار غذا کے بارے میں لوگوں کی بنیادی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی اور وہ بلا خوف خطر انڈوں کا استعمال کر سکیں گے۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ جن لوگوں کو کولیسٹرول کا خوف سوار ہے وہ اب بھی اس حیران کن غذا کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے رہیں گے۔

کیا آپ یقین کریں گے کہ آپ صرف انڈوں پر صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں روس میں قیام کے دوران میری ایک امریکی بزنس مین سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے اپنے اغواء ہونے کی کہانی سنائی کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے اسے اغواء کر کے گوٹے مالا کی ایک غار میں بند کر دیا تاکہ تاوان حاصل کیا جاسکے انہوں نے مجھے چار ماہ قید میں رکھا اور اس دوران انڈوں کے سوا کوئی چیز بھی کھانے کے لئے نہیں دی۔ جب بالآخر رہائی ملی تو میری صحت پہلے سے بہتر تھی۔ اس امریکی کی داستان سے متاثر ہو کر جب میں ترکی پہنچا تو میں نے ایک ماہ مسلسل صرف انڈوں کا استعمال کیا۔ میں صبح دوپہر شام تین تین انڈے کھایا

کرتا تھا۔ مہینے کے اختتام پر میں نے خود کو بہت بہتر محسوس کیا لیکن اس کے بعد میں ایک سال تک ایک انڈہ بھی نہ کھا سکا۔

بچوں کو ماں کا دودھ پلانے کی افادیت اور تعلیمات نبوی ﷺ

تفسیر زاہدی میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اپنے بچے کو اسحق اور فاحشہ عورتوں سے دودھ نہ پلاؤ کیونکہ دودھ کا اثر بچے کے جسم اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کیلئے مکمل غذا ہے۔ اس کے اجزاء بچے کو صحت مند تو بنا رکھتے ہیں اور بچہ انہیں آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ ماں کے دودھ میں اینٹی باڈیز (Anti Bodies) پائی جاتی ہیں جو بچے کو مختلف بیماریوں اور الرجی وغیرہ سے بچاتے ہیں۔ ماں کا دودھ پینے والے بچوں کی ذہنی نشوونما تیز ہو جاتی ہے اور وہ چاک چو بند ہوتے ہیں۔

- 1 بچے کو اپنا دودھ پلانے سے ماں اور بچے میں محبت بڑھتی ہے۔
- 2 پیدائش کے فوراً بعد بچے کو دودھ دینے والی ماؤں کی پچہ دانی جلدی سے سکتا جاتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ مقدار میں خون ضائع نہیں ہوتا۔
- 3 خواتین کا حمل کے دوران بڑھنے والا وزن دودھ پلانے سے جلدی نازل ہو جاتا ہے۔

- 4 بچوں کو اپنا دودھ پلانے والی مائیں چھاتی اور بیضہ دانی کے کینسر سے محفوظ رہتی ہیں۔
- 5 بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ بہت ضروری ہے اس سے ماں اور بچے کی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بچے کو اپنا دودھ پلانے والی مائیں قدرتی طور پر حاملہ

ہونے سے بچ جاتی ہیں جو کسی بھی مانع حمل طریقے سے ہزار گنا بہتر طریقہ ہے۔

ماؤں کے لئے ایک مشورہ

بچے کو اپنا دودھ پلانے والی ماؤں کا کچھ خرچ نہیں اٹھتا۔ بچے کو ڈبے کا دودھ چھ ماہ تک پلانے سے کم از کم دس ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں جبکہ اس میں بوتل کی قیمت، پانی کو اپالنے اور بوتل کو ابال کر جراثیم سے پاک کرنے کیلئے استعمال ہونے والے ایندھن اور اس سارے کام پر صرف ہونے والے وقت کی قیمت شامل نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اتنی رقم کو خرچ کر کے ایک پورے گھر کی غذائی ضرورت کو پورا کیا جاسکتا ہے۔

ماں کا دودھ پینے والے بچوں کے مقابلے میں بوتل سے دودھ پینے والے بچوں میں شرح اموات 10 سے 15 فیصد زیادہ ہے۔ بوتل سے دودھ پینے والے بچے عام طور پر دست کی بیماری، سانس کی بیماری، کان میں انفیکشن اور مختلف قسم کی الرجی کا بھی جلد شکار ہو جاتے ہیں۔

کوئی مائیں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہیں

خدا نے تمام ماں بننے والی خواتین کو اس صلاحیت سے نوازا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلا سکیں۔ دودھ پلانے کی صلاحیت چھ ماہ کی سائز یا ماں کی جسامت سے ہرگز متاثر نہیں ہوتی بلکہ باقاعدہ دودھ پلانے سے دودھ کی مقدار خود بخود بڑھ جاتی ہے جو بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ اس کی تمام غذائی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہے۔

حاملہ خاتون یا دودھ پلانے والی ماں کو اضافی خوراک اور مشروبات کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر ماں اضافی خوراک نہ لے سکے تب بھی بچے کے دودھ کی خاصیت اور مقدار پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جسمانی کمزوری اور غذا کی کمی کے باوجود ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی

ہے۔ جو مائیں ملازمت کرتی ہوں وہ ملازمت پر جانے سے پہلے اگر اپنا دودھ نکال کر محفوظ کر لیں تو بچے کی آیا یاد دیکھ بھال پر مامور فرد کپ اور چھج کے ذریعے بچے کو دودھ پلا سکتا ہے اور پھر ملازمت سے واپسی پر اور رات کو ماں بچے کو اپنا دودھ دے سکتی ہے۔

ہر ماں اپنے پیدا ہونے والے ایک یا ایک سے زیادہ بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ماں کا دودھ نکالنا بہت آسان اور بے ضرر عمل ہے۔ اس طرح مائیں بچے کو اس وقت بھی اپنا دودھ دے سکتی ہیں جب وہ اس کے پاس موجود نہ ہوں یا پھر حالات ایسے نہ ہوں جن میں وہ دودھ پلا سکیں۔ مثلاً ملازمت کی مصروفیات یا سفر کی وجہ سے بچے سے دوری وغیرہ۔

پیدا ہونے والے بچے کیلئے تیاری

دوران حمل مائیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں۔ بچے کو دودھ پلانے اور اپنا دودھ نکالنے کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں۔ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان میں بچے کو دودھ پلانے کی صلاحیت موجود ہے اور ان کا دودھ ہی بچے کی زندگی کیلئے اعمول تحفہ ہے۔ دوران حمل ڈھیلے ڈھالے لباس او کھلے سائز کے برا (BRA) کا استعمال کریں۔ زچگی کے بعد بھی مناسب فننگ والے لباس اور برابر کو ترجیح دیں۔ بچے کی پیدائش سے کئی ہفتے قبل ہی اپنی چھاتیوں کو صرف سادہ پانی سے روزانہ دھوئیں اور کسی قسم کا صابن استعمال نہ کریں کیونکہ صابن کا استعمال چھاتیوں کو خشک کر دیتا ہے اور نپل پھٹ جاتے ہیں جو تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے لوشن، کریم یا مالش کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔

بچے کو دودھ دینا کب شروع کیا جائے؟

1 بچہ پیدا ہونے کے آدھ سے ایک گھنٹے کے اندر اندر اسے دودھ پلانا شروع کر دینا چاہئے۔ ماں کا پہلا گاڑھا، پیلے رنگ کا دودھ (Colostrum) ہرگز ہرگز ضائع نہ کریں کیونکہ اس دودھ میں بچے کیلئے ضروری غذا اور جراثیم سے محفوظ رکھنے کے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔

2 دودھ پلاتے وقت آرام دہ حالت میں بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں ایسا کرنے سے دودھ زیادہ آئے گا، تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور بچہ بھی پرسکون رہے گا۔

3 بچے کو دودھ پلاتے وقت اس کی پوزیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھیں اور کوشش کریں کہ وہ چھاتی کا زیادہ حصہ منہ میں لے لے نہ کہ صرف نپل۔ دودھ پلانے کا عمل ہر طرح کی تکلیف سے پاک ہے اگر دودھ پلانے سے کسی قسم کے درد یا کھچاؤ کا احساس ہو تو بچے کی پوزیشن تبدیل کر لیں۔

بچے کو دودھ کب دینا چاہئے؟ اس کا جواب بچہ ہی بہتر دے سکتا ہے۔ ہر دو سے ڈھائی گھنٹے کے بعد بچے کو دودھ چاہئے اور اگلے وقت کا وقفہ ضرور دیں تاکہ ایک بچے کی عادت بنتے ہو اور دوسرا ماں کا دودھ بڑھ جائے۔ دودھ پلاتے وقت بچے کی مرضی کا احترام کریں، ہر جتنا وقت وہ پیٹ بھرنے میں لے لے اسے دیں۔ زیادہ دیر تک دودھ پلانے سے بھی دودھ کم نہیں ہوگا۔ بچہ جتنا زیادہ دودھ پیتا ہے اسی قدر نیا دودھ بنتا ہے۔ کبھی کبھی بچہ آدھ گھنٹے کے بعد ہی بھوک محسوس کرنے لگے لہذا اسے دودھ ضرور پلائیں اور یہ خیال نہ کریں کہ اس کم وقفے میں دودھ موجود نہ ہوگا۔ ماں جتنی مرتبہ بھی بچے کو دودھ پلائے گی، دودھ میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ زچگی کے بعد خواتین میں دودھ آنے میں دو سے چھ دن لگ جاتے ہیں اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ بچے کو مسلسل دودھ پلانے سے دودھ آتا

شروع ہو جاتا ہے۔

بچے کو کس عمر تک دودھ پلایا جاسکتا ہے

1 جو مائیں 24 گھنٹوں میں 12-10 مرتبہ بچے کو اپنا دودھ پلاتی ہیں وہ 98% مواقع پر حاملہ ہونے سے بچ سکتی ہیں جو کہ کسی بھی مانع حمل طریقے سے کئی درجے بہتر طریقہ ہے۔

2 بچے کو کم از کم دو سال کی عمر تک ماں کا دودھ پلانا چاہئے یعنی جب تک بچہ پوری طرح ٹھوس غذا کھانا شروع نہ کر دے، دودھ دینا جاری رکھیں۔

3 ٹھوس غذا کا آغاز چھ ماہ کی عمر سے کر دینا چاہئے۔ کچھ بچوں کے معاملے میں چھ ماہ سے پہلے ٹھوس غذا دینے کی ضرورت پیدا ہوتی ہے مگر یہ عمر کسی طرح بھی ۳ ماہ سے کم نہیں ہونی چاہئے۔

4 ٹھوس غذا میں تیار کردہ ہونی چاہئے۔ جس میں کھجور، دلیہ، ساگودانہ، سوچی کی کھیر، مسلا ہوا کیلا وغیرہ شامل ہیں۔ بازاری یا پیکٹوں میں بند ٹھوس غذا سے پرہیز کرنا چاہئے۔

جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت کا دودھ پئے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل دو سال دودھ پلائیں اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہئے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اس کا جو کچھ معاوضہ ملے کرو، وہ معروف

طریقے سے ادا کرو اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ (البقرہ آیت 233)

ماں کا بچے کو اپنا دودھ پلانا خود اس کی اور بچہ کی صحت کیلئے بے حد اہم چیز ہے لیکن بد قسمتی سے کچھ مادہ پرست ڈاکٹروں اور ڈبے کا دودھ بنانے والوں کے مشترکہ پروپیگنڈے نے ماں کے قدرتی دودھ کے خلاف ایسا زہر پھیلایا ہے کہ ماں کے دودھ کو کبھی کبھی تو تمسخر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے مگر حالیہ سالوں میں سائنس اس بات پر مجبور ہو گئی ہے کہ وہ عالمی ادارہ صحت (WHO) کے کہنے کے مطابق اس قسم کے پروپیگنڈے کو ممنوع قرار دے دے۔

اس آیت کی تشریح کے سلسلے میں، حسب ذیل سوالوں کے جواب میں سائنسی نکتہ نظر سے دوں گا۔

- 1 ماں کا دودھ بچے کو کیا دیتا ہے؟
 - 2 ماں کا دودھ کتنی دفعہ اور کتنے وقفوں سے پلانا چاہئے؟
 - 3 دودھ پلانے کا اثر ماں پر کیا ہوتا ہے؟
- ان سوالوں کے جواب میں اسی ترتیب ہی سے دوں گا۔

ماں کے دودھ کی فطری صفات

اب یہ عام فہم بات ہے کہ غذائیت کے لحاظ سے انسان کو تین قسم کی بنیادی خوراک یعنی فاسفورس اور وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سب اجزاء یعنی حیاتیات (پروٹینز) شکر، چکنائیاں، فاسفورس اور وٹامنز ماں کے دودھ میں موجود ہوتے ہیں۔ مگر اس دودھ کا فرق یہ ہے کہ اس میں یہ اجزاء بے حد حیران کن اور نازک ترین تناسب سے مرتب شدہ ہوتے ہیں۔ اس کا زیادہ اہم راز یہ ہے کہ اس آمیزش میں جربی دالے سالے

بے حد چھوٹے ذروں کی صورت میں ایک جیسے پھیلے ہوتے ہیں۔

ماں کے جسم کی حالت چاہے کیسی بھی ہو اس کا دودھ اس قدر مقوی ہوتا ہے کہ اک ارب پتی رئیس کے کھانے کی میز کی کوئی چیز بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بطور خاص پہلے چھ مہینوں میں تو نوزائیدہ بچے کی وٹامنز کی تمام ضروریات ماں کے دودھ میں موجود ہوتی ہیں۔ سچی سائنس تو ان والدین کی نادانی پر ہنستی نظر آتی ہے جو دوسرے مصنوعی طریقوں سے بچے کی ضروریات، بشمول وٹامن سی، پوری کرنے کے لئے سرگرداں رہتے ہیں۔

اب میں ماں کے دودھ کی ہوش گم کر دینے والی ایک خصوصیت کو بیان کروں گا۔

شروع کے چھ مہینوں میں ماں کے دودھ میں ایسی اینٹی بوڈیز

(Antibodies) پائی جاتی ہیں جو بچے کو چھوٹ چھات کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں اس میں چیچک سے بچاؤ کی اینٹی بوڈیز اس ماں کے دودھ میں بھی ہوتی ہیں جسے خود کبھی چیچک نہ ہوئی ہو۔ حیاتیاتی طور پر ایک ناقابل حل معممہ ہے۔ البتہ یہ اس حقیقت کی نشاندہی ہے کہ اللہ، انسان کو کس طرح سے عزیز رکھتا ہے اور اسے کتنی اہمیت دیتا ہے۔

کچھ لمحہ اور بے دین سائنس دانوں کا یہ احمقانہ بیان ہے کہ ماں کے دودھ میں

فولاد (آئرن) کی کمی ہوتی ہے حالیہ سوالوں میں یہ دریافت ہوا ہے کہ شروع پچھن میں خون، جگر میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ (جبکہ بڑوں میں خون ہڈی کے گودے میں بنتا ہے) اور یہ کہ جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے اسکے جگر میں فولاد ذخیرہ شدہ ہوتا ہے اس خیالی کمی کو پورا کرنے کیلئے فولاد کی حامل جو دوائیاں چھوٹے بچے کو دی جاتی ہیں وہ اسے زندگی بھر کیلئے انٹریوں کی سوزش (Enteritis) کا شکار بنا دیتی ہیں۔

بیالوجی کے علم کے مطابق یہ اشد ضروری ہے کہ بچے کو شروع کے چھ مہینوں میں

ماں کا دودھ ضروری طور پر دیا جائے اسلئے کہ جگر، جو عام طور پر ہاضمہ کے افعال کا مرکز ہوتا

ہے اس دور میں بچہ غذائیت بڑھنے اور بڑا ہونے کی مقصد کیلئے صرف کرتا ہے نہ کہ صرف توانائی حاصل کرنے کے لئے۔ اسی وجہ سے یہ تقریباً ناممکن بات ہے کہ مخصوص قسم کی خوراک اور حیاتین (وٹامنز) کسی اور طرح حاصل کئے جاسکیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ بچاس سے زیادہ کی تعداد میں وٹامنز پائے جاتے ہیں جن میں سے چند وٹامنز ہی کو علم طب (میڈیسن) ابھی تک پہچان سکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قادر مطلق نے نوزائیدہ بچے کی نشوونما اپنے بے مثال اور مکمل کنٹرول کے تحت صرف دودھ ہی سے مقرر کی ہے اس آسمانی نعمت کی نقل نسبتاً ناقص انسانی عقل کے ذریعے کرنا ایسی ہی حماقت انگیز بات ہے جیسے کوئی خلائی جنگ کو تیرکمان سے لڑنے کی کوشش کرے۔

ماں کے دودھ میں وقفے اور درکار عرصہ

بچے کے دودھ پینے پر طرد لوگ جو پابندی لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسے چار چار گھنٹوں کے بعد دودھ دیا جائے۔ ہضم کے عام وقت کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ تخیلاتی پابندی لگائی ہے۔ حالیہ سالوں کی ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دودھ تو صرف 45 منٹوں میں ہضم ہو جاتا ہے۔ جب یہ وقفہ یا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ماں کے پستانوں میں اضطرابی تعلق روحانی (Reflex Telepathic) کے ذریعے، دودھ خود بخود اتر آتا ہے۔ اور بچہ عام طور پر بھوک سے رونے لگتا ہے، یہ سب کچھ ایک طرح سے حیاتیاتی کمپوٹری نظام ہے اور جب قدرت کے عطا کردہ نظام الاوقات کو ترک کر کے لے وقفے دیے جاتے ہیں تو بچے کے پیٹ میں تیزابیت وافر مقدار میں بن جاتی ہے جس سے اس کے نظام ہضم کو شدید نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ بھی اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اس کی وجہ سے السر (Ulcers) پیدا ہوتے ہیں جن کا عذاب پوری زندگی رہتا ہے۔ جہاں تک دودھ پلانے کے وقت یا عرصہ کا تعلق ہے اس سلسلے میں علم طب

(میڈیسن) نے ابھی حال ہی میں ماں کے دودھ کی اہمیت کو سمجھنا شروع کیا ہے مگر اس سلسلے میں من مانا وقت تجویز کیا گیا ہے، جو صرف نو مہینے ہے۔ ماں کے دودھ پلانے کی وجہ یا منطوق دو حقائق پر رکھی گئی ہے۔

۱ جگر پہلے ہی بے حد مصروف ہوتا ہے اور ہمہ وقت خون بنانے میں لگا ہوتا ہے چنانچہ دودھ کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ خون بنانے کے سلسلے میں جگر کو پورے دو سال لگ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ اپنے اصل کام کی طرف آئے یہی وجہ ہے کہ ماں کا دودھ بھی دو سال کی عمر تک جاری رکھنا بے حد ضروری ہے۔

ب بچے کے بڑھنے کا سب سے اہم مرحلہ، جس وقت کہ حیاتیاتی طور پر اشد ضرورت پڑتی ہے پہلے دو سال کا وقت ہی ہوتا ہے۔ طبی سائنس نے بھی اس حقیقت کو مکمل طور پر تسلیم کر لیا ہے کہ بچے کی زندگی کے پہلے دو سال اس کی نشوونما میں بے حد اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ اب دیکھئے کہ کس طرح اس آیت میں یہ معجزہ بیان کر دیا گیا ہے کہ ماں کا دودھ پلانے کا عرصہ دو سال ہی ہے۔

لمدوں کی فحالت کے لئے میں یہاں ایک اور نکتے کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے بھی مشرق وسطیٰ کے معاشروں میں ماں کے دودھ پلانے کا عرصہ ۴ سے ۵ سال تک ہوا کرتا تھا۔

دودھ پلانے کے سلسلے میں ایک آخری نکتہ یہ ہے کہ بچپن کے زمانے کی ذہنی تکالیف اور بیماریوں سے متعلق تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگر ایک بچہ دو سال تک اپنی ماں کا دودھ پیتا رہے تو اسکی ذہنی صحت خاصی مضبوط ہوتی ہے پوری دنیا کی سطح پر مطالعات نے ظاہر کیا ہے کہ انڈونیشیا اور فلپائن میں کوئی بچہ بھی ذہنی مرض کا شکار نہیں ہوا ہے۔ کہ اس حیرت ناک حقیقت کی وجہ سے ان ملکوں میں بچوں کو تقریباً دو سال تک ماں

کے دودھ کا میسر رہنا ہے۔ اس کی وجہ سے ان بچوں میں تحفظ کا احساس اور مادری شفقت کا ملنا ہے۔

دودھ پلانے کا ماں پر اثر

۱ سینے (پستانوں) کے غدودوں (گلینڈرز) کا صحت مند عمل

پوری دنیا کے حاصل کردہ اعداد و شمار سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان ماؤں میں جنہوں نے ایک سے دو سال تک بچے کو پناہ دودھ پلایا ہو، سینے کا کیفر شاد و نا در ہی ہوتا ہے۔ مگر جن ماؤں نے بچوں کو اپنا دودھ نہ دیا ہو ان کو اس بیماری کے لگنے کا شدید خطرہ رہتا ہے۔ صرف اسی وجہ سے ہی ایک سے دو سال تک ماں کا دودھ پلانا خود اس کے لئے کیفر سے بچاؤ کا ایک موثر ذریعہ ہو سکتا ہے۔

ب دودھ پلانے کے دوران ماں کے جسم کا حیات نو حاصل کرنا

دودھ پلانے والی ماؤں کا جگر پوری استعداد سے کام کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے ماں کے جسم کے تمام کیمیادی مسائل قدرتی طور پر زیر معائنہ رہتے ہیں۔ مزید یہ کہ چونکہ اس وقت ماں کے خون میں تمام جواہر کوئیجان یا کمس ہونا پڑتا ہے اس لئے ماں کے خلیے دودھ پیدا کرتے رہتے ہیں۔

ستر بیماریوں سے شفا کا غذائی علاج

صاحب جامع کبیر نے حضرت محمد ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے علیؑ! کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہئے اسلئے کہ ستر امراض اور بیماریوں سے نمک میں شفا رکھی گئی ہے اور ان میں سے چند یہ ہیں: جنون، جذام، کوڑھ، پیٹ کا درد اور دانت کا درد واللہ اعلم۔

حضرت علیؑ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور ﷺ نماز پڑھ رہے تھے آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا تو بچھونے کا ٹکڑا لیا۔ حضور ﷺ نے اپنی پاپوش مبارک سے اس کو مار ڈالا جب فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے اور نہ غیر نمازی کو یا فرمایا کہ نہ نبی کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی غیر نبی کو پھر پانی اور نمک مخلوایا دونوں کو ایک برتن میں ڈالا اور اس کو انگلی پر جس میں بچھونے ڈسا تھا ڈالتے اور ملتے اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس پر پڑھتے اس کو نبی تھے نے روایت کیا۔

گویا حضور ﷺ نے امت کے سامنے زہریلے جانور کے زہر کا علاج کیا کہ نمک میں زہروں کے اثرات کو زائل کرنے کی قوت موجود ہے۔

نمک کے تریاقیت کا اس سے اور زیادہ کیا ثبوت اور دلیل چاہئے۔

خاتم النبیین ﷺ نے جس طرح اور بہت سی ادویہ بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک نمک کی بھی ہے۔

ایک بار حضرت معاویہؓ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں ایک لاکھ درہم پیش کئے حضرت عائشہ صدیقہؓ نے وہ ساری رقم مدینہ منظرہ کے غرباء و مستحقین میں شام تک تقسیم کر دی اور جب وقت افطار روزہ آیا تو خادمہ نے عرض کیا ماں! اگر رقم سے کچھ رکھ لیتی تو آج ہم بھی گوشت سے روزہ افطار کرتیں۔ فرمانے لگیں اب ذکر کرنے سے کیا فائدہ پہلے بتاتی تو رکھ لیتی نمک لے آؤ تا کہ روزہ افطار کر لیں۔

نمک ہماری روزمرہ استعمال کی اشیاء میں شامل ہے ہمارے ہاں کوئی سالن اس کے بغیر نہیں پکتا۔ نمک انسانی جسم کے ضروری کیمیائی مادوں میں بھی شامل ہے۔ یہ پسینہ کے ذریعے ہمارے جسم سے خارج بھی ہوتا رہتا ہے اور خوردنی استعمال کے ذریعے ہم اپنے جسم میں نمک کی کمی کو پورا کرتے رہتے ہیں

اسلام میں بھی نمک کی فضیلت بیان کی گئی ہے صاحب جامع کبیر نے حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا اے علیؓ کھانا نمک کے ساتھ شروع کرنا چاہئے اس لئے کہ سترہ امراض سے نمک میں شفاء رکھی گئی ہے۔ جن میں جنون جذام پیٹ درد، دانت درد وغیرہ بھی شامل ہیں۔

حضرت انس بن مالکؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کھیرے کو نمک کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔

جب آپ نمک دان کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو یہ سوچ لیں کہ نمک کے عادتاً

زیادہ استعمال سے ہائی بلڈ پریشر کا خدشہ ہوتا ہے، جس کی پیچیدگیاں زندگی کو وقت سے پہلے ہی ختم کر سکتی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ نمک کی ایک قلیل مقدار زندگی کیلئے ضروری ہے۔ یہ دل، گردوں، اعصاب اور جسم کے تمام نظاموں کے معمول کے مطابق افعال میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کی اضافی مقدار اتنی ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے جتنی شراب، سگریٹ اور فضائی آلودگی۔

کیا آپ ضرورت سے زیادہ نمک استعمال کر رہے ہیں؟ اس کے امکانات

روشن ہیں، کیوں کہ نمک کے استعمال کا غلط رواج معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ لوگوں کا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ایک عام انسان کو صحت برقرار رکھنے کے لئے روزانہ دو گرام (1/4 سے 1/2 چمچ) نمک کا استعمال ضروری ہے، لیکن تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایک عام آدمی روزانہ تقریباً 10 گرام یعنی دو چمچ تک نمک استعمال کر لیتا ہے۔ اتنی یا اس سے زائد نمک کی مقدار کا روزانہ استعمال صحت کے لئے واقعی خطرناک ہے۔

پچھلی چار پانچ دہائیوں کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بلند فشار خون میں دیگر عوامل کے علاوہ نمک کا کردار بھی نمایاں ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ بیش تر افراد، خاص طور پر جن افراد میں ہائی بلڈ پریشر ہونے کا رجحان ہوتا ہے، اکثریت نمک سے حساس ہوتی ہے۔ اضافی نمک کے آبادی پر اثرات کے حوالے سے خاصی تحقیق ہو چکی ہے کہ ہر عمر میں بند پریشر اور نمک کا تعلق ضروری ہے، جب کہ یہ تعلق درمیانی اور بڑی عمر کے افراد میں زیادہ شدید ہے۔ نیز ایک عام انسانی کے لئے نمک کا کم استعمال کسی نقصان کا باعث نہیں، البتہ بلند فشار خون کے مریض اگر نمک مقررہ مقدار سے بھی کم لیں یا بالکل بند کر دیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ نمک روکنے سے ان کے بلڈ پریشر میں کسی حد تک کمی آجائے گی اور وہ

اس مرض کی پیچیدگیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ انسان چھوٹی عمر ہی سے نمک کے زیادہ استعمال سے پرہیز کرے اور عمر بڑھنے کے ساتھ وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر چیک کرواتا رہے۔ ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بلڈ پریشر میں ہلکے سے اضافے کو غذا میں نمک کم کر کے قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔

اہم بات یہ ہے کہ بلند فشار خون کا مرض ہونے سے پہلے ہی اس سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ پہلے قدم کے طور پر نمک دان کو کھانے کی میز سے ہٹالیں، مطلب یہ ہے کہ اضافی نمک چھڑکنے کی عادت سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ نیز کپے ہوئے کھانوں میں نمک کی مقدار کم کر دیں، خاص طور پر اگر آپ کے خاندان میں بلند فشار خون، فالج اور دل کی بیماریوں کا رجحان ہو۔ ویسے بھی احتیاط نمک کم استعمال کرنے سے ان موذی امراض میں مبتلا ہونے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر اضافی نمک کے استعمال کی عادت پختہ ہو جاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوراک زود ہضم بنانے اور اس کی لذت میں اضافے کیلئے یہ ضروری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دراصل نمک کی لذت غیر محسوس طور پر بنتی جاتی ہے۔ اگرچہ بچے نمک بالکل پسند نہیں کرتے، لیکن اس کی لذت سے آشنائی کے بعد آہستہ آہستہ ان کی عادت بھی پختہ ہو جاتی ہے، لیکن اگر نمک شروع ہی سے کم لیا جائے تو اس کی آرزو نہیں رہتی۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ نمک کے کم استعمال سے جسم میں کیمیائی عنصر سوڈیم کی کمی واقع ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ سوڈیم کم ملے گا تو جسم کم سوڈیم کا تحفظ کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جسم سے نمک بالکل ختم نہیں ہو سکتا، کیوں کہ تمام کھانے کی اشیاء حتیٰ کہ پانی میں بھی نمک کی کچھ مقدار ضرور شامل ہوتی ہے۔

یاد رہے تمام بچے ہوئے کھانوں اور ڈبوں میں محفوظ کی ہوئی غذاؤں میں نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈبل روٹی کی ایک سلاٹس میں 200 ملی گرام سوڈیم ہوتا ہے۔ اس طرح پانچ سلاٹسز میں ایک گرام سوڈیم ہوگا، جو آپ کی پورے دن کی ضرورت کے برابر ہے۔ ایک اونس میں 420 گرام نمک، جب کہ آلو کے چپس، کورن چپس، چپوڑے، نمکو کی تمام ایشیا نمکین بادام، پستے وغیرہ میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر نمک کے علاوہ بیکنگ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈیم پایا جاتا ہے۔

دراصل نمک نہ صرف انسان کو چمکنے اور چاٹنے میں اچھا لگتا ہے بلکہ کئی غذاؤں کے مزے میں کئی گنا اضافہ بھی کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بچوں کی غذاؤں کی تیاری تک میں نمک کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک چار ماہ کا بچہ، جو گائے کا دودھ اور ٹھوس غذا کے لئے تجارتی خوراک استعمال کرتا ہے، اسے ماں کے دودھ کی نسبت پانچ گنا زیادہ سوڈیم ملتا ہے، جو بے جا اور نقصان دہ ہے۔ سوڈیم کم کرنے کے لئے بچے ہوئے کھانوں میں نمک کے کم استعمال کے علاوہ خوراک میں قدرتی غذاؤں کا اضافہ بے حد ضروری ہے۔ ان میں نہ صرف نمک کی مقدار کم ہو جاتی ہے بلکہ غذائیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ زیادہ پھل اور سبزیاں اس مقصد کے لئے بہترین ہیں۔

غذاؤں میں نمک کی کمی گر کے نہ صرف بلند فشار خون سے بچاؤ ممکن ہے، بلکہ ایسی خواتین، جنہیں سن یاس کی صورت میں پیروں، ٹخنوں، انگلیوں اور چہرے پر ورم آجاتا ہے ان کی شکایت بھی رفع ہو جاتی ہے۔ بڑھا ہوا وزن معمول پر آجاتا ہے۔ اور طبیعت بحال رہتی ہے۔ ان تمام فوائد کے پیش نظر آج ہی سے اپنے اور اپنے خاندان کے افراد پر اضافی نمک کے استعمال پر پابندی عائد کر دیجئے اور اس کے مفید اثرات سے استفادہ کرتے رہئے۔ جیسا کہ ہم نے مضمون کے شروع لکھا ہے۔

جس طرح وٹامنز انسانی جسم کی ضروریات ہیں اسی طرح نمکیات بھی جسم کی پرورش اور صحت کے لئے ضروری ہیں ان نمکیات میں سے اگر بدن میں کسی ایک کی بھی کمی واقع ہو جائے تو آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اسے کوئی نہ کوئی عارضہ گھیر لیتا ہے۔ بدن کی پرورش اور صحت کے قیام کے لئے از حد ضروری ہے کہ ہم اپنے بدن میں نمکیات کی کمی کو پورا کرتے رہیں ہماری صحت کے لئے ضروری نمکیات میں سے چند ایک بہت ہی اہم ہیں ان میں کیلشیم، آیوڈین، فاسفورس، پوٹاشیم، میگنیشیم، سوڈیم، سلفر، فولاد، تانبہ، فلورین، مینگنیز اور سیلیکا قابل ذکر ہیں۔

برص قونج، سے نجات کا غذائی علاج

ابو نعیم نے کتاب الطب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے علی! زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل کی ماش کیا کرو۔ اسلئے کہ جو شخص روغن زیتون کی ماش کرتا ہے اس کے پاس چالیس روز تک شیطان نہیں آتا۔

1 قرآن مجید نے زیتون اور اس کے تیل کا بار بار ذکر کر کے شہرت دوام عطا کر دی ہے۔

والنحل والزروع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابهها

كلوا من ثمره اذا اثمر (۱۹۱- م الانعام ۶)

(۔۔۔ اور کھجور اور حرروعات جن کے ذائقے ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور زیتون اور انار جن کی شکلیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور وہ جن کی شکلیں نہیں ملتیں تم اس کے پھلوں کو اس وقت خوب کھاؤ جب وہ پک جائیں۔ مگر ضائع نہ کرو)

2 وجنات من اعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه: انظر وا

الى ثمره اذا ثمر وينعه ان فى ذلكم الايت لقوم يثومنون -

(۹۹ ك، الانعام، ۶)

۱ (اس نے آسمان سے جو پانی برسایا اس کا کرشمہ تمہارے باغات ہیں۔ جن میں انگور۔

زیتون، انار اور دوسرے پھل اگتے ہیں۔ ان پھلوں میں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ظاہری

اس سے مراد درخت ایسی صورت میں استادہ ہے کہ سورج کی روشنی طلوع سے غروب تک اس پر کھل کر پڑتی ہے اور پھر ایک ایسا تیل پیدا کرتا ہے۔ جو پاک صاف اور چمک دار ہوتا ہے۔

5 فانشا نا بكم به جنت من نخيل واعناب لكم فيها فاكهة كثيرة
ومنھانا كلون و شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن و صبغ
للاكلين۔
(المؤمنون)

(اور پھر تم ایسے باغ اگاؤ گے جن میں کھجور۔ اور انگور کے علاوہ دوسرے پھل ہوں گے۔ اور یہ پھل تم رغبت سے کھاتے ہو۔ اور طور پہاڑ کے علاقہ میں وہ درخت ہے جس سے وہ تیل نکلتا ہے جو تمہاری روٹی کے ساتھ سالن کا کام دیتا ہے)

6 والتين والزيتون۔ و طور سينين و هذا البلد الامين۔

(۱ك۔ التين: ۹۵)

ان آیات میں غور طلب نکات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے درخت کو ایک مبارک یعنی برکت والا درخت قرار دیا۔ اس کے پھل کو اہمیت عطا فرمائی۔ پھر لوگوں کو متوجہ کیا کہ زیتون۔ کھجور۔ انار۔ اور انگور میں فوائد کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بشرطیکہ تم ان کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو۔ سورۃ الانعام کی دونوں آیات غور و فکر کے لئے تازیانہ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بات اس سے شروع ہوئی کہ آسمان سے پانی برستا ہے جس میں پینے کے ساتھ ساتھ جانوروں اور زراعت کیلئے اہمیت کے اسی تسلسل میں زیتون کا ذکر آیا اور اس کے ساتھ ہی دوسرے پھل بھی مذکور ہوئے۔ کھجور۔ انگور اور انار لذیذ میوے ہیں۔ اگر کوئی ان کی جانب متوجہ نہ بھی کر دے تو بھی لوگ ان کو خوشی خوشی کھاتے ہیں۔ مگر زیتون کا

ذائقہ ایسا نہیں کہ کوئی اس سے رغبت محسوس کرے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی جانب بار بار متوجہ کروانے کی ضرورت اور اس کے فوائد کے بارے میں روشنی دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پھل ذائقہ کے لئے نہیں فوائد کیلئے ہے۔ اس بارے میں نبی ﷺ نے بھی ایک جگہ اس کی نشان دہی کر کے فرمایا کہ یہ ستر بیماری کی دوا ہے۔ اب اس میں دلچسپی لے کر فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔

احادیثِ دنیوی

1 حضرت سید الانصاریؒ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
كلو الزيت واد هزابه - فانه من شجرة مباركة - (ترمذی ، ابن ماجہ ، دارمی)

(زیتون کے تیل کو کھاؤ اور اس سے جسم کی مالش کرو کہ یہ ایک مبارک درخت سے ہے)
یہی روایت حضرت ابوسعید الخدریؒ سے اور مستدرک الحاکم میں ابو ہریرہؓ سے بھی منقول ہے
2 حضرت علقمہ بن عامرؒ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

عليكم بزيت الزيتون ، كلوه وادهنوا به ، فانه تنفع من البواسير -

(ابن الجوزی)

(تمہارا ہے لئے زیتون کا تیل موجود ہے۔ اسے کھاؤ اور بدن پر مالش کرو کیونکہ یہ بواسیر میں فائدہ دیتا ہے)

3 عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداوا به فانه مصحة من

الباسور۔

(ابن السنی ، ابو نعیم)

(تمہارے پاس اس مبارک درخت سے زیتون کا تیل موجود ہے۔ اس سے علاج کرو کہ یہ باسور کو ٹھیک کر دیتا ہے)

یہ روایت عقیقہ بن عامرؓ سے مروی ہے جبکہ ذہنی نے بالائی روایت ان کے برادر مکرم علقمہ سے بیان کی اور اس میں لفظ بوا سیر ہے جبکہ یہاں باسور مذکور ہے۔ باسور سے مراد مقعد کا زخم ہے۔

4 کنز العمال نے مسند عمر اور ابراہیم بن ابی ثابت کی حدیث سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ روایت کرتے ہیں۔ جبکہ بیہقی اور ابن ماجہ نے اسے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔

ابتدا موا بالزبت وادھنوا بہ فانہ من شجرة مباركة۔

(زیتون کے تیل سے علاج کرو اسے کھاؤ اور لگاؤ۔ کیونکہ ایک مبارک درخت سے ہے)

(خالد بن سعدت روایت کرتے ہیں کہ میں غالب بن الجبر کے ہمراہ مدینہ آیا۔ رستے میں غالب بیمار ہو گئے۔ ان کی عیادت کو ابن ابی عتیق آئے اور بتایا کہ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلونجی میں شفا بتائی ہے۔ اس لئے کلونجی کے چند دانے کوٹ کو زیتون کے تیل میں ملا کر ناک کی دونوں اطراف میں ٹپکایا جائے۔ ہم نے ایسا کیا۔

(ابن ماجہ۔ بخاری)

تو غالب بن الجبر شفا یاب ہو گئے۔)

5 حضرت ابو ہریرہؓ روایت فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كلوا الزيت وادهنوا به فان فيه شفاء من سبعين داء منها الجذام -

(ابو نعیم)

(زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے لگاؤ کیونکہ اس میں ستر بیماریوں سے شفاء ہے جن میں سے

ایک کوزھ بھی ہے)

7 حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

كلوا الزيت وادهنوا به فانه طيب مباركة - (ابن ماجہ مالحاكم)

(زیتون کا تیل کھاؤ اسے لگاؤ کیونکہ یہ پاک صاف اور مبارک ہے)

8 حضرت زید بن ارقمؓ روایت کرتے ہیں۔

امرنا رسول الله صلى عليه وسلم ان نتداوى ذات العجب بالقسط

البحري والزيت - (ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ)

(ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ذات العجب (پلوری) کا علاج قسط

البحري (قسط شیریں) اور زیتون کے تیل سے کریں)

9 حضرت زید بن ارقمؓ روایت کرتے ہیں۔

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينعت الزيت والورس من ذات

العجب - (ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ)

(رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الجنب کے علاج میں درس اور زیتون کے تیل کی افادیت کی تعریف فرمایا کرتے تھے)

ذات الجنب کو پرانے اطباء نے نمونیہ قرار دیا ہے جبکہ نوعیت کے لحاظ سے یہ پوری ہے۔ اس کی تشریح میں امام عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں۔ قال اصحاب العلم ان الذات الجنب السئل۔ یعنی اصحاب علم بیان کرتے ہیں کہ ذات الجنب دراصل تپ دق ہے حقیقت یہ ہے کہ بیسویں صدی کی تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پوری کا عمومی سبب تپ دق ہوتا ہے یا سے دق کی ایک قسم قرار دے سکتے ہیں۔

10 محمد احمد ڈہنی نے سند روایت کے بغیر ابن الجوزی سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

من ادھن بزیت لم یقر بہ شیطان

(جس نے زیتون کے تیل کی مالش کی شیطان اس کے قریب نہ جائے گا)

زیتون میں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے خواص اور فائدے رکھے ہیں اگر اس کا اچار سرکہ میں ڈال کر کھائے تو معدہ قوی ہو جاتا ہے اور خوب بھوک لگتی ہے۔ اور اس کے کھانے سے آدمی تندرست رہتا ہے اور قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اگر زیتون کا مغز آٹے اور چربی میں ملا کر برص کی جگہ لگائیں تو انشاء اللہ تعالیٰ برص جاتا رہے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس کا شیرہ اپنے بدن کے اندر رکھے لے تو سیلان کو بند کر دیتا ہے۔ قونج کے لئے بھی مفید ہے

اگر کوئی شخص زیتون سے کلی کرے تو دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بچھو کے کانے پر لگانے سے اسی وقت ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ اس کا تیل بالوں کو سیاہ کرتا ہے اور سہلے کھول دیتا ہے۔ قبض رفع کرتا ہے اور زیتون کے لیپ سے درد سر جاتا رہتا ہے۔

پرانی کھانسی، حلق میں سوزش اور ورم میں غذائی علاج

حضرت قاسم بن عبد الرحمان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میتھی سے شفا حاصل کرو (الفوائد المجموعہ از علامہ شوکانیؒ)

ایک دوسری روایت جسے امام ذہبیؒ نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اگر میری امت میتھی کے فوائد کو پہچان لے تو اسے وہ سونے کے بھاؤ خریدنے سے بھی احتراز نہ کرے۔

اگر میتھی کا جوشاندہ بنا لیا جائے اور اسے استعمال کیا جائے تو حلق کی سوزش، ورم اور دکھن میں بہت ہی فائدہ مند ہے یہی جوشاندہ معدے کی جلن اور کھانسی کی شدت کو ختم کر دیتا ہے میتھی ایک ایسی مفید غذائی بوٹی ہے جو کھانسی کو رفع کرنے کے ساتھ ساتھ معدے کی بھی اصلاح کرتی ہے جبکہ کھانسی کی اکثر ادویات معدے کو متاثر کرتی ہیں اس کا جوشاندہ ہے اگر سرد ہو یا جائے تو سر کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی اندرونی جملی کو انتہائی فائدہ پہنچاتی ہے اور پھیپھڑوں سے بلغم کا اخراج کرتی ہے۔ جن عورتوں کو حیض کا خون بار بار آتا ہو ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔

میتھی کا ساگ صدیوں سے یونانی حکیموں نے ہماری غذا میں بطور سائل استعمال کرنے کا رواج دیا ہوا ہے۔ میتھی کا مزاج گرم ہے اور یہ معدہ سے تین گھنٹے میں

بہضم ہو کر آنتوں کی حرکت دودھیہ کو تیز کر کے اس میں رکے ہوئے زہریلے مادے خارج کر کے بدن کو ہلکا پھلکا بنانے والی ایک خوشبودار چٹ پٹی غذا ہے معدہ اور ہضم کی نالی میں تحریک پیدا کر کے ان کے ہضم کرنے والے ہارمونز (ہاضم رطوبتوں) کا اخراج بڑھا کر پیٹ کا اظہار اور گیس کم کرنے والی ایک سستی اور عمدہ سبزی ہے ایک پادساگ میں ایک چپاتی کے برابر غذائیت ہوتی ہے اس میں گوشت پیدا کرنے والے، کیشیم، پوٹاشیم، فولاد اور فوسفورس کے اجزا بھی شامل ہیں۔ اس کے بیجوں میں چھنی صدر غنی اجزاء ہوتے ہیں جو بدن کو غذا مہیا کرنے، سردی کے مقابلے میں جسم کو گرم رکھنے اور کمر کو مضبوط کرنے کی ایک گھریلو اور سستی دوا ہے حیاتین الف۔ ب اور ج اور کیڑے ٹین بھی قدرت نے اس میں سمویے ہیں بعض مقامات کی میتھی میں خوشبو زیادہ ہوتی ہے۔ قصور کی میتھی اپنی دل لبھانے والی خوشبو کی وجہ سے ممتاز حیثیت رکھتی ہے اس کے استعمال سے پاخانے میں بدبو کم اور پسینہ اور پیشاب کے راستے خارج ہونے والے فضلات میں تیز بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔

صبح نہار منہ تازہ میتھی کوٹ کر اس کا پانی آدھ سے دو چھٹانک تک، تین سے نو ماشے تک نمک ملا کر پینے سے کھل کر پاخانہ آنے سے معدہ کا بوجھ دور، سر ہلکا اور رکاب ہوا بلغم آسانی سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دست، آئیں اور مروڑ آنے لگیں تو دوسے چھ چھٹانک تک میتھی گھی میں تل کر سادہ یا چاولوں کے ساتھ ملا کر کھانے سے دست اور مروڑ رفع ہو جاتے ہیں چھوٹے بڑے جوڑوں کا درد اور سوجن دور کرنے کیلئے آدھا تولہ سے آدھ چھٹانک تک اس کے تخم کوٹ کر مناسب مقدار گھی اور گڑ ملا کر صبح بطور ناشتہ چند روز استعمال کرنے سے خدا کے فضل سے درد ختم اور جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔

سردیوں میں کمزور لوگ اور اعصابی کمزوری والے مریض پیشاب کر چکنے کے بعد دیر تک قطرے آتے رہنے سے پریشان رہا کرتے ہیں ایسے اصحاب اس کے تخم کوٹ

چھان کر دو چند شہد میں ملا کر معجون بنالیں۔ روزانہ صبح و شام چھ ماشے سے ایک تولہ تک یہ معجون کھا کر دودھ یا چائے کے ساتھ ایک ایک گولی حب جودی دو تین ہفتے استعمال کرنے سے قطرے آنے بند اور اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں۔

آدھے سے ایک تولہ تک اس کے بیج اور زیرہ سفید کوٹ کر گھی، گڑ یا کھانڈ یا شہد ملا کر نیم گرم کچھ دن کھاتے رہنے سے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں میں دودھ زیادہ پیدا ہونے لگتا ہے اور کمر بھی مضبوط ہو جاتی ہے اس دوا میں انڈہ ملا لیں تو زیادہ مفید ہو جائے۔

ایک سے تین تولے تک اس کے بیج پاؤ دو پاؤ دودھ میں دو تین جوش دے کر صاف کر کے بیٹھا ملا کر دو چار دن پینے سے بواسیر کا خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس کے بیج اور سونف درازرا کوٹ کر ایک ایک تولہ منقاج نکالاسات دانے ایک پاؤ پانی میں جوش دے کر چھان کر نیم گرم کھانڈ گڑ ملا کر اس کے ساتھ حب مدرا ایک گولی دو تین دن استعمال کرنے سے عورتوں میں ایام کی کمی دور ہو کر درد سے بھی آفاقہ ہو جاتا ہے۔ مکمل فائدہ کے لئے چند ماہ اسے استعمال کیا جائے۔

جلے ہوئے مقام پر اس کے پتوں کو پیس کر لیپ کرنے سے سوزش دور ہو جاتی ہے اس کے بیج اور اسپغول کو دہی میں ملا کر سر پر لگاتے رہنے سے بال گرنے بند ہو جاتے ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی غذاؤں اور دواؤں کا سائنسی تجزیہ

نیوٹریں	وٹامن سی	وٹامن بی 2	وٹامن بی 1	وٹامن اے	فولاد Iron	چونا (کیلشیم)	چربی	نشاستہ	روغنیات	لحمیات (پروٹین)	حرارے	مقدار پانی	
0.2	8	.03	0.03	--	0.7	0.3	0.2	18	True	1.0	77	80.0	انار
0.3	20	0.03	0.03	Ture	1.3	12	2.8	13	True	1.0	36	83	انجیر
0.3	5	0.02	0.04	50	0.3	20	0.5	18	True	1.0	76	80.0	انگور
15	12	0.02	0.02	True	0.6	5	1.5	15	True	0.4	60	83	بہی
2.1	6	0.11	0.44	6	1.0	54	3.0	--	0.4	3.1	305	22.6	تمر ہندی (اٹلی)
0.02	3	0.04	True	0.5	1.5	30	0.5	11.0	True	1.5	48	87	پیاز (بصل)
0.1	1.0	0.15	.04	150	0.1	120	--	4.7	316	3.3	64	88	دودھ گائے
.08	2.0	0.1	.05	200	0.2	200	--	4.9	7.5	3.8	159	83	دودھ بھینس
0.1	--	0.02	300	30	2.0	90	1.2	--	13.5	1.5	144	75.2	زیتون
0.2	5	0.02	1.4	20	0.3	4	1.0	14	0.4	0.3	61	84	سیب

--	--	.05	--	10.0	300	69	--	--	True	--	286	24	شہد
0.6	9	0.8	0.1	15	1.4	38	1.1	--	0.2	5.3	140	63.8	لبسن (ٹوم)
4.5	True	0.5	.03	True	1.0	50	--	True	3.5	18.0	95	78	مچھلی
2.0	True	0.2	0.5	1.0	7	70	4.0	59	1	24	339	1000	سور (عدس)
0.6	9	0.08	0.1	15	1.4	38	1.1	--	0.2	5.3	140	63.8	مکھن
4.5	--	.15	.07	--	2.5	10	--	--	22	16	362	61	گوشت گائے
9.0	--	.15	.1	--	1.5	15	--	--	7	19	139	73	پرندوں کا گوشت
30	--	.34	0.12	150	40	10	--	--	1.8	17.5	95	77.5	تلی
73	30	9.5	0.32	20000	10	10	--	55	4.0	20	136	70	بجر
7.0	--	0.9	0.6	200	4.5	10	--	--	7.0	160	129	75	دل
400	--	0.3	.1	--	9.6	12	--	--	14	16.2	194	68.5	زبان
7	12	2	0.3	1.000	10	10	--	--	7	16	127	75	گردہ

احادیث میں مذکورہ امراض

یہاں ہم ان امراض کی فہرست ترتیب حروف ابجد پیش کرتے ہیں جن کا ذکر اور علاج احادیث نبویؐ میں آیا ہے۔ علامات مرض، اس کے عوامل و اسباب اور علاج بھی درج ہے۔





علاج	امراض	نمبر شمار
الکتاة (کھنسی)	آنکھیں چندھیانا (عمش)	1
الکتاة (کھنسی)	آشوب چشم (رمد)	2
شہد	اسہال (استطلاق بطن)	3
آپریشن	استسقا	4
بہی (سفرجل) بچوہ کھجور	امراض قلب	5
ٹھنڈا پانی	بخار	6
بچوہ۔ جتا۔ آپریشن	چھنسی پھوڑہ	7
ریشمی لباس کی اجازت	خارش (علکہ)	8
قسط۔ عود ہندی	خناق	9
درس۔ زیت	ذات الجنب (نمونہ)	10
چٹائی (حصیر) کی راکھ	زخم	11
بچوہ (کھجور)	زہر	12
جتا	سر درد (صداع)	13
قسط۔ عود ہندی	گلے پڑنا	14
دُنِب کی چکی	عرق النساء	15
سنا۔ شہرم	مسہل (اسہال کیلئے)	16
تلہینہ	معدہ کی درد	17
پھینے لگوانا	موج (وٹا)	18
درس۔ زیت	نمونہ	19

حضور اکرم ﷺ کی غذائیں

کدو	آنا بغیر چھنا
کھجور-----تمر	پیلو
-----عجوة	تربوز
ککڑی-----برنی	شہید
گوشت-----بکری	ثفل
گوشت دُجاج (مرغ)	جو کی روٹی
گوشت پرندوں کا	جباری (پرنده)
گوشت گردن کا	حلوه
گوشت دست، شانہ	خُمز (روٹی)
گوشت بھنا ہوا	دودھ
مچھلی	زیتون اور اس کا تیل
بکھن	سرکہ، بطور سالن
نمک، بطور سالن	شہد
سفرجل (بہی)	کباث

کتابیات

- 1 ﴿ قرآن مجید
- 2 ﴿ بخاری شریف
- 3 ﴿ مستدرک حاکم
- 4 ﴿ کتاب المفردات
- 5 ﴿ ترمذی شریف
- 6 ﴿ مشکوٰۃ شریف
- 7 ﴿ زاد المعاد جلد دوم
- 8 ﴿ مسلم شریف
- 9 ﴿ الطب النبوی ابن جوزی
- 10 ﴿ سفر سعادت
- 11 ﴿ الفوائد المجموعہ از علامہ شوکانی
- 12 ﴿ سنن ابن ماجہ
- 13 ﴿ نسائی شریف
- 14 ﴿ الطب نبوی ﷺ علامہ ذہبی
- 15 ﴿ سیرۃ النبی ﷺ از علامہ شبلی نعمانی
- 16 ﴿ سیرۃ رحمت العالمین از منصور پوری
- 17 ﴿ طب نبوی ﷺ اور جدید سائنس از ڈاکٹر خالد غزنوی
- 18 ﴿ نبوی ﷺ شب و روز از مولوی محمد احسان
- 19 ﴿ نبوی ﷺ طریقہ علاج از علامہ احمد شوق
- 20 ﴿ نبوی نسخہ حیات از محمد ادریس لدھیانوی
- 21 ﴿ جدید میڈیکل سائنس از ڈاکٹر خالد محمود
- 22 ﴿ طب یونانی کے حیرت انگیز کارنامے
- 23 ﴿ رسول اکرم ﷺ کا طریق زندگی
- 24 ﴿ مہربات امام غزالی
- 25 ﴿ مہربات امام سیوطی



500 ح 212



مکتبہ المصطفیٰ

32- لیکن روڈ، چوک ایس جی آفس لاہور

Ph: 042-7239138

E-Mail: makkidarulkutab@hotmail.com